


یہ کتاب

اپنے بچوں کے لیے scan کی بیرون ملک مقیم ہیں  
مومنین بھی اس سے استفادہ حاصل کرسکتے ہیں۔



منجانب۔

سبیل سکینہ

یونٹ نمبر ۸ لطیف آباد حیدرآباد پاکستان



۷۸۶

۹۲-۱۱۰

یا صاحب الزماں اور کئی

DVD  
Version

# لبیک یا حسینؑ

نذر عباس  
خصوصی تعاون: رضوان رضوی

اسلامی کتب (اردو) DVD

ڈیجیٹل اسلامی لائبریری -

www.ziaraat.com

SABIL-E-SAKINA

Unit#8,

Latifabad Hyderabad  
Sindh, Pakistan.

www.sabelesakina.page.fl

sabelesakina@gmail.com

NOT FOR COMMERCIAL

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ  
"اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی"

## فضائل صحابہ و اہل بیت ﷺ

مصنف

پیر طریقت، راہبر شریعت، مفکر اسلام حضرت

علامہ سید شاہ تراب الحق قادری

دامت برکاتہم العالیہ



### افکار اسلامی

اسلام آباد، کراچی

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

کتاب	..... فضائل صحابہ و اہل بیت ﷺ
مصنف	..... پیر طریقت علامہ سید شاہزاد اب الحق قادری البیلانی دامت برکاتہم العالیہ
مرتب	..... حافظ قاری محمد آصف قادری
پروف ریڈنگ	..... حافظ قاری محمد عارف قادری
معاونین	..... عمران جاوید قادری، شاہد علی قادری (اسلام آباد)
	..... محمد رئیس قادری، محمد اشرف قادری (کراچی)
تاریخ اشاعت	..... محرم الحرام ۱۴۲۷ھ / فروری ۲۰۰۶ء
ناشر	..... افکار اسلامی (اسلام آباد، کراچی)

### ﴿ ملنے کے پتے ﴾

- ☆..... مکتبہ انوار القرآن، مین مسجد، مصلح الدین گارڈن، کھارادر، کراچی
- ☆..... مکتبہ افکار اسلامی، جامع مسجد کنز الایمان، آئی ٹی ون، اسلام آباد
- ☆..... ضیاء القرآن پبلی کیشنز، گنج بخش روڈ، اردو بازار لاہور
- ☆..... حنفیہ پاک پبلی کیشنز، نزد بسم اللہ مسجد، کھارادر، کراچی
- ☆..... مکتبہ قادریہ، داتا دربار مارکیٹ، نزد ستا ہوٹل، لاہور



## فہرست

صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	سیدنا عمر فاروق ؓ		تقاریظ علمائے کرام
	فضائل عمر ؓ قرآن میں		پیش نظر
	موافقات سیدنا عمر ؓ		صحابہ کون ہیں؟
	موافقات اور فرست عمر ؓ		شان صحابہ ؓ، قرآن میں
	فضائل عمر ؓ احادیث میں		صحابہ کرام کے لیے مغفرت
	سیدنا عمر ؓ اور علم دین		مومنوں کی تین اقسام
	آپ کے اسلام کی دعا		صحابہ گناہ سے محفوظ ہیں
	آپ سے شیطان ڈرتا ہے		شان صحابہ احادیث میں
	فضائل ابو بکر ؓ قرآن میں		صحابہ کے متعلق خدا سے ڈرو
	فضائل ابو بکر ؓ احادیث میں		صحابہ ؓ کے طفیل رحمتیں
	فضائل کے لیے عمر نوح ؑ		سیدنا ابوبکر صدیق ؓ
			﴿﴾
	انکی محبت ایمان کی علامت		فضائل ابو بکر ؓ قرآن میں
	سیدنا عثمان غنی ؓ		آپ کی صحابیت کا منکر کافر
	فضائل عثمان ؓ قرآن میں		آپ سب سے افضل ہیں
	اے اطمینان والی جان!		فضائل ابو بکر ؓ احادیث میں
	فضائل عثمان ؓ احادیث		آپ حضور ﷺ کے محبوب
	میں		
	فرشتے بھی حیا کرتے ہیں		سب سے افضل کون ہے؟
	یہ جو کریں، کوئی گناہ نہیں		آپ کو اللہ کے حکم سے امام بنایا
	چالیس بیٹیاں ہوتیں تو!		سب سے بہادر کون؟
صفحہ	عنوانات	صفحہ	عنوانات
	اہل بیت اطہار کون؟		خلافت کی قمیص نہ اتارنا
	فضائل اہلبیت قرآن میں		المرامات کی حقیقت
	آیت تطہیر اور احادیث		حضور ﷺ کا علم غیب
	قربت داروں کی محبت		سیدنا علی مرتضیٰ ؓ
	آل پر بھی درود بھیجو		فضائل علی ؓ، قرآن میں

اہلیت اطہار ﷺ کا ایثار  
 سینوں سے کیسے نکال لیے  
 ولی کا معنی خلیفہ نہیں ہو سکتا  
 فضائل علی ﷺ، احادیث میں  
 ابو تراب تو بیارانا نام ہے  
 علی ﷺ مجھ سے ہیں اور!  
 محبت میں غلو کرنے والا  
 آپ کا چہرہ دیکھنا عبادت  
 معجزہ رؤ الشمس

منافق میں چار کی محبت نہیں  
 علی ﷺ مومنوں کے دوست  
 فضائل عشرہ مبشرہ  
 جہنم کی بھٹک نہ سنیں گے  
 فضائل عشرہ، احادیث میں  
 خلفائے اربعہ کے اوصاف

صفحہ

عنوانات

سوار بھی بہت خوب ہے!  
 جنتی جوانوں کے سردار ہیں  
 ان سے بغض رکھنے والا جہنمی  
 سجدے طویل فرما دیے  
 ابن زیاد نے چھڑی ماری  
 دیگر اہلبیت کے فضائل  
 سیدنا عباس و ابن عباس رضی اللہ عنہما  
 سیدنا حمزہ بن عبد المطلب ﷺ  
 سیدنا جعفر و ابن جعفر رضی اللہ عنہما  
 سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما  
 ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن  
 انکی شان میں قرآنی آیات  
 حیات انبیاء بعد از وصال

عیسائیوں سے مبالغہ  
 حضور ﷺ کی چار صاحبزادیاں  
 اللہ کی رسی، اہلبیت ہیں  
 حب علی ﷺ اور بغض صحابہ؟  
 فضائل اہلبیت، احادیث میں  
 اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ  
 محبت اہلبیت، کشتی نوح ﷺ  
 سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ عنہا  
 مومنہ عورتوں کی سردار ہیں  
 اس کی ناراضگی میری ناراضگی  
 عورت کے لیے سب سے بہتر  
 جنتی عورتوں کی سردار ہیں  
 اہل محشر! اپنی نگاہیں جھکا لو  
 سیدنا حسن و حسین رضی اللہ عنہما  
 ان سے محبت مجھ سے محبت ہے

صفحہ

عنوانات

ام المومنین سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا  
 ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا  
 ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا  
 ام المومنین سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا  
 تعدد ازواج کی حقیقت  
 خلافت راشدہ قرآن میں  
 سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا لشکر، اللہ کا لشکر  
 حضور ﷺ کی فتوحات  
 تمکین اور اقامت دین  
 مردین سے پہلا جہاد  
 عظیم خوزیر جنگ، جنگ یمامہ  
 مہاجرین صحابہ کی صداقت  
 کھیتی کے چار مراحل

امام اوشین سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا	خلافتِ شیعین کی خوشخبری
امام اوشین سیدہ سوورہ رضی اللہ عنہا	خلافتِ راشدہ حدیث میں
امام اوشین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا	صحابہ کا اجماع حجت ہے
امام اوشین سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا	خلیفہ بلا فصل، ابو بکر <small>ؓ</small>
امام اوشین سیدہ زینب بنت خزیمہ	خلافت کی ترتیب
امام اوشین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا	خلافت کا زیادہ مستحق کون؟
امام اوشین سیدہ زینب بنت جحش	خدا کے حکم سے امام بتایا
صفحہ	عنوانات
صفحہ	عنوانات
خلافت، آسمانی کتب میں	مشاجرات صحابہ کرام
من کنت مولاه فعلی مولاه	سیدنا امیر معاویہ <small>ؓ</small> اور یزید
آپ کی ہارون <small>ؑ</small> سے تشبیہ	شہادتِ امام حسین <small>ؓ</small>
حدیث قرطاس کی تشریح	امام پاک <small>ؓ</small> اور یزید پلید
حضور کیا لکھوانا چاہتے تھے؟	یزید فاسق و فاجر تھا
خلیفہ بلا فصل کون؟	مدینہ منورہ پر یزیدی حملہ
مسئلہ فدا کی حقیقت	مکہ مکرمہ پر یزیدی حملہ
حدیث "لا نورث" کے راوی	کیا یزید مغفور ہے؟
کیا سیدہ ناراض ہوئیں؟	پہلے لشکر میں یزید نہیں تھا
کیا علی <small>ؓ</small> نے بھی ظلم کیا؟	یزید کس حدیث کا مصداق؟
سیدنا علی کب بیعت ہوئے؟	حدیث میں یزیدی فتنہ کی خبر
چند شہادت کا ازالہ	امت کی ہلاکت کا سبب
سبائی فتنہ کی ابتدا	سیدنا ابو ہریرہ <small>ؓ</small> کی دعا
سیدنا امیر معاویہ <small>ؓ</small>	صحابہ کی باہم محبت
آپ کی فضیلت میں احادیث	سیدنا ابو بکر <small>ؓ</small> و سیدنا علی <small>ؓ</small>
علی <small>ؓ</small> مجھ سے افضل ہیں	سیدنا عمر <small>ؓ</small> و سیدنا علی <small>ؓ</small>
حضور <small>ؐ</small> کی سلطنت شام میں	عمر <small>ؓ</small> نہیں تو علی <small>ؓ</small> راضی نہیں
خلافتِ راشدہ تیس سال ہوگی	سیدنا علی <small>ؓ</small> اور عظمتِ شیعین
علی <small>ؓ</small> کی شہادت پر روئے	حضراتِ شیعین و ائمہ اہلبیت
امام حسن <small>ؓ</small> کی شہادت	امام زین العابدین <small>ؓ</small> کا فتویٰ

## تقریظ جلیل

استاذ العلماء علامہ مولانا محمد عبدالحکیم شرف قادری مدظلہ العالی  
سابق شیخ الحدیث جامعہ نظامیہ رضویہ، لاہور  
☆☆☆☆

بسم اللہ الرحمن الرحیم

(العصر، ۱۱/۱۱/۱۱) علی رسولہ (الکریم)

ایک مسلمان کے لیے مرکبِ محبت و اطاعت اللہ تعالیٰ کی ذاتِ اقدس ہے۔ اس کے حکم کی بناء پر تمام مخلوق سے زیادہ محبت، عقیدت اور اطاعت اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے،

”تم فرماؤ، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ، اور تمہاری کمائی کے مال، اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، اور تمہارے پسند کا مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم (یعنی عذاب) لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ (ہدایت) نہیں دیتا“۔ (التوبہ: ۲۴، کنز الایمان)

نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے، لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَتَىٰ مِنْ وَالِدِهِ وَوَالِدَتِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ۔

”تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اُسے اُسکے والد، اُس کی اولاد اور سب لوگوں سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں“۔ (متفق علیہ)

حضور ﷺ کے بعد چونکہ جس مخلوق سے بھی محبت کی جائے گی وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ کے تعلق اور نسبت کی بناء پر ہوگی، اس لیے ایک مسلمان کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب ﷺ کے بعد سب سے مقدس ہستیاں اہل بیت کرام اور صحابہ کرام ﷺ کی ہیں۔ اہل سنت و جماعت دونوں سے محبت و عقیدت رکھتے ہیں اور رکھنی بھی چاہیے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں،

اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور ﷺ

نجم ہیں اور ناؤ ہے عترت رسول اللہ کی ﷺ

پیش نظر کتاب ”فضائل صحابہ و اہل بیت“ اہل سنت و جماعت کے نامور عالم، مبلغ اسلام، پیر طریقت حضرت مولانا سید شاہ تراب الحق قادری دامت برکاتہم العالیہ کی تصنیفِ لطیف ہے، جس میں انہوں نے بڑے عمدہ انداز میں صحابہ و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے فضائل و مناقب بیان کیے ہیں اور اختلافی مسائل میں اہل سنت و جماعت کا موقف بھی بیان کیا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو بات کی ہے باحوالہ کی ہے۔ مختصر یہ کہ یہ ایک ایمان افروز کتاب ہے جس کا مطالعہ ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔

اللہ تعالیٰ حضرت شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا فیض نادر اور دراز تک جاری و ساری رکھے، آمین یا رب العالمین۔

و صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین

محمد عبدالحکیم شرف قادری

لاہور

۵ ذوالحجہ ۱۴۲۶ھ

۶ جنوری ۲۰۰۶ء

## تقریظ جلیل

مفسر قرآن علامہ مفتی عبدالرزاق چشتی بھتر الوکی مدظلہ العالی  
شیخ الحدیث جامعہ جماعتیہ مہر العلوم راولپنڈی  
☆☆☆☆

الحمد لله ساتر العيوب وغافر المنوب وقابل المنوبة واليه التوب والمصلوة والسلام على سيدنا محمد المحبوب وعلى آله واصحابه الميامين  
جاهدوا في سبيل الله ياموالمهم وانفسهم وما مسهم من لغوب اما بعد  
فادعو ذبالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

وَمَا كُمْ إِلَّا تَنَفُّوْا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ لَا يَسْئُوْنِيْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ اُولٰٓئِكَ اَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِيْنَ  
اَنْفَقُوْا مِنْ مَّ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا وَاَسْأَلُ اللّٰهَ الْحُسْنٰى وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿١٠﴾ (الحديد: ١٠)  
”اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو حالانکہ آسمانوں اور زمین میں سب کا وارث (مالک) اللہ ہی ہے۔ تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے  
قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے  
کاموں کی خبر ہے۔“

(کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ)

اس آیت کریمہ سے بہت واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تمام صحابہ کرام سے جنت کا وعدہ ہے ہاں البتہ جن صحابہ کرام نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی  
راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا ان کا مرتبہ بلند ہے نسبت ان صحابہ کرام کے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا۔  
خیال رہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم وہ حضرات ہیں جنہوں نے حالت ایمان میں نبی کریم ﷺ کی صحبت اختیار کی ہو، یعنی آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل  
کیا ہو اور حالت ایمان پر ہی دنیا سے رخصتی حاصل ہو۔

لہذا مطلقاً صحابہ کرام کا لقب جب بولا جائے گا تو وہ تمام صحابہ کرام کو شامل ہوگا، اسی کے ضمن میں اہل بیت اطہار بھی آئیں گے اور خلفائے راشدین بھی، تاہم  
بالخصوص خلفائے راشدین اور اہل بیت کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں موجود ہیں۔  
قال رسول الله ﷺ اصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔

(رواہ زین عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں جن کی بھی اقتداء کرو گے ہدایت پا جاؤ گے۔

وعن ابي ذر رضي الله عنه قال وهو احد بياب الكعبة سمعت النبي يقول الا ان مثل اهل بيبي فيكم مثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها  
هدك۔

(رواہ احمد، مشکوٰۃ باب مناقب اہل البیت)

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کعبہ شریف کے دروازے کو پکڑے ہوئے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، خبردار! بیشک میرے اہل بیت تم  
میں اس طرح ہیں جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ جو اس میں سوار ہو گیا وہ نجات پا گیا، اور (کفر کی وجہ سے) پیچھے ہٹا رہا وہ ہلاک ہو گیا۔  
فكذلك من التزم محبتهم ومنايعتهم نجا في الدارين والا فهلك فيهما۔

(مرقاۃ ج ۱ ص ۳۹۹)

اسی طرح جس نے اہل بیت کی محبت کو لازم پکڑا اور ان کی تابعداری کی وہ دونوں جہانوں یعنی دنیا و آخرت میں نجات پا گیا، اور جس نے اہل بیت سے محبت  
نہ کی اور ان کی تابعداری نہ کی تو وہ دونوں میں ہلاک ہو گیا۔

”ولو كان يفرق المال والجاه او احدهما“ اس کے مال خرچ کرنے اور اس کے مرتبہ ووجاہت کا اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔

وحسنه الصغاني في كشف الحجاب شبه المذيا بما فيها من الكفر والضلالات والمبدع والمجهالات والا هواء الزائغة ببحر لبحي يغشاها موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعد وقد احاط باكتافه واطرفه الارض كلها وليس منه خلاص ولا مناص الا تلك السفينة وهي محبة اهل بيت الرسول وما احسن انضمامه مع قوله مثل اصحابي مثل النجوم من القدي بشيء منه اهندي۔ (مرقاة ج ۱۱ ص ۴۰۴)

علامہ صفائی رحمہ اللہ نے کشف الحجاب میں بہت خوب بیان کیا ہے کہ دنیا اور اس میں پائی جانے والی گمراہیاں اور کفر، بدعات اور جہالتیں اور غلط قسم کی خواہشات کو سمندر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ سمندر میں بہت زیادہ طغیانی ہو، موجوں پر موجیں ہوں، اور سخت سیاہ بادل بھی چھائے ہوئے ہوں جنہوں نے زمین کے کناروں کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہو تو اس حالت میں بغیر کشتی اور ستاروں کی راہنمائی کے نجات ممکن نہیں۔ اسی طرح گمراہی سے بچنے کے لیے رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کفر و جہالت، گمراہی و بدعات سے چھٹکارا ممکن نہیں۔ اور صحابہ کرام کو رسول اللہ ﷺ نے ستاروں کی طرح فرمایا ہے۔

اس سے پتہ چل گیا کہ جب تک ستاروں سے راہنمائی حاصل نہ کی جائے تو کشتی کا کنارے پر پہنچنا ممکن نہیں۔

خوب تر سے خوب ترین:

ونعم ما قال الامام فخر الدين الرازي في تفسيره نحن معاشر اهل السنة بحمد الله وكينا سفينة محبة اهل البيت واهلنا بنجم هدى اصحاب النبي فرجو النجاة من احوال القيامة ودركات الجحيم والهداية الى مايو جب درجات الجنان والمعيم المقيم۔ (مرقاة ج ۱۱ ص ۴۰۴)

امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں کیا خوب فرمایا ہے کہ ہم اہل سنت وجماعت وحمد اللہ محبت اہل بیت کی کشتی پر سوار ہیں، اور نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام جو ستاروں کی طرح ہیں، ان سے ہدایت حاصل کر رہے ہیں۔ ہم امید رکھتے ہیں قیامت کی ہولناکیوں سے نجات حاصل کرنے کی، اور جہنم کے مقامات سے بچنے کی، اور امید رکھتے ہیں جنت کے اعلیٰ مقامات کو حاصل کرنے کی اور دائمی نعمتوں کے حصول کی۔

وعن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله ﷺ المله الله في اصحابي لا تنخلوهم غرضا من بعدى فمن احبهم فحبي احبهم ومن ابغضهم فبغضى ابغضهم ومن اذاهم فقد اذاني ومن اذاني فقد اذى الله ومن اذى الله فيوشك ان ياخذله۔ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابة)

عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد ان کو مورد طعن و تشنیع نہ بنانا۔ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری محبت کی وجہ سے ہی ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ہی ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو اذیت پہنچائی اس نے مجھے اذیت دی اور جس نے مجھے اذیت دی تحقیق اس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی، جس نے اللہ تعالیٰ کو اذیت دی قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے گرفت میں لے لے۔

وعن ابن عباس قال قال رسول الله ﷺ احبوا الله لما يغذوكم من نعمه واحبوني لاحب الله واحبوا اهل بيته لحيي۔ (رواہ الترمذی، مشکوٰۃ باب مناقب اہل بیت النبی)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ اس نے نعمت کا رزق عطا کر رکھا ہے، اور اللہ کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ محبت رکھو، اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔

بس ایمان اسی چیز کا نام ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہل بیت رضی اللہ عنہم کی محبت حاصل ہو۔

واتفق اهل السنة افضلهم ابو بكر ثم عمر قال جمهورهم ثم عثمان ثم علي۔ اہلسنت وجماعت کا اتفاق ہے کہ تمام صحابہ کرام سے افضل حضرت ابو بکر پھر حضرت عمر اور جمہور صحاب علم کا یہ قول ہے کہ پھر حضرت عثمان اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ۔

قال ابو منصور البغدادي اصحابنا مجمعون على ان افضلهم الخلفاء الاربعة على الترتيب المذكور ثم تمام العشرة ثم اهل بدر ثم احد ثم بيعة

المرضوان ومن له منزلة اهل العقبنين من الانصار وكذلك السابقون الاولون وهم من صلى الى القبلتين -

ابومنصور بغدادی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہمارے اصحاب کا اس مسئلہ میں اجماع ہے کہ خلفائے راشدین کی جو ترتیب خلافت میں پائی گئی ہے وہی ان کے درجات میں بھی ہے۔ سب سے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں وہی سب سے افضل ہیں۔ اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں اور اس لحاظ پر دوسرا مرتبہ آپ کا ہے۔ اور تیسرے مرتبہ پر خلیفہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، اس لحاظ پر تیسرا مرتبہ آپ کو حاصل ہے۔ اور چوتھے خلیفہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، اس لحاظ پر آپ کا درجہ چوتھا ہے۔

پھر مرتبہ عشرہ مبشرہ کو حاصل ہے پھر بدر میں شریک صحابہ کرام کا مقام ہے پھر درجہ غزوہ احد میں میں شریک حضرات کا ہے پھر بیعت رضوان والوں کا ہے پھر وہ انصار جنہوں نے عقبہ اولیٰ اور ثانیہ پر بیعت کی پھر السابقون الاولون، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی۔

واما علی رضی اللہ عنہ فخلافته صحيحة بالا جماع وكان هو الخليفة في وقته لا خلافة لغيره - حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت صحیح ہے اس مسئلہ پر اہل سنت و جماعت کا اجماع ہے۔ جب آپ خلیفہ تھے اس وقت کوئی اور خلیفہ نہیں تھا۔

واما معاوية رضی اللہ عنہ فهو من العلول والفضلاء والمصحابه النجباء -

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ عادل اور فضلاء اور عظیم المرتبت صحابہ کرام سے ہیں۔

صحابہ کرام کے اختلافات پر ارشاد مصطفوی:

وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم يقول سألت ربي عن اختلاف اصحابي من بعدى فاوحى اليّ يا محمد ان اصحابك عندى بمنزلة النجوم في السماء بعضها اقوى من بعض ولكل نور فمن اخذ بشئ مما هم عليه من اختلافهم فهو عندى على هدى - (رواه رزين، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابة)

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اپنے رب سے میرے بعد میرے صحابہ میں واقع ہونے والے اختلافات کے بارے میں سوال کیا تو رب تعالیٰ نے میری طرف وحی کی کہ اے محمد! بیشک تمہارے صحابہ میرے نزدیک اس طرح ہیں جس طرح آسمان پر ستارے ہیں۔ جس طرح ستارے بعض بعض پر قوی ہیں، ایسے ہی تمہارے صحابہ کے بعض کے بعض پر درجات بلند ہو گئے، ہر ایک کو نور حاصل ہو گا۔ جس شخص نے ان میں سے کسی کے قول پر بھی عمل کیا تو میرے نزدیک ہدایت پر ہو گا۔

صحابہ کرام کے اختلافات میں صحابہ کی تین قسمیں ہو گئیں:

جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی آپس میں جنگ ہوئی تو،

فقسم ظهر لهم بالا جهاد وان الحق في هذا الطرف وان مخالفه باغ فوجب عليهم نصرته وقاتل الباغى عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك ولم يكن يحل لمن هذه صفة التأخر عن مساعدته امام العدل في قتال البغاة في اعتقاده وقسم عكس هؤلاء ظهر لهم بالا جهاد وان الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقاتل الباغى عليه، وقسم ثالث اشبهت عليهم القضية وتحيروا فيها ولم يظهر لهم ترجيح احد الطرفين فاعزلوا الفريقين وكان هذا الاغترال هو الواجب في حقهم۔

صحابہ کرام کی جنگوں میں بعض صحابہ کرام نے ایک فریق کو حق پر سمجھا اور دوسرے کو ناحق۔ ان پر واجب ہو گیا کہ وہ حق کا ساتھ دیں، وہ پہلے فریق کے ساتھ ہو گئے۔ اور بعض حضرات نے دوسرے فریق کو حق پر سمجھا اور پہلے فریق کو ناحق سمجھا، ان پر واجب ہو گیا کہ وہ دوسرے فریق کا ساتھ دیں اور پہلے سے دور رہیں۔ اور بعض لوگوں پر مشتبہ رہا، وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ حق پر کون اور ناحق کون ہیں، ان پر واجب ہو گیا کہ وہ کسی ایک کا بھی ساتھ نہ دیں کیونکہ ناحق کا ساتھ دینا ظلم ہے۔

فكلهم معدورون وللهلذا اتفق اهل الحق ومن يعند به في الاجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم وكمال عدالتهم رضی اللہ عنہم اجمعین۔

تمام صحابہ کرام کو آپس میں جنگوں کے مسئلہ میں معذور سمجھا گیا، اسی مسئلہ پر اہل حق کا اتفاق ہے اور جن حضرات کا شریعت میں اجماع معتبر ہے وہ بھی اس مسئلہ پر متفق ہیں کہ تمام صحابہ کرام کی کواہیاں اور روایات اور کامل عدالت معتبر ہے۔

(ماخوذ از نووی شرح مسلم ج ۲ باب فضائل الصحابة)

اہل علم کی تحقیق سے انحراف کا نتیجہ:

مذکورہ بالا جو اہل علم کی تحقیق پر مبنی بحث پیش کی، جب اس سے انحراف کیا گیا تو کوئی گستاخ اہل بیت بن گیا اور کوئی گستاخ صحابہ کرام بن گیا۔  
من لم يدخل السفينة كالغوارج هلك مع الهالكين في اول وهلة ومن دخلها ولم يهتد بنجوم الصحابة كالروافض ضل ووقع في ظلمات ليس بخارج منها۔

جو اہل بیت کی محبت کی کشتی پر سوار نہ ہوا خارجیوں کی طرح تو وہ ابتدائی مرحلہ میں ہی ہلاک ہو گیا، اور جو کشتی میں تو سوار ہو گیا لیکن محبت صحابہ کرام سے ہدایت حاصل نہ کی جو ستاروں کی طرح ہیں تو وہ رافضیوں کی طرح گمراہی کی تاریکیوں میں بھٹکتا ہی رہے گا، اسے نکلنے کی کوئی راہ نظر نہیں آئے گی۔  
اس بھنور سے نکلنے کی راہ:

رواہ احمد عن انس مرفوعاً ان مثل العلماء في الارض كمثل النجوم في السماء يهتدي بها في ظلمات الير والبحر فاذا انطمت النجوم اوشك ان تضل الهداة۔ (مرقاۃ ج ۱ ص ۴۴۴)

حضرت انس رضی اللہ عنہ نے مرفوع حدیث بیان کی (یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا) کہ علماء زمین میں اس طرح ہیں جس طرح آسمان میں ستارے ہیں، ستاروں سے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں ہدایت حاصل کی جاتی ہے، اگر ستارے بے نور ہو جائیں تو راہنما بھٹک جائیں۔

حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ علماء کرام بھٹکے ہوئے لوگوں کو راہ راست پر لاتے ہیں۔ ان اصحاب علم میں سے ہادی برحق، واصل الی الحق، محبت الحق، (پیر طریقت، راہبر شریعت) حضرت علامہ شاہ تراب الحق قادری مدظلہ العالی بھی ہیں جو اپنے زہد و تقویٰ اور تحقیق بھری حسین تقاریر سے تو پہلے ہی لوگوں کی راہنمائی فرما رہے تھے، لیکن اب آپ نے تھوڑے سے عرصہ میں بہت بڑا تصنیفی کام کیا ہے۔

اب زیر نظر کتاب ”فضائل صحابہ و اہلبیت“ میں آپ نے صحابہ کرام کی شان اور اہل بیت کی شان قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے تصنیف فرما کر بھٹکی ہوئی دنیا کو راہ راست پر لانے کی عظیم کوشش فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور قارئین کرام کو اس کتاب سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان کی عاقبت سنور جائے۔ آمین ثم آمین۔

خاکپائے اولیاء کرام و علماء کرام،

عبدالرزاق بھٹہ الوی عطاروی





واقفیت کی تباہی کا سبب ہے۔ سہل بن عبد اللہ ستیری رحمہ اللہ کا ارشاد ہے: ”وہ شخص ایمان ہی نہیں لایا جس نے آپ کے اصحاب کی تعظیم نہیں کی۔“ حضور ﷺ کا فرمانِ عالیشان ہے، جب میرے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہو تو خاموش رہا کرو یعنی انکے متعلق اچھی بات کہو ورنہ خاموش رہو۔ (الصواعق الخرقہ: ۳۲۳)

بعض لوگ نہ جانے کیوں صحابہ کرام اور اہلبیت اطہار سے بغض رکھتے ہیں۔ ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ ”امام حسینؑ صحابی نہیں تھے کیونکہ صحابی ہونے کے لیے حضور ﷺ کے ساتھ ملاقات کے وقت بالغ ہونا شرط ہے۔“ حالانکہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے شرح بخاری میں لکھا ہے کہ بالغ ہونے کی شرط مردود ہے۔ امام بخاری، امام احمد اور جمہور محدثین رحمہم کا یہی قول ہے۔ (فتح الباری: ۷: ۳)

حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ امام حسینؑ کے صحابی ہونے کے متعلق فرماتے ہیں، ”بیشک وہ مسلمانوں کے سردار اور علماء صحابہ میں سے ہیں۔“ (البدایہ والنہایہ ۸: ۲۰۳)

امام حسنؑ و امام حسینؑ صرف صحابی نہیں بلکہ صاحبِ روایت صحابی ہیں۔

امام ابن عبد البر رحمہ اللہ قسطنطنیہ میں، حسینؑ نے نبی کریم ﷺ سے حدیث روایت کی ہے۔ (الاستیعاب: ۱: ۱۳۵)

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ کی کو اہی ملاحظہ کیجیے۔ حسینؑ نے اپنے جد پاک رسول کریم ﷺ سے روایت کی ہے۔ (تہذیب التہذیب ۲: ۲۳۵)

امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے بھی سنن میں امام حسینؑ سے حدیث پاک روایت کی ہے۔

امام اعظم ابوحنیفہ کے شاگرد امام محمد کے شاگرد امام شافعیؒ فرماتے ہیں،

يَا أَهْلَ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ خُذُوا قِرْصَ "مَنْ اللَّهُ فِي الْقُرْآنِ أَنْزَلَهُ

”اے رسول اللہ ﷺ کے بھائی بیت! تم سے محبت رکھنا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں، جس کو اُس نے نازل کیا، فرض قرار دیا ہے۔“

يَكْفِيكُمْ مِنْ عَظِيمِ الْقَدْرِ إِنَّكُمْ مَنْ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْكُمْ لَا صَلَوةَ لَكُمْ

”تمہاری عظمت و شان کے لیے یہی بات کافی ہے کہ جو تم پر درود نہ پڑھے، اس کی نماز نہیں۔“ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا،

إِذَا نَحْنُ قَضَيْنَا عَلَيْهَا فَإِنَّا زَوَّافُنْ بِاللَّفْظِ عِنْدَ ذِي الْجَهْلِ

”جب ہم نے حضرت علیؑ کی فضیلت کو بیان کیا تو بیشک ہم فضیلت بیان کرنے کی وجہ سے جاہلوں کے نزدیک رافضی ہو گئے۔“

وَقَضَىٰ أَيْسَىٰ بَكَرٍ إِذَا مَا ذَكَرْتَهُ زَمِيثٌ بِنَصْبٍ عِنْدَ ذِكْرِي لِلْفَضْلِ

”اور جب ہم سیدنا ابو بکرؓ کے فضائل بیان کرتے ہیں تو اس وقت ہم پر ناصبی ہونے کا الحرام لگایا جاتا ہے۔“

إِنْ كَانَ رِفْضًا حُبُّ آلِ مُحَمَّدٍ فَإِنَّ شَهْدَ الشُّقْلَانِ أَنِّي زَافِضٌ

”اگر آل محمدؑ سے محبت ہی کا نام رِفْض ہے (جیسا کہ جاہلوں کا گمان ہے) تو دونوں جہان کو اہر ہیں کہ بیشک میں رافضی ہوں۔“

زیر نظر کتاب حضرت شاہ صاحب، امّت، مہتمم اللہ نے تالیف فرمائی اور الحمد للہ! مجھ فقیر کو اس کی ترتیب کی سعادت ملی۔ اگر اہل علم کوئی غلطی پائیں تو ضرور مطلع فرمائیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اسے درست کیا جاسکے۔ رب تعالیٰ اسے نافعِ خلاق اور ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین بجاہ سید المرسلین۔

کیا بات رضا اُس چمنستانِ کرم کی زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول

خاکپائے صحابہ و اہلبیت، محمد آصف قادری



جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے خدا کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا اور اس کی راہ میں جہاد کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان نفوسِ قدسیہ میں بھی حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی ؓ نمایاں مقام رکھتے ہیں۔

3- وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ مَّعْبُدٍ مَا ظَلَمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَا جَزَاءَ لِكَبِيرٍ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ○ (النحل: ۴۱)

”اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھربار چھوڑے مظلوم ہو کر، ضرور ہم انہیں دنیا میں اچھی جگہ دیں گے اور بیشک آخرت کا ثواب بہت بڑا ہے، (کاش!) کسی طرح لوگ جانتے۔“ (کنز الایمان)

4- وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ آوَوْا وَنَصَرُوا أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○ (الأنفال: ۷۴)

”اور وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں لڑے اور جنہوں نے جگہ دی اور مدد کی، وہی سچے ایمان والے ہیں، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

ان آیات کریمہ میں مہاجرین و انصار صحابہ کرام کی شان بیان ہوئی۔ رب تعالیٰ نے خوشخبری دی کہ ان کے لیے دنیا میں بھی عزت و بلند مقام ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ آخر الذکر آیت کریمہ سے یہ بھی ثابت ہوا کہ مہاجرین و انصار تمام صحابہ کرام سچے مومن اور متقی ہیں۔ غور فرمائیے کہ جن نفوسِ قدسیہ کے سچے مومن ہونے کی رب تعالیٰ کو ابھی دے اور جن کی لغزشوں کی مغفرت کی سند مالک الملک عطا کرے، ان کے ایمان و اعمال پر کسی کو تنقید کا حق کیوں کر دیا جاسکتا ہے؟؟

5- لِيُفْقَرَاءَ الْمُشْجَرِينَ الَّذِينَ آخَرُوا مِنْ دِينِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يُبْغُونَ فِضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○ (الحشر: ۸)

” (مالِ غنیمت) ان فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ و رسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔“ (کنز الایمان از امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

اس آیت مقدسہ سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام جنہوں نے ہجرت کی، وہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رضا مندی کے طالب ہیں، دین اسلام کے مددگار ہیں اور دین میں سچے ہیں۔ ایسے جلیل القدر مقدس نفوس کے صادق و صدیق ہونے میں شک کرنا یا ان کی عظمت کا انکار کرنا درحقیقت قرآنِ عظیم کے انکار کے مترادف ہے۔

6- وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ مَّعْبُدٍ هُمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلَا خَوَاتِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ

رَبُّنَا وَفِي رَحْمَتِكَ ○ (الحشر: ۱۰)

”اور وہ جو ان (مہاجرین و انصار صحابہ کرام ؓ) کے بعد آئے، عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے بیشک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔“ (کنز الایمان)

ان آیات مبارکہ سے معلوم ہوا کہ جس کے دل میں صحابی کی طرف سے بغض یا کدورت ہو اور وہ ان کے لیے دعائے رحمت و استغفار نہ کرے، وہ مومنین کی اقسام سے خارج ہے کیونکہ یہاں مومنین کی تین قسمیں فرمائی گئیں۔ مہاجرین، انصار اور ان کے بعد والے جو ان کے تابع ہوں اور ان کی طرف دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔

تو جو صحابہ سے کدورت رکھے رافضی ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان تینوں قسموں سے خارج ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، لو کون کو حکم تو یہ دیا

گیا کہ صحابہ کے لیے استغفار کریں اور کرتے یہ ہیں کہ گالیاں دیتے ہیں۔ (خزائن العرفان)

7- اَلْسَابِثُونَ الْعَمِيدُونَ الْمُحْمَدُونَ السَّائِحُونَ الرَّكْعُونَ السَّجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ○ (التوبة: ۱۱۴)

”توبہ والے، عبادت والے، سراہنے والے، روزے والے، رکوع والے، سجدہ والے، بھلائی کے بتانے والے اور برائی سے روکنے والے اور اللہ کی حدیں نگاہ میں رکھنے والے، اور خوشی سناؤ مسلمانوں کو۔“ (کنز الایمان)

8- إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَّتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمُ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ○ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ○ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ ○ (الانفال: ۲۲۴)

”ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ یاد کیا جائے، انکے دل ڈرجائیں اور جب ان پر اس کی آیتیں پڑھی جائیں، ان کا ایمان ترقی پائے اور اپنے رب ہی پر بھروسہ کریں۔ اور وہ جو نماز قائم رکھیں اور ہمارے دیے سے کچھ ہماری راہ میں خرچ کریں۔ یہی سچے مسلمان ہیں، انکے لیے درجے ہیں انکے رب کے پاس اور بخشش ہے اور عزت کی روزی۔“ (کنز الایمان از امام احمد رضا محدث بریلوی ج ۱ ص ۱۵۷)

مذکورہ بالا دونوں آیتوں میں جو صفات بیان ہوئیں وہ سب صحابہ کرام ؓ میں موجود ہیں اس لیے قرآن عظیم کی کو اہی سے تمام صحابہ کرام بہیم اللہوں سچے مومن ہیں اور انکے لیے مغفرت اور بلند درجے ہیں۔

9- لَكِنَّ الرُّسُلَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ○

”لیکن رسول اور جو انکے ساتھ ایمان لائے، انہوں نے اپنے مالوں اور جانوں سے جہاد کیا اور انہیں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد کو پہنچے۔ اللہ نے انکے لیے تیار کر رکھی ہیں بہشتیں جن کے نیچے نہریں رواں، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ یہی بڑی مراد لینی ہے۔“ (التوبة: ۸۸، ۸۹، کنز الایمان)

10- الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَكْثَرُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ○ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُّقِيمٌ ○ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ○ (التوبة: ۲۴، ۲۵)

”وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچے۔ ان کا رب انہیں خوشی سنانا ہے اپنی رحمت اور اپنی رضا اور ان باغوں کی جن میں انہیں دائمی نعمت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، بیشک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔“ (کنز الایمان)

سرکارِ دو عالم ﷺ کے جاٹا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ان صفات سے کامل طور پر متصف تھے، انکے جنتی ہونے کے متعلق قرآن عظیم کی یہ آیات گواہ ہیں۔ رب کریم نے جو ہر شخص کا ماضی، حال اور مستقبل خوب جاننے والا ہے، اُس علام الغیوب نے جن نفوسِ قدسیہ کے متعلق رحمت، رضا، جنت اور کامیابی کی خوشخبری سنائی ہے، ان میں سے کسی ایک کے بھی ایمان یا تقویٰ کا انکار ان آیات قرآنی کا انکار ہے۔

11- وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالشَّهَادَةُ عِنْدَ رَبِّهِمْ لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ ○ (الحديد: ۱۹)

”اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائیں وہی ہیں کامل سچے، اور اوروں (یعنی دوسروں) پر گواہ ہیں اپنے رب کے یہاں، انکے لیے ان کا ثواب اور ان کا نور ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکہ میں صحابہ کرام کی شان یہ بیان ہوئی کہ وہ صدیقیت کے مقام پر فائز ہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم کی بتائی ہوئی تمام باتوں کی

تصدیق کرتے تھے۔ اور رب کریم کا حکم ہے، تَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔

حضرت ضحاک، صحابہ نے صدیق کا ایک خاص معنی بیان کیا ہے وہ یہ کہ جن حضرات نے اسلام لانے میں سبقت کی اولاً وہ مقام صدیقیت پر فائز ہوئے۔ جن میں حضرت ابو بکر، حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت زید، حضرت سعد اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہم، ہمیں شامل ہیں بعد میں جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو ان کی نیت کی صداقت کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مقام صدیقیت پر فائز کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز ملا کہ وہ صدیقیت کے مقام میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بعد سب سے افضل ہیں۔ (تفسیر بنوری، تفسیر مظہری)

12 - إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○ (الحجرات: ۱۵)

”ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔“ (کنز الایمان)

یہ تمام صفات صحابہ کرام علیہم السلام میں موجود تھیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے سچے ہونے کی کوئی ہی دی۔

13 - وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّشِدُونَ ○ فَضَلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○ (الحجرات: ۸، ۷)

”لیکن اللہ نے تمہیں ایمان پیارا کر دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں میں آراستہ کر دیا اور کفر اور حکم عدولی اور نافرمانی تمہیں ناگوار کر دی، ایسے ہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں۔ (ان پر) اللہ کا فضل اور احسان، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ تمام صحابہ کرام کفر و فسق اور گناہ سے محفوظ ہیں اور رب تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا فرما کر انہیں راہ حق پر ثابت قدم بنا دیا ہے۔ ان کے دل ایمان اور تقویٰ سے مزین اور معمور ہیں لہذا ان میں کوئی بھی فاسق نہیں۔

متعدد آیات پہلے بیان ہوئیں جن میں رب تعالیٰ نے صحابہ کرام کے لیے مغفرت اور جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ اسلئے اگر بالفرض کسی صحابی سے کوئی اجتہاد ہی لغزش سرزد ہو بھی جائے تو اُسے تو بہ کی توفیق ضرور نصیب ہوتی ہے۔

14 - وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ○ (ال عمران: ۱۵۲)

”اور بیشک اس نے تمہیں معاف کر دیا، اور اللہ مسلمانوں پر فضل کرتا ہے۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

15 - وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ ○ (ال عمران: ۱۵۵)

”اور بیشک اللہ نے انہیں معاف فرمادیا، بے شک اللہ بخشنے والا علم والا ہے۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

اس سے معلوم ہوا کہ اُحد کی جنگ میں جن مومنوں کے قدم اکھڑ گئے، ان کی معافی ہوگئی۔ اب جو ان کے اس واقعہ کو انکی توجہ کی نیت سے بیان کرے وہ بے ایمان ہے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کا گندم کھا لینا معاف ہو چکا، اب جو ان پر طعن کرے وہ کافر ہے۔ بلکہ جس تصور کی معافی کا رب اعلان فرمادے وہ ہماری طاعتوں سے بہتر ہے کہ جن کی قبولیت کا کوئی یقین نہیں۔ (تفسیر نور العرفان)

16 - وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ ○ (البقرہ: ۱۳)

”اور جب ان (منافقوں) سے کہا جائے کہ ایمان لاؤ جیسے اور لوگ (یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم) ایمان لائے ہیں تو کہیں، کیا ہم انہوں کی طرح ایمان لے آئیں، سنتا ہے وہی احمق ہیں مگر جانتے نہیں۔“ (کنز الایمان)

17 - فَإِنِ امْنُوا بَمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا ○ (البقرہ: ۱۳۶)

”پھر اگر وہ بھی یوں ایمان لائے (اے صحابہ!) جیسا تم لائے، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

ان آیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو ایمان کی کسوٹی قرار دیا گیا ہے۔ ان آیات سے معلوم ہوا کہ مومن وہی ہے جس کا ایمان صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایمان کی طرح ہو۔ نیز جو ان کے ایمان پر تنقید کرے وہ منافق و احمق ہے۔

18 - كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ - (ال عمران: ۱۱۰)

”تم بہتر ہو ان سب امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں، بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ کے اولین مصداق اور مخاطب صحابہ کرام علیہم الرضوان ہیں جو ان صفات کے کامل مظہر تھے۔ قرآن کریم نے ان کے ایمان کی اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی صفات کی کوہنی دیکرا کی عظمت بیان کی۔

19 - مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَاللَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُوعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَنَهُ فَازْرَأَهُ فَاسْتَغَلَطَ فِاسْتَوَى عَلَى سَوْفِهِ يَعْجِبُ الزَّرَّاعُ لِيَعْظِطَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○ (فتح: ۲۹)

”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ ان کی علامت ان کے چہروں میں ہے سجدوں کے نشان سے، یہ انکی صفت توریت میں ہے اور انکی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیر ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے (یعنی ابتدا میں اسلام کے ماننے والے کم تھے رب کریم نے صحابہ کے ذریعے اسے طاقت دی اور اللہ و رسول ﷺ کو صحابہ کرام پیارے بھلے لگتے ہیں) تاکہ ان سے کافروں کے دل حلیمیں، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور اچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

اس آیت مقدسہ میں صحابہ کرام علیہم الرضوان کی صفات بیان ہوئیں کہ وہ آپس میں مہربان و نرم دل ہیں اور کافروں پر سخت ہیں۔ یہ بھی ارشاد ہوا کہ انکی صفات توریت و انجیل میں بھی مذکور ہیں۔ اس آیت کریمہ سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کی راہ حق پر استقامت اور باہم خلوص و محبت دیکھ کر اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ تو خوش ہوتے ہیں مگر کافروں کے دل جلنے کڑھنے لگتے ہیں۔ جن کے ایمان و تقویٰ کی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ کوہنی دی ہے اور ان سے جلنے والوں کو کافر بتایا ہے حیرت ہے کہ آج بعض لوگ مومن ہونے کے مدعی ہونے کے باوجود ان محبوبان خدا ﷺ سے کینہ و عداوت رکھتے ہیں اور ان پر تہمت لگانے پر تیار ہوتے ہیں۔ اگر تعصب کی وجہ سے کسی کی آنکھیں حق دیکھنے سے بالکل اندھی نہ ہو گئی ہوں تو اسے چاہیے کہ وہ اس آیت مقدسہ کو بار بار پڑھے اور غور کرے کہ اس کا عقیدہ سچے مومنوں کا سا ہے یا کافروں کا۔ رب کریم حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین۔

بعض گمراہ کہتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں مِنْهُمْ میں من یعنی ہے یعنی مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ تمام صحابہ کرام کے لیے نہیں بلکہ بعض صحابہ کے لیے ہے۔ یہ قول باطل و مردود ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ من حرف جار ہے اور علمائے لغت نے اس کے استعمال کی چودہ صورتیں بیان کی ہیں۔ اس آیت کریمہ میں قرآن کریم کی متعدد آیات کی طرح من بیان کے لیے ہے تعبیض کے لیے نہیں۔ جیسا کہ یہ آیت ہے، فَا جَسَبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْاَوْثَانِ (الحج: ۳۰) ”پس دور رہو بتوں کی گندگی سے۔“

اس آیت کریمہ میں من بیان کے لیے ہے تعبیض کے لیے نہیں ورنہ لازم آئے گا کہ بعض بتوں کی پوجا سے دور رہو اور بعض کی پوجا کرتے رہو۔ شیعہ مفسر طوسی نے بھی اپنی تفسیر التبیان میں مذکور ہوا آیت کے تحت یہی لکھا ہے کہ ”مِنْهُمْ میں من بیان کے لیے آیا ہے کہ مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ مخصوص ہے، ان کے سوا دوسروں کے لیے نہیں۔“ (التبیان ص ۳۲۸ جلد ۹ مطبوعہ نجف اشرف)

20 - اِنَّ الْاٰلِدِيْنَ يَتَّبِعُوْنَكَ اِنَّ مَّا يَتَّبِعُوْنَ اِلَّا يَتَّبِعُوْنَ اِلٰهَ فَوْقَ اَبْدِيْهِمْ -

”وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ (دستِ قدرت) ہے۔“ (کنز الایمان)

اس بیعت سے مراد بیعت رضوان ہے جو نبی کریم ﷺ نے کم و بیش چودہ سو صحابہ سے حدیبیہ میں لی تھی۔ شیخ رسالت کے ان پروانوں کو یہ اعزاز ملا کہ قرآن کریم نے انکی بیعت کو اللہ تعالیٰ سے بیعت کرنا فرمایا اور حضور اکرم ﷺ کے دستِ مبارک کو اللہ تعالیٰ نے اپنا دستِ قدرت قرار دیا۔

21 - لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَضْحًا قَرِيبًا ○ (الف: ۱۸)

”بیشک اللہ راضی ہوا، ایمان والوں سے جب وہ اس بیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر اطمینان اتارا اور انہیں اور آنے والی فتح کا انعام دیا۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ بیعت رضوان والے تمام صحابہ مخلص مومن ہیں اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رضا کا مژدہ دیا ہے۔ ان نفوسِ قدسیہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے جبکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف سے حضور اکرم ﷺ نے خود بیعت کی تھی۔ شیعہ مفسر طبرسی نے اس آیت کے تحت لکھا ہے،

”فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْيَقِينِ وَالصَّبْرِ وَالْوَفَا“

یعنی اللہ تعالیٰ نے جان لیا جو ان (صحابہ کرام) کے دلوں میں یقین، صبر اور وفا کے جذبات تھے۔ (مجمع البیان، جلد اول، صفحہ ۱۱۲)

22 - هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ - (الف: ۲۷)

”وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں اطمینان اتارا تاکہ انہیں یقین پر یقین بڑھے۔“ (کنز الایمان)

23 - فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَىٰ وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا - (الف: ۲۶)

”تو اللہ نے اپنا اطمینان اپنے رسول اور ایمان والوں پر اتارا اور پرہیزگاری کا کلمہ ان پر لازم فرمایا، اور وہ اس کے زیادہ سزاوار اور اسکے اہل تھے۔ اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

ان آیات سے معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ اور انکے صحابہ کرام کو اطمینان و سکون کی دولت سے مالا مال کیا اور انکے لیے کلمۃ التقویٰ لازم فرمایا۔ مفسرین کے نزدیک کلمۃ التقویٰ سے مراد کلمۃ توحید ہے جو ہر تقویٰ کی اصل اور بنیاد ہے۔ یہ نعمتیں علیم و حکیم رب نے صحابہ کرام کو بے سبب نہیں عطا کیں بلکہ وہ علماء الغیوب کو اہی دے رہا ہے کہ صحابہ کرام ان نعمتوں کے زیادہ مستحق اور اہل تھے۔ انصاف سے کہیے کہ جن کے ایمان و تقویٰ کے اور انعاماتِ الہیہ کے مستحق و اہل ہونے کی اللہ تعالیٰ کو اہی دے، ان کے متعلق بدگمانی کرنا یا ان پر تنقید کرنا کیا کسی مومن کو زیب دیتا ہے؟؟؟

قاضی ثناء اللہ پانی پتی اس آیت کے تحت لکھتے ہیں، ”راضی کہتے ہیں کہ صحابہ کرام (معاذ اللہ) کافر و منافق تھے۔ اس آیت ”لقد رضی اللہ“ سے روافض کے قول کا لغو ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس آیت کے آخر میں ارشاد ہوا، وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں جو ایمان اور رسول اللہ ﷺ کی محبت مخفی ہے، اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔“ (تفسیر مظہری)

24 - قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ - (النمل: ۵۹)

”تم کہو، سب خوبیاں اللہ کو اور سلام اس کے چنے ہوئے بندوں پر۔“ (کنز الایمان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان برگزیدہ بندوں سے مراد رسول کریم ﷺ کے صحابہ کرام ہیں، یہی سدی، حسن بصری، سفیان بن عیینہ اور سفیان ثوری رحمہم اللہ علیہم جیسے اکابر ائمہ کا قول ہے۔ (تفسیر مظہری، از لائبریری الخفاء ج: ۱، ص: ۲۰۶)

جس مسلمان نے دیکھا انہیں اک نظر اُس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام



شان صحابہ، احادیث کی روشنی میں:

- 1- حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا،  
 ”میری امت میں بہترین زمانہ میرا ہے پھر ان کے ساتھ والوں کا اور پھر ان کے ساتھ والوں کا“۔ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)  
 اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کو منتخب فرما کر اپنا محبوب رسول بنایا اس لیے آپ خیر الخلاق ہیں، آپ کا دین خیر الادیان ہے، آپ کی کتاب خیر الکتاب ہے، آپ کی امت خیر لأمم ہے، آپ کا زمانہ خیر القرون ہے اسی طرح آپ ﷺ کے اصحاب بھی خیر الاصحاب ہیں۔
- 2- حضرت ابو بردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا ﷺ نے فرمایا،  
 ”ستارے آسمان کے لیے اس کا باعث ہیں۔ جب ستارے چلے جائیں گے تو آسمان پر واقع ہو جائے گا جس کا اُس سے وعدہ کیا گیا ہے۔ میں اپنے صحابہ کے لیے اس ہوں جب میں چلا جاؤں گا تو میرے صحابہ پر واقع ہو جائے گا جس کا اُن سے وعدہ کیا گیا ہے۔ اور میرے صحابہ میری امت کے لیے اس و لمان ہیں جب میرے صحابہ چلے جائیں گے تو میری امت پر واقع ہو جائے گا جو اس سے وعدہ کیا گیا ہے۔“ (مسلم، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)  
 جب قیامت آئے گی تو پہلے آسمان سے ستارے جھڑیں گے پھر آسمان پھٹے گا کوہِ ستاروں کا موجود ہونا آسمان کے لیے اس ہے۔ اسی طرح نبی کریم ﷺ کی ظاہری حیات میں صحابہ کرام فتنوں اور اختلافات سے محفوظ رہے۔ اور صحابہ کرام کی موجودگی میں امت میں کوئی فتنہ پنپ نہ سکا البتہ صحابہ کرام کے بعد دین میں فتنہ و فساد پھیل گیا اور کئی گمراہ فرقے پیدا ہوئے۔

3- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،

”میرے کسی صحابی کو برانہ کہو کیونکہ تم میں سے اگر کوئی اُحد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو ان کے ایک مُد یا اس کے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پہنچے گا۔“  
 (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)

ایک صاع کے چوتھائی حصہ کو مُد کہتے ہیں۔ کوہِ مُد کی مقدار ایک سیر دو چھٹا تک بنتی ہے۔ اب حدیث پاک کا مفہوم یہ ہوا کہ غیر صحابی کتنا ہی نیک ہو اور راہِ خدا میں اگر اُحد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے تو بھی ثواب و درجہ میں کسی صحابی کے خیرات کیے ہوئے ایک سیر دو چھٹا تک بلکہ اسکے نصف کے ثواب کو بھی نہیں پاسکتا۔ جب صحابہ کرام کی خیرات کا یہ بلند رتبہ ہے تو انکی نمازوں، روزوں، زکوٰۃ و جہاد اور دیگر عبادات کا کس قدر اعلیٰ مقام ہوگا۔!!!

4- حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور مجسم ﷺ نے فرمایا، ”میرے صحابہ کی عزت کرو کیونکہ وہ تم میں بہتر ہیں پھر وہ لوگ جو ان سے متصل ہیں پھر وہ لوگ بہتر ہیں جو انکے ساتھ والے ہیں۔“ (نسائی، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)

جن لوگوں نے صحابہ کرام کا زمانہ پایا انہیں تابعین کہتے ہیں اور جنہوں نے تابعین کا زمانہ پایا وہ تبع تابعین ہیں۔ اس حدیث پاک میں صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے بہتر اور بھلائی پر ہونے کی کو اہی دی گئی ہے اور ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم ان بہترین لوگوں کی تعظیم و توقیر کریں اور ان کا ذکر ہمیشہ خیر ہی کے ساتھ کریں۔

5- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا کریم ﷺ نے فرمایا، ”اُس مسلمان کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والے کو دیکھا۔“ (ترمذی، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)

اس حدیث پاک سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام و تابعین عظام کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی کیونکہ وہ رب کریم کی خاص رحمت سے جنت کے مستحق ہوتے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، رسول کریم ﷺ کے جلیل القدر صحابی اور امام اعظم ابوحنیفہ رضی اللہ عنہ عظیم المرتبت تابعی ہیں۔ ان کی گستاخی و بے

اولی سخت جرم اور رتبت الہی سے محرومی کا باعث ہے۔

6- حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا،

”میرے صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، میرے صحابہ کے متعلق اللہ سے ڈرنا۔ میرے بعد انہیں نشانہ نہ بنا لینا۔ جو ان سے محبت کرتا ہے تو وہ مجھ سے محبت کرنے کی وجہ سے ان سے محبت کرتا ہے اور جو ان سے عداوت رکھتا ہے تو وہ مجھ سے عداوت رکھنے کی وجہ سے ان سے عداوت رکھتا ہے۔ جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی تو قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے پکڑے۔“

(ترمذی، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)

معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان سے بغض و کینہ رکھنا اور ان پر تنقید کرنا درحقیقت حبیب کبریٰ علیہ التیہ والہاء سے عداوت رکھنا اور انہیں اذیت دینا ہے اور آقا ﷺ کو اذیت دینا دراصل اللہ تعالیٰ کو اذیت دینا ہے اور ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے قہر و غضب کے مستحق ہیں۔

7- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نور مجسم ﷺ نے فرمایا، ”میری امت میں صحابہ کی مثال نمک کی سی ہے کیونکہ نمک کے بغیر کھانا درست نہیں ہوتا۔“ (مشکوٰۃ)

یعنی جس طرح نمک کی قلیل مقدار کھانے کو درست کر دیتی ہے اسی طرح صحابہ کرام قلیل تعداد میں ہونے کے باوجود تمام امت کی اصلاح کا ذریعہ ہیں۔ بلکہ کسی ایک صحابی کے وجود مسعود کو مسلمان رب تعالیٰ کی رحمتوں کے نزول کا ذریعہ اور فتح و نصرت کے حصول کا وسیلہ سمجھتے تھے جیسا کہ اگلی حدیث سے واضح ہے۔

8- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا ﷺ نے فرمایا، ”لوگوں پر ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا کہ ایک جماعت جہاد کرے گی تو لوگ کہیں گے، کیا تم میں رسول اللہ ﷺ کا کوئی صحابی ہے، جو اب ملے گا، ہاں۔ پس انہیں فتح دی جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ایک جماعت جہاد کرے گی تو لوگ کہیں گے، کیا تم میں رسول اللہ ﷺ کے صحابی کا کوئی ساتھی ہے؟ جو اب ملے گا، ہاں۔ پھر انہیں فتح دی جائے گی۔ پھر لوگوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ ایک جماعت جہاد کرے گی تو کہا جائے گا، کیا تم میں صحابہ کے ساتھی کا کوئی ساتھی ہے؟ جو اب ملے گا، ہاں۔ پس انہیں فتح دی جائے گی۔“ (بخاری، مسلم، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)

یعنی صحابہ کے طفیل پھر تابعین کے طفیل پھر تبع تابعین کے طفیل مسلمانوں کو جہاد میں فتح و نصرت عطا ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ رب تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے وسیلے سے رحمتیں نازل فرماتا ہے پس حاجت روائی کے لیے محبوبانِ خد اور اولیاء اللہ کا وسیلہ اختیار کرنا اور ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے۔

9- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، ”جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہتے ہوں تو کہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت۔“ (ترمذی، مشکوٰۃ باب مناقب الصحابہ)

اس حدیث پاک میں غیب کی خبر دی گئی کہ مسلمانوں میں ایسے گمراہ لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کرام کے متعلق بد کوئی اور زبان درازی کریں گے۔ نیز ایسے گمراہ بد مذہب، صحابہ کرام کے زمانے ہی میں پیدا ہو جائیں گے، یہ دوسری غیبی خبر ہے چنانچہ عبد اللہ بن سبا یہودی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دور میں مذہبِ رفس ایجاد کیا (اسکی تفصیل آگے مذکور ہوگی)۔ اسی زمانے میں خارجی فرقہ پیدا ہوا۔ خوارج اہل بیت اطہار کے دشمن ہیں اور رؤف صحابہ کرام کے دشمن ہیں۔ خدا ہمیں دونوں کے شر سے بچائے آمین۔

10- حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا ﷺ نے دو جہاں ﷺ نے فرمایا، ”میں نے اپنے رب سے اپنے صحابہ کے اختلاف کے متعلق سوال کیا جو میرے بعد

ہوگا تو میری طرف وحی ہوئی، اے محمد مصطفیٰ ﷺ! تمہارے اصحاب میرے نزدیک آسمان کے ستاروں کی طرح ہیں کہ بعض بعض سے قوی ہیں لیکن سب نورانی ہیں۔ جس نے ان میں سے کسی کے بھی موقف کو اختیار کیا وہ میرے نزدیک ہدایت پر ہے۔“ راوی کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ”میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، تم ان میں سے جس کی پیروی کرو گے ہدایت ہی پاؤ گے۔“ (مشکوٰۃ باب مناقب الصحابة)

حدیث پاک میں مذکور اختلاف سے فقہی مسائل میں اختلاف مراد ہے۔ پس جو کسی صحابی کے فتویٰ پر عمل کرے گا ہدایت پائے گا۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جلیل القدر صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی تہلیل فرماتے ہیں۔ اس موضوع پر تفصیل جاننے کے لیے فقیر کی کتاب ”سیدنا امام اعظم“ ملاحظہ فرمائیں۔

رسول کریم ﷺ کی شان میں قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ”اے غیب بتانے والے! بیشک ہم نے تمہیں بھیجا حاضر و ناظر اور خوشخبری دینا اور ڈر سنانا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانا اور چمکادینے والا آفتاب بنا کر۔“ (الاحزاب: ۳۵، ۳۶)

یہاں حضور ﷺ کی صفت سر اجا میرا ارشاد ہوئی یعنی چمکادینے والا آفتاب۔ بقول صدر الافاضل رحمہ اللہ، ”حقیقت میں آپ ﷺ کا وجود مبارک ایک ایسا آفتاب عالم تاب ہے جس نے ہزار ہا آفتاب بنا دیئے۔“ (تفسیر خزائن العرفان)

پس اس آیت مبارکہ اور مذکورہ حدیث سے ثابت ہوا کہ نور مجسم ﷺ کی بابرکت صحبت کی تاثیر اس قدر ہے کہ انکی نورانیت سے صحابہ کرام بیہودہ نورانی ہو گئے اور آسمان ہدایت کے ستارے قرار پائے۔

11 - حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو رسول کریم ﷺ کے دل کو سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا۔ لہذا ان کو برگزیدہ کیا اور رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ حضور ﷺ کے قلب اطہر کے بعد رب تعالیٰ نے دوبارہ بندوں کے قلوب کو دیکھا تو (انبیاء کرام کے بعد) آپ کے اصحاب کے دلوں کو سب سے بہتر پایا لہذا انکو اپنے محبوب رسول ﷺ کا وزیر بنا دیا تا کہ وہ آپ کے دین کے طرف سے (کافروں کے خلاف) لڑتے رہیں۔

(از لئذ الخفاء ج: ۱، ۳۰، الاستیعاب)

12 - حضرت عویم بن ساعدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، بیشک اللہ تعالیٰ نے مجھے جن لیا اور میرے لیے میرے اصحاب کو جن لیا پھر ان میں سے بعض کو میرے وزیر، میرے مددگار اور میرے سرالی رشتہ دار بنا دیا۔ پس جو شخص اُن کو برا کہتا ہے اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت۔ قیامت کے دن نہ اس کا کوئی فرض قبول ہوگا نہ نقل۔ (مسند رک للہاکم ج: ۳، ۶۳۴)

ان احادیث سے معلوم ہوا کہ جس طرح رب تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کو تمام مخلوق میں سے جن کر اپنا محبوب رسول بنا لیا ہے ایسے ہی تمام اولاد آدم میں سے بہترین لوگوں کو جن کر رب تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول ﷺ کی صحبت کے لیے منتخب فرمایا ہے۔ اسی بنا پر انبیاء کرام بیہودہ کے بعد صحابہ کرام تمام لوگوں سے افضل ترین قرار پائے۔

بلاشک و شبہ اگر صحابہ کرام سے بہتر کوئی اور لوگ ہوتے تو رب کریم ﷺ اپنے محبوب رسول ﷺ کی صحبت و رفاقت کے لیے ان کو منتخب فرماتا۔ اس بنیاد پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ اگر کوئی صحابہ کرام پر تنقید کرتا ہے تو وہ صرف صحبت نبوی ہی کی نہیں بلکہ رب تعالیٰ عزوجل کے انتخاب کی بھی تنقیص و توہین کا مرتکب ٹھہرتا ہے۔ (العیاذ باللہ)

جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی جن کے دشمن پہ لعنت ہے اللہ کی  
جاں نثاران بدر و احد پر درود حق گزاران بیعت پہ لاکھوں سلام

خليفة اول، سيدنا ابو بكر صدیق ﷺ:

علمائے اہلسنت کا اس امر پر اجماع اور اتفاق ہے کہ رسول اللہ ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر ﷺ، ان کے بعد حضرت عمر ﷺ، پھر حضرت عثمان ﷺ اور ان کے بعد حضرت علی ﷺ، ان کے بعد عشرہ مبشرہ کے دیگر حضرات ﷺ، پھر اصحاب بدر ﷺ، پھر باقی اصحاب اُحد ﷺ ان کے بعد بیعت رضوان والے اصحاب ﷺ اور ان کے بعد دیگر اصحاب رسول ﷺ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۰۸)

حضرت ابو بکر ﷺ کو سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل ہے۔ بعض کے نزدیک حضرت علی ﷺ سب سے پہلے ایمان لائے ہیں۔ امام اعظم ابوحنیفہ ﷺ نے اس طرح کے مختلف اقوال میں یوں تطبیق کی ہے کہ مردوں میں سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ، عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور بچوں میں سیدنا علی ﷺ کو سب سے پہلے ایمان لانے کا اعزاز حاصل ہے۔

تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ قبول اسلام کے بعد سے آقا مولیٰ ﷺ کے وصال مبارک تک ہمیشہ سفر و حضر میں آپ کے رفیق رہے۔ بجز اس کے کہ نبی کریم ﷺ کے حکم یا اجازت سے آپ کے ساتھ نہ رہ سکے ہوں۔

آپ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ غنی تھے۔ آپ نے کثیر مال خرچ کر کے کئی مسلمان غلام آزاد کرائے۔ ایک موقع پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، ابو بکر کے مال نے مجھے جتنا نفع دیا اتنا کسی کے مال نے نہیں دیا۔ اس پر حضرت ابو بکر ﷺ نے روتے ہوئے عرض کی، ”میرے آقا! میں اور میرا مال سب آپ ہی کا ہے۔“

تمام صحابہ کرام میں آپ ہی سب سے زیادہ عالم تھے۔ آپ سے ایک سویالیس احادیث مروی ہیں حالانکہ آپ کو بکثرت احادیث یاد تھیں۔ قلتِ روایت کا سبب یہ ہے کہ احتیاط کے پیش نظر آپ نبی کریم ﷺ کا عمل یا اس سے حاصل شدہ مسئلہ بیان فرمایا کرتے۔ آپ سب سے زیادہ قرآن اور دینی احکام جاننے والے تھے، اسی لیے رسول کریم ﷺ نے آپ کو نمازوں کا امام بنایا تھا۔ آپ اُن خاص صحابہ میں سے تھے جنہوں نے قرآن کریم حفظ کیا تھا۔

حضرت علی ﷺ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے سلسلے میں سب سے زیادہ اجر و ثواب حضرت ابو بکر ﷺ کو ملے گا کیونکہ سب سے پہلے قرآن کریم کتاب کی صورت میں آپ ہی نے جمع کیا۔

حضرت ابن مسیب ﷺ فرماتے ہیں، حضرت ابو بکر ﷺ، رسول کریم ﷺ کے وزیرِ خاص تھے چنانچہ حضور ﷺ آپ سے تمام امور میں مشورہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ اسلام میں ثانی، غار میں ثانی، یوم بدر میں سائبان میں ثانی اور مدفن میں بھی حضور ﷺ کے ساتھ ثانی ہیں۔ رسول کریم ﷺ نے آپ پر کسی کو فضیلت نہیں دی۔

آپ کا سب سے بڑا کارنامہ مرتدوں سے جہاد اور ان کے فتنے کا مکمل انہدام ہے۔ یمامہ، بحرین اور عمان وغیرہ کے مرتدین کی سرکوبی کے بعد اسلامی افواج نے ایلہ، مدائن اور اجنادین کے معرکوں میں فتح حاصل کی۔ آپ کی خلافت کی مدت دو سال سات ماہ ہے۔

سیدنا ابو بکر ﷺ نے وصال کے وقت اپنی صاحبزادی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ اونٹنی جس کا ہم دودھ پیتے ہیں اور یہ بڑا ایالہ جس میں ہم کھاتے پیتے ہیں اور یہ چادر جو میں اوڑھے ہوئے ہوں، ان تین چیزوں کے سوا میرے پاس صرف الممال کی کوئی چیز نہیں۔ ان چیزوں سے ہم اس وقت تک نفع لے سکتے تھے جب تک میں امورِ خلافت انجام دیتا تھا۔ میرے انتقال کے بعد تم ان چیزوں کو حضرت عمر کے پاس بھیج دینا۔ آپ کے وصال کے بعد جب یہ چیزیں سیدنا عمر ﷺ کو واپس کی گئیں تو انہوں نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے۔ انہوں نے اپنے جانشین کو مشقت میں ڈال دیا۔

امام شعبی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے چار ایسی خصوصیات سے متصف فرمایا جن سے کسی اور کو سرفراز نہیں فرمایا۔  
اول: آپ کا نام صدیق رکھا۔

دوم: آپ غار ثور میں محبوب خدا ﷺ کے ساتھی رہے۔

سوم: آپ ہجرت میں حضور ﷺ کے رفیق سفر رہے۔

چہارم: حضور ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں ہی آپ کو صحابہ کی نمازوں کا امام بنا دیا۔

آپ کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ آپ کی چار نسلوں نے صحابی ہونے کا شرف پایا۔ آپ صحابی، آپ کے والد ابو قحافہ صحابی، آپ کے بیٹے عبد الرحمن صحابی اور ان کے بیٹے ابوعبید بن جراح صحابی ﷺ۔ (ماخوذ از تاریخ الخلفاء)

فضائل سیدنا ابوبکر ﷺ، قرآن میں:

1۔ ثَانِي النَّبِيِّ اِذْ هُمَا فِي الْعَارِ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَةً عَلَیْهِ۔ (التوبة: ۳۰)

”آپ دو میں سے دوسرے تھے، جب وہ دونوں (یعنی حضور ﷺ اور حضرت ابوبکر ﷺ) نماز میں تھے، جب (حضور ﷺ) اپنے پیارے سے فرماتے تھے، غم نہ کر، بیشک اللہ ہمارے ساتھ ہے تو اللہ نے اس پر اپنی تسکین نازل فرمائی۔“ (کنز الایمان)

صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمہ اللہ لکھتے ہیں،

”حضرت ابوبکر صدیق ﷺ کی صحابیت اس آیت سے ثابت ہے۔ حسن بن فضل نے فرمایا، جو شخص حضرت صدیق اکبر ﷺ کی صحابیت کا انکار کرے وہ نص قرآنی کا منکر ہو کر کافر ہوا۔“ (تفسیر بغوی، تفسیر مظہری، تفسیر خزائن العرفان)

مرزا مظہر جان جاناں رحمہ اللہ ”اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا“ کی تفسیر میں فرماتے ہیں،

”حضرت صدیق اکبر ﷺ کے لیے یہی فضیلت کافی ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے لیے بغیر کسی فرق کے، اللہ تعالیٰ کی اس معیت کو ثابت کیا جو انہیں خود حاصل تھی۔ جس نے سیدنا ابوبکر ﷺ کی فضیلت کا انکار کیا اس نے اس آیت کریمہ کا انکار کیا اور کفر کا ارتکاب کیا۔“ (تفسیر مظہری)

”سَكِيْنَةً عَلَیْهِ“ کی تفسیر میں حضرت عبد اللہ بن عباس ﷺ فرماتے ہیں کہ،

”یہ تسکین حضرت ابوبکر ﷺ پر نازل ہوئی کیونکہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ تو سکینت ہمیشہ ہی رہی تھی۔“ (ازالۃ الخفاء ج ۲: ۱۰۷، تاریخ الخلفاء: ۱۱۱)

2۔ ابن عساکر رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم ﷺ کے سلسلے میں حضرت ابوبکر ﷺ کے سوا تمام مسلمانوں پر عتاب فرمایا ہے جیسا کہ مذکورہ بالا آیت کریمہ کے آغاز میں ہے۔

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الْاٰمِلِيْنَ كٰفِرًا۔ (التوبة: ۳۰)

”اگر تم محبوب ﷺ کی مدد نہ کرو تو بیشک اللہ نے انکی مدد فرمائی، جب کافروں کی شرارت سے انہیں باہر تشریف لے جانا ہوا (ہجرت کے لیے)۔“ (کنز الایمان)

امام سیوطی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ آیت اس دعوے کی دلیل ہے کہ رب تعالیٰ نے سیدنا ابوبکر ﷺ کو اس عتاب سے مستثنیٰ فرمایا ہے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۱۳)

3۔ حضرت انس ﷺ سے روایت ہے کہ جب آیت اِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَی النَّبِیِّ نَازِلٌ ہُوْنِیْ تُو حضرت ابوبکر صدیق ﷺ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! اللہ تعالیٰ جو فضل و شرف بھی آپ کو عطا فرماتا ہے تو ہم نیاز مندوں کو بھی آپ کے طفیل میں نوازتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

هُوَ الَّذِیْ یُصَلِّیْ عَلَیْكُمْ وَ مَلٰٓئِكَتُهٗ لَیُخْرِجَنَّكُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَی النُّوْرِ وَ كَانَ بِالْمُؤْمِنِیْنَ رَحِیْمًا ۝ (الاحزاب: ۴۳)

”وہی ہے کہ درود بھیجتا ہے تم پر وہ اور اسکے فرشتے کہ تمہیں اندھیریوں سے اجالے کی طرف نکالے اور وہ مسلمانوں پر مہربان ہے۔“ (کنز الایمان)

(تفسیر خزائن العرفان، تفسیر مظہری، تاریخ الخلفاء: ۱۱۴)

4- وَالَّذِينَ جَاءُوا بِالْبَصِيرَةِ وَصَدَّقُوا بِهِ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ۔ (الزمر: ۳۳)

”اور وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے اور وہ جنہوں نے انکی تصدیق کی، یہی ڈروالے ہیں۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)  
بز ارواہن عسا کرہما اللہ نے اس آیت کے شان نزول کے متعلق روایت کی ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے اس طرح ارشاد فرمایا، ”قسم ہے اُس رب کی جس نے حضرت محمدؐ کو رسول بنا کر بھیجا اور حضرت ابو بکرؓ سے اس رسالت کی تصدیق کرائی۔“ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۱۴)  
حضرت علیؑ سے مروی ہے کہ حق لیکر آنے والے سے مراد رسول کریمؐ اور تصدیق کرنے والے سے مراد حضرت ابو بکر صدیقؓ ہیں۔ حضرت ابو ہریرہؓ سے بھی یہی مروی ہے۔ (تفسیر کبیر، تفسیر مظہری، از لائے الخلفاء ج: ۲، ۲۲۵)

شیعہ مذہب کی مستند تفسیر مجمع البیان میں بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ (ج: ۸، ۳۹۸)

5- وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ۝ (الرحمن: ۳۶)

”اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے، اسکے لیے دو جنتیں ہیں۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ نے روایت کی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر صدیقؓ کے حق میں نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری، تفسیر درمنثور)

6- وَلَا يَأْتِلُوا أَوْلِيَا الْفُضُلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أَوْلِيَا الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيُضْفَحُوا۔

”اور تم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قربت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ (النور: ۲۲، کنز الایمان)

یہ آیت حضرت صدیق اکبرؓ کے حق میں نازل ہوئی جب آپ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ موافقت کرنے پر اپنے خالہ زاد بھائی مسطحؓ کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھائی جو بہت نادار و مسکین بدری صحابی تھے۔ آپ نے اس آیت کے نزول پر اپنی قسم کا کفارہ دیا اور انکی مالی مدد جاری فرمائی۔ صدر الافاضل قسطنطین فرماتے ہیں، ”اس آیت سے حضرت صدیق اکبرؓ کی فضیلت ثابت ہوئی، اس سے آپ کی علو شان و مرتبت ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابو الفضل (فضیلت والا) فرمایا۔“ (تفسیر خزائن العرفان، تفسیر مظہری)

7- ایک مرتبہ یہودی عالم خاص نے سیدنا ابو بکرؓ سے کہا اے ابو بکر! کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارا رب ہمارے مالوں میں سے قرض مانگتا ہے، مالدار سے قرض وہی مانگتا ہے جو فقیر ہو، اگر تم سچ کہتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ حضرت ابو بکرؓ نے اسکی گستاخانہ گفتگو سن کر غضبناک ہوئے اور اسکے منہ پر زور اتر پھیر مارا اور فرمایا، اگر ہمارے اور تمہارے درمیان صلح کا معاہدہ نہ ہوتا تو میں تیری گردن اڑا دیتا۔ خاص نے بارگاہ نبویؐ میں جا کر سیدنا ابو بکرؓ کی شکایت کی۔ آپ نے اسکی گستاخانہ گفتگو بیان کر دی۔ خاص نے اس کا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابو بکرؓ کی تصدیق کرتے ہوئے یہ آیت نازل فرمائی۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الْبَدِينِ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ (ال عمران: ۱۸۱)

”بیشک اللہ نے سنا جنہوں نے کہا کہ اللہ محتاج ہے اور ہم غنی۔“ (کنز الایمان)

8- وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ آذَابَ إِلَهِي۔

”اور انکی راہ چل جو میری طرف رجوع لایا۔“ (الرحمن: ۱۵)

حضرت ابن عباسؓ کا ارشاد ہے کہ یہ آیت سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ جب وہ اسلام لائے تو حضرت عثمان، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوفؓ نے انکی رہنمائی کے سبب اسلام قبول کیا۔ (تفسیر مظہری)

9- لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَاتَلُوا وَكَلَّا وَاللَّهُ الْخَسِيُّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ۝ (الحج: ۱۰)

تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح مکہ سے قبل خرچ اور جہاد کیا، وہ مرتبہ میں ان سے بڑے ہیں جنہوں نے بعد فتح کے خرچ اور جہاد کیا اور ان سب سے اللہ جنت کا وعدہ فرما چکا، اور اللہ کو تمہارے کاموں کی خبر ہے۔ (کنز الایمان)

یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی کیونکہ آپ سب سے پہلے ایمان لائے اور سب سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا۔ (تفسیر بغوی)

قاضی ثناء اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل اور صحابہ کرام تمام لوگوں سے افضل ہیں کیونکہ فضیلت کا دارودار اسلام قبول کرنے میں سبقت لے جانے، مال خرچ کرنے اور جہاد کرنے میں ہے۔ جس طرح آقا و مولی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی ہے کہ جس نے اچھا طریقہ شروع کیا تو اسے اسکا اجر اور اس پر عمل کرنے والوں کا اجر بھی ملے گا جبکہ عمل کرنے والوں کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ (صحیح مسلم) علماء کا اس پر اجماع ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اسلام لائے اور آپ کے ہاتھ پر قریش کے معززین مسلمان ہوئے۔ راہ خدا میں مال خرچ کرنے والوں میں بھی سب سے آگے ہیں۔ کفار سے مصائب برداشت کرنے والوں میں بھی آپ سب سے پہلے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

10۔ وَ سَيَجْزِيهَا الْآتِقَى ○ الْبِدَى يُؤْتِي مَالَهُ يَنْزِلُ ○ وَمَا لَآ حِدَّ عِنْدَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى ○ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى ○ وَلَسَوْفَ يَرْضَى ○

”اور اس (جہنم) سے بہت دور رکھا جائے گا جو سب سے بڑا پرہیزگار جو اپنا مال دیتا ہے کہ تھرا ہو اور کسی کا اس پر کچھ احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے، صرف اپنے رب کی رضا چاہتا ہے جو سب سے بلند ہے اور بے شک قریب ہے کہ وہ (اپنے رب سے) راضی ہوگا۔“ (والیل: ۷۱ تا ۷۴، کنز الایمان)

اکثر مفسرین کا اتفاق ہے یہ آیات مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہوئیں۔ (تفسیر قرطبی، تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری) ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سات غلاموں کو اسلام کی خاطر آزاد کیا۔ اس پر یہ آیات نازل ہوئیں۔ (تفسیر مظہری، تفسیر روح المعانی)

صدر الافاضل رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں کہ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بہت گراں قیمت پر خرید کر آزاد کیا تو کفار کو حیرت ہوئی اور انہوں نے کہا، بلال کا ان پر کوئی احسان ہوگا جو انہوں نے اتنی قیمت دیکر خرید اور آزاد کیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ظاہر فرما دیا گیا کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا یہ فعل محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے، کسی کے احسان کا بدلہ نہیں۔ (خزان العرفان)

قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آخری آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، ”یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اس طرح ہے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں یہ آیت ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى ○ (تفسیر مظہری) ”اور بیشک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔“

☆☆☆☆

فضائل سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ، احادیث میں:

1۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیشک اپنی صحبت اور مال کے ساتھ سب لوگوں سے بڑھ کر مجھ پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے۔ اگر میں اپنے رب کے سوا کسی کو ظلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن اسلامی اخوت و مؤدبت تو موجود ہے۔ آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا جائے۔ (بخاری کتاب المناقب)

2۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ (مسجد کی طرف کھلنے والی) سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ (صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابہ)

سرکارِ دو عالم ﷺ نے اپنے وصال سے دو تین دن قبل یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس بناء پر شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے اور دوسروں کی گفتگو کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ (مشکوٰۃ الممتعہ)

3- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اگر میں کسی کو ظلیل بنا تا تو ابو بکر کو ظلیل بنا تا لیکن وہ میرے بھائی اور میرے ساتھی ہیں اور تمہارے اس صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ظلیل بنایا ہے۔ (مسلم کتاب فضائل الصحابہ)

ظلیل سے مراد ایسا ولی دوست ہے جس کی محبت رگ و پے میں سرایت کر جائے اور وہ ہر راز پر آگاہ ہو، حضور اکرم ﷺ نے ایسا محبوب صرف اللہ تعالیٰ کو بنایا۔ رب تعالیٰ نے بھی آپ کو اپنا ایسا محبوب و ظلیل بنایا ہے کہ آپ کی خلت سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ کی خلت سے زیادہ کامل اور اکمل ہے۔ (مشکوٰۃ الممتعہ، ملخصاً)

4- حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جس وقت ہم غار میں تھے۔ میں نے اپنے سروں کی جانب مشرکوں کے قدم دیکھے تو عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! اگر ان میں سے کسی نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اے ابو بکر! تمہارا ان دو کے متعلق کیا خیال ہے جن میں کا تیسرا اللہ تعالیٰ ہے۔ (مسلم کتاب فضائل الصحابہ)

5- حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے انھیں لشکر ذات السلاسل پر امیر بنا کر بھیجا۔ ان کا بیان ہے کہ جب حاضر بارگاہ ہو اتو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو لوگوں میں سب سے زیادہ پیارا کون ہے؟ فرمایا، عائشہ۔ میں عرض گزار ہوا، مردوں میں سے؟ فرمایا، اس کے والد محترم یعنی ابو بکر۔ میں عرض گزار ہوا کہ پھر کون؟ فرمایا، عمر۔ پس میں اس ڈر سے خاموش ہو گیا کہ مبادا مجھے سب سے آخر میں رکھیں۔ (بخاری، مسلم)

6- حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے اپنے والد محترم (حضرت علی رضی اللہ عنہ) کی خدمت میں عرض کی، نبی کریم ﷺ کے بعد سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں عرض گزار ہوا کہ پھر کون ہے؟ فرمایا، عمر رضی اللہ عنہ۔ تیسری بار میں ڈرا کہ کہیں یہ نہ فرمائیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ، اس لیے میں نے عرض کی کہ پھر آپ ہیں؟ فرمایا، میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔ (بخاری کتاب المناقب)

7- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، تم میں سے آج کون روزہ دار ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں ہوں۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا، تم میں سے آج کس شخص نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے۔ پھر ارشاد ہوا، تم میں سے آج کس شخص نے مریض کی عیادت کی؟ آپ ہی نے عرض کی، میں نے۔ آقا کریم ﷺ نے فرمایا، جس شخص میں (ایک ہی دن میں) یہ اوصاف جمع ہو گئے وہ جنتی ہو گا۔ (مسلم باب فضائل ابی بکر)

8- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے زمانہ میں ہم کسی کو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر شمار نہیں کیا کرتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیگر صحابہ پر فضیلت دیتے اور پھر نبی کریم ﷺ کے اصحاب میں سے کسی کو دوسرے پر فضیلت نہ دیتے۔ (بخاری کتاب المناقب)

9- انہی سے مروی ہے کہ رحمتِ دو عالم ﷺ کی حیاتِ ظاہری میں ہم کہا کرتے کہ نبی کریم ﷺ کی امت میں آپ ﷺ کے بعد افضل ترین حضرت ابو بکر ہیں، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ۔ (ترمذی، ابوداؤد)

10- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت کے آخر میں ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کو جنت کے تمام دروازوں سے جنت میں جانے کے لیے بلا یا جائے گا؟

آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ہاں اے ابو بکر! مجھے امید ہے کہ تم ایسے ہی لوگوں میں سے ہو۔ (بخاری کتاب المناقب)

11- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے سردار، ہمارے بہترین فرد اور رسول اللہ ﷺ کو ہم سب سے زیادہ محبوب تھے۔ (ترمذی)

12- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم غار میں میرے ساتھی تھے اور حوض پر میرے ساتھی



ہوگے۔ (ترمذی)

13 - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، کسی قوم کے لئے مناسب نہیں کہ ان میں ابو بکر ہو اور ان کی امامت کوئی دوسرا کرے۔  
(ترمذی)

14 - حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں صدقہ کا حکم فرمایا۔ اس وقت میرے پاس کافی مال تھا، میں نے کہا کہ اگر کسی روز میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے سبقت لے جا سکا تو آج کا دن ہوگا۔ پس میں نصف مال لے کر حاضر ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ گھر والوں کے لئے کتنا چھوڑا ہے؟ عرض گزار ہوا کہ اس کے برابر۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا سارا مال لے آئے تو فرمایا، اے ابو بکر اپنے گھر والوں کے لئے کیا چھوڑا ہے؟ عرض گزار ہوئے، ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ میں نے کہا، میں ان سے کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ (ترمذی، ابوداؤد)

15 - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا، تمہیں اللہ تعالیٰ نے آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ اس دن سے ان کا نام عتیق مشہور ہو گیا۔ (ترمذی، حاکم)

16 - حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں وہ ہوں کہ زمین سب سے پہلے میرے اوپر سے شق ہوگی، پھر ابو بکر سے، پھر عمر سے، پھر قبیح والوں کے پاس آؤں گا تو وہ میرے ساتھ اٹھائے جائیں گے۔ پھر میں اہل مکہ کا انتظار کروں گا، یہاں تک کہ حرمین کے درمیان حشر کیا جائے گا۔ (ترمذی)

17 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، میرے پاس جبریل آئے تو میرا ہاتھ پکڑا تا کہ مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھائیں جس سے میری امت داخل ہوگی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تا کہ اس دروازے کو دیکھتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اے ابو بکر! تم میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہو گے۔ (ابوداؤد)

18 - حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم نور مجسم ﷺ نے فرمایا، انبیاء کے علاوہ سورج کبھی کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو ابو بکر سے افضل ہو۔ (الصواعق المحرقة: ۱۰۳، ابونعیم)

19 - حضرت سلیمان بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، اچھے خصائل تین سو ساٹھ ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ان میں سے مجھ میں کوئی خصلت موجود ہے؟ فرمایا، اے ابو بکر! مبارک ہو۔ تم میں وہ سب اچھی خصلتیں موجود ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۱۱۴، ابن عساکر)

20 - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولا ﷺ نے فرمایا، میری امت پر واجب ہے کہ وہ ابو بکر کا شکر یہ ادا کرے اور ان سے محبت کرتی رہے۔  
(تاریخ الخلفاء: ۱۲۱، الصواعق المحرقة: ۱۱۴، ابن عساکر)

21 - حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی اُس نے پہلے انکار کیا سوائے ابو بکر کے کہ انہوں نے میرے دعوتِ اسلام دینے پر فوراً ہی اسلام قبول کر لیا اور پھر اس پر ثابت قدم رہے۔

(تاریخ الخلفاء: ۹۸، ابن عساکر)

22 - حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سید عالم ﷺ نے ایک مسئلہ میں میری رائے دریافت فرمائی تو میں نے عرض کی، میری رائے وہی ہے جو ابو بکر کی رائے ہے۔ اس پر آقا کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں کہ ابو بکر غلطی کریں۔

(تاریخ الخلفاء: ۱۰۷، ابونعیم، طبرانی)

23 - حضرت حصصہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ میں نے آقا صوملی ﷺ سے عرض کی، آپ نے اپنی علالت کے ایام میں حضرت ابو بکر ﷺ کو امام بنایا تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا، نہیں! میں نے نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپہیں امام بنایا تھا)۔  
(تاریخ الخلفاء: ۱۲۶، ابن عساکر)

24 - حضرت عمرؓ کے پاس حضرت ابو بکرؓ کا ذکر ہوا تو وہ روپڑے اور فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے اعمال اُن کے ایک دن کے اعمال جیسے یا اُن کی ایک رات کے اعمال جیسے ہوتے۔ پس رات تو وہ رات ہے جب وہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غار کی طرف چلے۔ جب غار تک پہنچے تو عرض گزار ہوئے، خدا کی قسم! آپ اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک میں اس میں داخل نہ ہو جاؤں کیونکہ اگر اس میں کوئی چیز ہے تو اس کی تکلیف آپ کی جگہ مجھے پہنچے۔ پھر وہ داخل ہوئے اور غار کو صاف کیا۔ اس کی ایک جانب سوراخ تھے تو اپنی ازار کو پھاڑ کر انہیں بند کیا۔ دوسرا رخ باقی رہ گئے تو انہیں اپنی ایزدوں سے روک لیا۔ پھر رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ ﷺ اندر داخل ہوئے اور انکی کود میں سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ پس ایک سوراخ میں سے حضرت ابو بکرؓ کے پیر میں ڈنگ مارا گیا تو انہوں نے اس ڈر سے حرکت نہ کی کہ آقا صوملیؓ بیدار ہو جائیں گے لیکن ان کے آنسو رسول اللہ ﷺ کے نورانی چہرے پر گر پڑے۔ فرمایا کہ ابو بکر! کیا بات ہے؟ عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے ڈنگ مارا گیا ہے۔ چنانچہ رسول اللہ ﷺ نے لعاب دہن لگا دیا تو انکی تکلیف جاتی رہی۔ پھر اس زہر نے عود کیا اور وہی انکی وفات کا سبب بنا۔

اُن کا دن وہ دن ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے وفات پائی تو اس وقت بعض اہل عرب مرد ہو گئے اور کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو انہوں نے فرمایا، اگر کوئی اونٹ کا گھٹنا بند ہنے کی رسی بھی روکے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا۔ میں عرض گزار ہوا کہ اے خلیفہ رسول ﷺ! لوگوں سے نفرت کیجئے اور ان سے نرمی کا سلوک فرمائیے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا،

تم جاہلیت میں بہادر تھے تو کیا اسلام لا کر بزدل ہو گئے ہو؟ بے شک وحی منقطع ہو گئی، دین مکمل ہو گیا، کیا یہ دین میرے جیتے جی بدل جائے گا؟ (مشکوٰۃ)

25 - حضرت عمر فاروقؓ کا ارشاد ہے کہ اگر تمام اہل زمین کا ایمان ایک پلہ میں اور سیدنا ابو بکرؓ کا ایمان دوسرے پلہ میں رکھ کر وزن کیا جائے تو سیدنا ابو بکرؓ کے ایمان کا پلہ بھاری رہے گا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۴۱، شعب الایمان للبیہقی)

26 - حضرت عامر بن عبد اللہ بن زبیرؓ سے مروی ہے کہ جب آیت وَلَوْ اَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ اَنِ افْتَلُوا اَنْفُسِكُمْ (ترجمہ: اور اگر ہم اُن پر فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کر دو) نازل ہوئی تو حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! اگر آپ مجھے حکم دیتے کہ میں خود کو قتل کر لوں تو میں خود کو ضرور قتل کر دیتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے سچ کہا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۴۰، ابن ابی حاتم)

27 - حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو اس کا اختیار دیا کہ وہ دنیا کی نعمتیں پسند کر لے یا آخرت کی نعمتیں جو اللہ کے پاس ہیں تو اُس نے آخرت کی نعمتیں پسند کر لیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکرؓ رونے لگے اور عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! کاش ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ ہمیں تعجب ہوا کہ حضور ﷺ کسی شخص کا ذکر فرما رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ بعد میں ہمیں علم ہوا کہ وہ صاحب اختیار بندے خود حضور ﷺ ہی تھے۔ پس حضرت ابو بکرؓ ہم سب سے زیادہ علم والے تھے۔ (بخاری، مسلم)

28 - حضرت علیؓ نے لوگوں سے پوچھا، یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ لوگوں نے کہا، آپ۔ سیدنا علیؓ نے فرمایا، نہیں! سب سے زیادہ بہادر حضرت ابو بکرؓ ہیں۔ سنو! جنگ بدر میں ہم نے رسول کریم ﷺ کے لیے ایک سائبان بنایا تھا۔ ہم نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس سائبان کے نیچے حضور کے ساتھ کون رہے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مشرک آقا صوملیؓ پر حملہ کر دے۔ خدا کی قسم! ہم میں سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا تھا کہ سیدنا ابو بکرؓ

ہاتھ میں برہنہ تلوار لیے ہوئے حضور ﷺ کے پاس کھڑے ہو گئے اور پھر کسی مشرک کو آپ کے پاس آنے کی جرأت نہ ہو سکی۔ اگر کوئی ناپاک ارادے سے قریب بھی آیا تو آپ فوراً اس پر ٹوٹ پڑے۔ اس لیے آپ ہی سب سے زیادہ بہادر تھے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۰۰، مسند بزار)

یعنی اُس افضل، اخلق بعد الرسل ثانی اثنین، ہجرت پہ لاکھوں سلام

خليفة دوم، سيدنا عمر فاروق ؓ:

انبیاء کرام بیہ اسلام کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق ؓ تمام لوگوں سے افضل ہیں اور ان کے بعد حضرت سیدنا عمر فاروق ؓ سب سے افضل ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب ؓ اعلان نبوت کے چھٹے سال اسلام لائے۔ آپ کے قبول اسلام کے لیے نبی کریم ﷺ نے اس طرح دعا فرمائی، ”اے اللہ! عمر بن خطاب کے ذریعہ اسلام کو غلبہ عطا فرما“۔ اس حدیث میں آقا موملی ﷺ کا صرف آپ ہی کا نام لے کر دعا فرمانا مذکور ہے اور یہ آپ کے لیے بڑے شرف کی بات ہے۔

آپ کے اسلام قبول کرنے سے اسلام لانے والے مردوں کی تعداد چالیس ہو گئی۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود ؓ کا قول ہے کہ ”جب سے عمر ؓ اسلام لائے، یہ دین روز بروز ترقی کرتا چلا گیا۔“

حضرت عمر ؓ فرماتے ہیں کہ جب میں نے اسلام قبول کیا تو دار ارقم میں موجود مسلمانوں نے اس زور سے تکبیر بلند کی کہ اسے تمام ولہ مکہ نے سنا۔ میں نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ﷺ! کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ فرمایا، کیوں نہیں، یقیناً ہم حق پر ہیں۔ میں نے عرض کی، پھر ہم پوشیدہ کیوں رہیں۔ چنانچہ وہاں سے تمام مسلمان دو صفیں بنا کر نکلے۔ ایک صف میں حضرت حمزہ ؓ تھے اور ایک میں، میں تھا۔

جب ہم اس طرح مسجد حرام میں داخل ہوئے تو کفار کو سخت ملال ہوا۔ اس دن سے رسول کریم ﷺ نے مجھے فاروق کا لقب عطا فرمایا کیونکہ اسلام ظاہر ہو گیا اور حق و باطل میں فرق پیدا ہو گیا۔

حضرت علی ؓ کا ارشاد ہے، حضرت عمر ؓ کے سوا کوئی شخص ایسا نہیں جس نے اعلانیہ ہجرت کی ہو۔ جس وقت حضرت عمر ؓ ہجرت کے ارادے سے نکلے، آپ نے تلوار جامل کی، کمان شانے پر لٹکائی اور ہاتھ میں تیر پکڑ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ پھر وہاں موجود کفار قریش میں سے ایک ایک فرد سے الگ الگ فرمایا،

”تمہاری صورتیں بگڑیں، تمہارا ناس ہو جائے! ہے کوئی تم میں جو اپنی ماں کو بیٹے سے محروم، اپنے بیٹے کو ستیم اور اپنی بیوی کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتا ہو! وہ آئے اور جنگل کے اس طرف آ کر مجھ سے مقابلہ کرے۔ میں اس شہر سے ہجرت کر رہا ہوں“۔ کفار کو آپ کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ ہو سکی۔

غیب جاننے والے آقا موملی ﷺ کا ارشاد ہے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہی ہوتے۔ آپ سے پانچ سو اٹالیس (۵۳۹) احادیث مروی ہیں۔ آپ کی صاحبزادی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حضور ﷺ کی زوجہ ہونے کا شرف حاصل ہے۔

سیدنا عمر ؓ تمام غزوات میں آقا موملی کے ساتھ رہے اور غزوہ اُحد میں آپ نے ثابت قدمی دکھائی۔ مصر کی فتح کے بعد وہاں کے گورنر عمرو بن عاص ؓ نے مصریوں کو ان کے رواج کے مطابق ایک کنواری لڑکی دریا ئے نیل کی بھیونت چڑھانے کی اجازت نہ دی تو دریا ئے نیل خشک ہو گیا۔ اس پر گورنر نے آپ کی خدمت میں سب ماجرا لکھ بھیجا۔ آپ نے ایک خط لکھ کر ان سے فرمایا، اس خط کو دریا میں ڈال دو۔

خط میں لکھا تھا، ”اللہ کے بندے امیر المؤمنین عمر کی جانب سے دریا ئے نیل کے نام! معلوم ہو کہ اگر تو خود بخود جاری ہوتا ہے تو مت جاری ہو، اور اگر تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جاری فرماتا ہے تو میں اللہ واحد و تہا رہی سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ تجھے جاری کر دے“۔ جب یہ خط دریا میں ڈالا گیا تو دریا ایسا جاری ہوا کہ معمول سے سولہ گز پانی زیادہ چڑھ گیا اور وہ پھر کبھی خشک نہ ہوا۔

حضرت عمرؓ نے ایک لشکر ساریہؓ نامی شخص کی سربراہی میں جنگ کے لیے نہاوند بھیجا۔ کچھ دن بعد جمعہ کے خطبہ میں آپ نے تین بار فرمایا، ”اے ساریہ! پہاڑ کی طرف“۔ جب لشکر کا قاصد آیا تو اس نے بتایا کہ ہمیں شکست ہونے لگتی ہے ہم نے یہ آواز سنی، ”اے ساریہ! پہاڑ کی طرف“۔ چنانچہ ہم پہاڑ کی طرف ہو گئے۔ پس جنگ کا پانسہ پلٹ گیا اور ہمیں فتح ہوئی۔ (مشکوٰۃ باب الکرامات)

آپ ہی نے سب سے اول ہجری تاریخ و سال جاری کیا اور حکومتی نظم و نسق کے لیے دفاتر و انتظامی شعبے قائم فرمائے۔ آپ نے مساجد میں روشنی کا مناسب انتظام کیا۔ سیدنا علیؓ نے ماہ رمضان میں ایک مسجد میں قندیل روشن دیکھی تو فرمایا، اللہ تعالیٰ عمرؓ کی قبر کو روشن فرمائے کہ انہوں نے ہماری مسجدوں کو روشن کر دیا۔

آپ اکثر صوف کا لباس پہنتے جس میں چڑے کے پوند لگے ہوتے۔ اسی لباس میں ڈڑھ لیے ہوئے بازار شریف لے جاتے اور اہل بازار کو ادب و تہذیب فرماتے۔ سادہ غذا کھاتے، عوام کے حالات جاننے کے لیے راتوں کو کشت کرتے۔

جب کسی کو عامل (کورنر) بناتے تو اسکے اثاثوں کی فہرست لکھ لیا کرتے نیز اسے عوام کی فلاح کے لیے نصیحتیں فرماتے، اور شکایت ملنے پر عامل کو بھی سزا دیتے۔

آپ کے دور خلافت میں بیسٹار فتوحات ہوئیں۔ دمشق، بصرہ، اردن، مدائن، حلب، اطاکیہ، بیت المقدس، نیشاپور، مصر، اسکندریہ، آذربائیجان، طرابلس، اصفہان، مکران وغیرہ متعدد علاقے آپ ہی کے دور میں اسلامی سلطنت میں شامل ہوئے۔

۲۶ ذی الحجہ ۲۳ھ کو جب آپ نماز فجر پڑھانے لگے تو ایک مجوسی ابو لولونے آپ کو دو دھارے بنجر سے حملہ کر کے شدید زخمی کر دیا۔ آپ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے ایک کمیٹی بنا دی جو چھ اکابر صحابہ حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت طلحہ اور حضرت زبیرؓ پر مشتمل تھی کہ یہ باہم مشاورت سے ان میں سے کسی کو خلیفہ منتخب کر لیں۔ اسی دن آپ کی شہادت واقع ہو گئی۔ آپ کی خواہش پر اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اجازت سے آپ نبی کریمؐ اور سیدنا ابو بکر صدیقؓ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ (ماخوذ از تاریخ الخلفاء)

فضائل سیدنا عمرؓ، قرآن میں:

حضرت ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب حضرت عمرؓ اسلام لائے تو مشرکین نے کہا، آج ہماری طاقت آدھی ہو گئی۔ اس وقت حضرت عمرؓ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری، درمنثور)

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ○ (الانفال: ۶۴)

”اے نبی کی خبریں بتانے والے! اللہ تمہیں کافی ہے اور یہ جتنے مسلمان تمہارے پیرو ہوئے“۔ (کنز الایمان)

آپ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ کسی معاملے میں آپ جو مشورہ دیتے یا رائے پیش کرتے قرآن کریم آپ کی رائے کے موافق نازل ہوتا۔

حضرت علیؓ خیر خدا کرہا، ہر کارشاد ہے کہ قرآن کریم میں حضرت عمرؓ کی آراء موجود ہیں جن کی وحی الہی نے تائید فرمائی ہے۔

حضرت ابن عمرؓ سے مروی ہے کہ اگر بعض امور میں لوگوں کے رائے کچھ اور ہوتی اور حضرت عمرؓ کی کچھ اور تو قرآن مجید حضرت عمرؓ کی رائے کے موافق نازل ہوتا تھا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۷)

حضرت ابن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فرمایا، ”میرے رب نے تین امور میں میری موافقت فرمائی۔ مقام ابراہیم پر نماز کے متعلق، پردے کے بارے میں اور بدر کے قیدیوں کے معاملے میں“۔ (بخاری، مسلم)

محدثین فرماتے ہیں کہ ان تین امور میں حصر کی وجہ انکی شہرت ہے ورنہ موافقت کی تعداد اس سے زائد ہے۔ حضرت عمرؓ کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے رب

نے مجھ سے اکیس (۲۱) باتوں میں موافقت فرمائی ہے۔ جن کا تذکرہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تاریخ الخلفاء میں کیا ہے۔ ان امور کی تفصیل حسب ذیل ہے:-

1- حجاب کے احکام سے پہلے حضرت عمرؓ نے عرض کی، یا رسول اللہﷺ! ازواج مطہرات کے سامنے طرح طرح کے لوگ آتے ہیں اس لیے آپ انہیں پردے کا حکم دیجیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوگئی۔ **وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَائِهِ جِحَابٍ**۔ اور جب تم ان سے برتنے کی کوئی چیز مانگو تو پردے کے باہر مانگو۔ (الاحزاب: ۵۳، کنز الایمان)

2- ایک بار آپ نے عرض کی، یا رسول اللہﷺ! ہم مقام ابراہیم کو مصلیٰ نہ بنا لیں؟ اس پر یہ آیت نازل ہوگئی، **وَاتَّخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى**۔ اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کا مقام بناؤ۔ (البقرہ: ۱۲۵، کنز الایمان)

3- بدر کے قیدیوں کے متعلق بعض نے فدویہ کی رائے دی جبکہ حضرت عمرؓ نے انہیں قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس پر آپ کی موافقت میں یہ آیت نازل ہوئی۔ **لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ**۔ اگر اللہ ایک بات پہلے لکھ نہ چکا ہوتا تو اے مسلمانو! تم نے جو کافروں سے بدلے کا مال لے لیا، اس میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ (الانفال: ۶۸، کنز الایمان)

4- نبی کریم ﷺ کا اپنی کنیز حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے پاس جانا بعض ازواج مطہرات کو ناگوار لگا تو حضرت عمرؓ نے ان سے فرمایا، **عَسَىٰ زُبَّةٌ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ**۔ اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ ان کا رب انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ (التحریم: ۳) بالکل انہی الفاظ کے ساتھ وحی نازل ہوگئی۔

5- حرمت سے قبل مدینہ طیبہ میں شراب اور جوعے کا عام رواج تھا۔ حضرت عمرؓ نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، ہمیں شراب اور جوعے کے متعلق ہدایت دیجیے کیونکہ یہ مال اور عقل دونوں ضائع کرتے ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، **يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ**۔ تم سے شراب اور جوعے کا حکم پوچھتے ہیں، تم فرما دو کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے۔ (البقرہ: ۲۱۹، کنز الایمان)

6- ایک بار ایک شخص نے شراب کے نشہ میں نماز پڑھائی تو قرآن غلط پڑھا۔ اس پر حضرت عمرؓ نے پھر وہی عرض کی تو یہ آیت نازل ہوئی۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ**۔ (النساء: ۴۳)

”اے ایمان والو! نشہ کی حالت میں نماز کے پاس نہ جاؤ۔“ (کنز الایمان)

7- اسی سلسلے میں حضرت عمرؓ نے بار بار دعا کی، الہی! شراب اور جوعے کے متعلق ہمارے لئے واضح حکم نازل فرما۔ یہاں تک کہ شراب اور جوعے کے حرام ہونے پر یہ آیت نازل ہوگئی۔ **إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ**۔ بیشک شراب اور جوعے اور بت اور پانسے ناپاک ہی ہیں شیطان کی کام، تو ان سے بچتے رہنا کہ تم قلاح پاؤ۔ (المائدہ: ۹۰)

8- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ جب آیت **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ** (بیشک ہم نے آدمی کو لچھی ہوئی مٹی سے بنایا) نازل ہوئی۔ (المؤمنون: ۱۲) تو اسے سن کر حضرت عمرؓ نے بے ساختہ کہا، **فَتَبَرَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ**۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا۔ اس کے بعد انہی لفظوں سے یہ آیت نازل ہوگئی۔ (تفسیر ابن ابی حاتم)

9- جب منافق عبد اللہ ابن ابی مرثد اس کے لوگوں نے رسول اللہﷺ سے اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لئے درخواست کی۔ اس پر حضرت عمرؓ نے عرض کی، یا رسول اللہﷺ! عبد اللہ ابن ابی مرثد کا سخت دشمن اور منافق تھا، آپ اس کا جنازہ پڑھیں گے؟ رحمت عالم ﷺ نے تبلیغ دین کی حکمت کے پیش نظر اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ یہ آیت نازل ہوگئی، **وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا**۔ اور جب ان (منافقوں) میں سے کوئی مرے تو اس پر نماز نہ پڑھیے۔

یہ خیال رہے کہ حضور اکرم ﷺ کا یہ فعل صحیح اور کئی حکمتوں پر مبنی تھا جن میں سے ایک یہ ہے کہ اس نماز کی وجہ سے اس منافق کی قوم کے ایک ہزار افراد اسلام لے آئے۔ اگر آپ کا یہ فعل مبارک رب تعالیٰ کو پسند نہ ہوتا تو وہ وحی کے ذریعے آپ کو اسکی نماز جنازہ پڑھانے سے منع فرما دیتا۔ جبکہ حضرت عمرؓ کی رائے صحیح ہونا عام منافقوں کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کے متعلق ہے۔

10۔ اسی نماز جنازہ کے حوالے سے حضرت عمرؓ نے عرض کی، سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ - ”ان منافقوں کے لیے استغفار کرنا نہ کرنا برابر ہے۔“ اس پر سورۃ المنافقون کی یہ آیت نازل ہوئی۔ (طبرانی)

11۔ جس وقت رسول اکرم ﷺ نے جنگ بدر کے سلسلہ میں صحابہ کرام سے باہر نکل کر لڑنے کے سلسلہ میں مشورہ کیا تو اس وقت حضرت عمرؓ نے نکلنے ہی کا مشورہ دیا اور اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ كَمَا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ الْحَقِّ - ”جس طرح اے محبوب! تمہیں تمہارے رب نے (لڑنے کے لئے) تمہارے گھر سے حق کے ساتھ برآمد کیا اور بیشک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پر ناخوش تھا۔“ (الانفال: ۵، کنز الایمان)

12۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جب منافقوں نے بہتان لگایا تو رسول اللہ ﷺ نے حضرت عمرؓ سے مشورہ فرمایا۔ آپ نے عرض کی، میرے آقا! آپ کا اُن سے نکاح کس نے کیا تھا؟ حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے! اس پر آپ نے عرض کی، کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ آپ کے رب نے آپ سے اُن کے عیب کو چھپایا ہوگا، بخدا یہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر عظیم بہتان ہے۔ سُبْحٰنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ - اسی طرح آیت نازل ہوئی۔ (النور: ۱۶)

13۔ ابتدائے اسلام میں رمضان شریف کی رات میں بھی بیوی سے قربت منع تھی۔ حضرت عمرؓ نے اس کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ اس کے بعد شب میں مجامعت کو جائز قرار دیا گیا اور آیت نازل ہوئی۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ اِلَىٰ نِسَائِكُمْ - ”روزوں کی راتوں میں اپنی عورتوں کے پاس جانا تمہارے لیے حلال ہوا۔“ (البقرہ: ۱۸۷، کنز الایمان)

14۔ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروقؓ سے کہا، جبرئیل فرشتہ جس کا ذکر تمہارے نبی کرتے ہیں وہ ہمارا دشمن ہے۔ یہ سن کر آپ نے فرمایا، مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِئِي وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ - ”جو کوئی دشمن ہو اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبرئیل اور میکائیل کا تو اللہ دشمن ہے کافروں کا۔“ (البقرہ: ۹۸) بالکل! انہی الفاظ میں یہ آیت نازل ہوئی۔

15۔ دو شخص لڑائی کے بعد انصاف کے لیے بارگاہ نبوی میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے ان کا فیصلہ کر دیا لیکن جس کے خلاف یہ فیصلہ ہوا، وہ منافق تھا۔ اس نے کہا کہ چلو حضرت عمرؓ کے پاس چلیں اور ان سے فیصلہ کرائیں۔ چنانچہ یہ دونوں پہنچے اور جس شخص کے موافق حضور نے فیصلہ کیا تھا اس نے حضرت عمرؓ سے کہا، حضور نے تو ہمارا فیصلہ اس طرح فرمایا تھا لیکن یہ میرا ساتھی نہیں مانا اور آپ کے پاس فیصلہ کے لئے لے آیا۔ آپ نے فرمایا، ذرا ٹھہرو میں آتا ہوں۔ آپ اندر سے تلوار نکال لائے اور اس شخص کو جس نے حضور کا فیصلہ نہیں مانا تھا، قتل کر دیا۔ دوسرا شخص بھاگا ہوا رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا، مجھے عمر سے یہ امید نہیں کہ وہ کسی مومن کے قتل پر اس طرح جرأت کرے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور حضرت عمرؓ اس منافق کے خون سے بری رہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي الدِّعْوَىٰ بَيْنَهُمْ فَتَحْكُمُوا لَهُمْ فَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ - ترجمہ: تو اے محبوب! تمہارے رب کی قسم! وہ مسلمان نہ ہونگے جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنائیں پھر جو کچھ تم حکم فرما دو، اپنے دلوں میں اس سے رکاوٹ نہ پائیں اور جی سے مان لیں۔“ (النساء: ۶۵، کنز الایمان)

16۔ حضرت عمرؓ ایک روز سو رہے تھے کہ آپ کا ایک غلام بغیر اجازت لیے اندر چلا آیا۔ اس وقت آپ نے دعا فرمائی، الٰہی! بغیر اجازت گھروں میں داخل ہونا حرام فرما دے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّىٰ تَسْتَأْذِنُوا - ”اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو۔“ (النور: ۲۷، کنز الایمان)

17- حضرت عمرؓ کا یہ فرمانا کہ یہود ایک حیران و سرگرداں قوم ہے۔ آپ کے اس قول کے مطابق آیت نازل ہوئی۔

18- ثَلَاةٌ مِّنَ الْأَوَّلِينَ وَ ثَلَاةٌ مِّنَ الْآخِرِينَ بھی حضرت عمرؓ کی تائید میں نازل ہوئی۔

(تاریخ الخلفاء)

چند موافقات اور فراستِ عمرؓ:

☆ آیت "الشیخ والشیخة اذا زنيا" کا منسوخ اقلاوت ہونا بھی حضرت عمرؓ کی رائے سے موافقت رکھتا ہے۔

☆ جنگِ احد میں جب ابوسفیان نے کہا، کیا تم میں فلاں ہے؟ تو سیدنا عمرؓ نے فرمایا، "اس کا جواب نہ دو"۔ رسول کریم ﷺ نے آپ کے اس قول سے موافقت فرمائی۔ اس واقعہ کو امام احمدؓ نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔

☆ ایک روز کعب احبارؓ نے کہا، آسمان کا بادشاہ زمین کے بادشاہ پر افسوس کرتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے یہ سن کر فرمایا، مگر اس بادشاہ پر افسوس نہیں کرتا جس نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا۔ یہ سن کر کعب احبارؓ نے کہا، واللہ! تو ریت میں یہی الفاظ ہیں۔ یہ سن کر حضرت عمرؓ بجرے میں گر گئے۔ یعنی بجرہ شکر بجالائے۔ (ایضاً: ۲۰۱)

☆ صحیح مسلم میں ہے کہ صحابہ نے نماز کے لیے بلانے کے متعلق مختلف تجاویز دیں تو سیدنا عمرؓ نے کہا، ایک آدمی کو مقرر کر لو جو نماز کے وقت آواز دیکر لوگوں کو بلائے۔ حضور ﷺ نے اس تجویز کو پسند فرمایا۔

☆ مؤطا امام مالک میں ہے کہ ایک بار سیدنا عمرؓ کو نیند سے جگانے کے لیے کسی نے اصلوۃ خیر من النوم کہا تو آپ نے فجر کی اذان میں ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا۔ (مشکوٰۃ باب الاذان)

☆ جنگِ یمامہ میں جب بہت سے حفاظ صحابہ کرام شہید ہو گئے تو حضرت عمرؓ نے خلیفہ رسول ﷺ، سیدنا ابو بکرؓ کی خدمت میں عرض کی، اگر اسی طرح حفاظ شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کی حفاظت کا مسئلہ نہ پیدا ہو، اس لیے قرآن کو کتاب کی صورت میں جمع کر دیا جائے۔ آپ کے بار بار اصرار پر حضرت ابو بکرؓ اس کام کے لیے راضی ہوئے۔ یوں آپ کی فراست و دانائی کی وجہ سے قرآن کریم ایک جگہ کتاب کی صورت میں جمع کیا گیا۔ (بخاری باب جمع القرآن)

☆ اسی طرح آپ کے دورِ خلافت کے شروع تک لوگ الگ الگ تراویح پڑھتے تھے۔ آپ نے انہیں ایک امام کی اقتداء میں جماعت کی صورت میں تراویح پڑھنے کا حکم دیا۔ تراویح میں قرآن کریم سنانے کی لگن میں مسلمان چھوٹے بڑے قرآن مجید حفظ کرتے ہیں اور حفاظ کرام اسے اہتمام سے یاد رکھتے ہیں۔

☆ کوپا آج قرآن کریم کا کتابی صورت میں محفوظ ہونا، حفاظ کرام کی کثرت اور قرآن کریم کا صحیح یاد رکھنا یہ حضرت عمرؓ ہی کی فراست کے صدقے میں ہے جنہوں نے قرآن کریم کو کتابی صورت میں جمع کرنے کی اہمیت اُجاگر کی اور تراویح کو باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا۔

فضائلِ سیدنا عمرؓ، احادیث میں:

29- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا:۔ بے شک تم سے پہلی امتوں میں مُحدّثی (صحابہ الہام) ہوا کرتے تھے۔ اگر میری امت میں بھی کوئی مُحدّث ہے تو عمر ہے۔ (بخاری کتاب السناقب، مسلم باب فضائل عمر)

30- انہی سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی ہوا کرتے تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام فرمایا جاتا تھا حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ اگر ان میں سے میری امت میں بھی کوئی ہے تو وہ عمر ہے۔ (بخاری کتاب السناقب)

31- حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آپ کے پاس قریش کی چند عورتیں گفتگو کر رہی تھیں اور اونچی آواز سے کچھ مطالبہ کر رہی تھیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی تو وہ پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اندر داخل ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس رہے تھے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ مسکراتا رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان عورتوں پر تعجب ہے جو میرے پاس تھیں اور جب انہوں نے تمہاری آواز سنی تو پردے کے پیچھے چھپ گئیں۔ آپ نے کہا، اے اپنی جان کی دشمنو! تم مجھ سے ڈرتی ہو مگر اللہ کے رسول سے نہیں ڈرتیں؟ انہوں نے کہا، ہاں کیونکہ آپ سخت مزاج اور سخت گیر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوب اے ابن خطاب! تم ہے اُس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، شیطان جب بھی تم سے کسی راستے میں ملتا ہے تو اپنا راستہ بدل لیتا ہے۔ (بخاری، مسلم)

32- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو وہاں ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ جواب ملا، عمر بن خطاب کا میں نے ارادہ کیا کہ اندر داخل ہو کر اسے دیکھوں لیکن تمہاری غیرت یاد آگئی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ پر غیرت کر سکتا ہوں۔ (بخاری، مسلم)

33- حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا کہ مجھ پر لوگ پیش کیے گئے جنہوں نے قمیص پہنی ہوئیں تھیں۔ کسی کی قمیص سینے تک اور کسی کی اس سے بھی کم تھی۔ پھر مجھ پر عمر بن خطاب پیش کیے گئے تو ان پر بھی قمیص تھی اور وہ اسے گھسیٹ رہے تھے۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ نے اس قمیص سے کیا تعبیر لی ہے؟ فرمایا، دین۔ (بخاری، مسلم)

34- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس دودھ کا ایک پیالہ لایا گیا۔ میں نے پیا، یہاں تک کہ سیرابی کو اپنے ناخنوں سے نکلنے ہوئے دیکھا۔ پھر بچا ہوا دودھ میں نے عمر بن خطاب کو دے دیا۔ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ اس (دودھ) سے کیا مراد لیتے ہیں؟ فرمایا، علم۔ (بخاری، مسلم)

35- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری فرما دیا ہے۔ (ترمذی)

36- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کی زبان پر رکھ دیا ہے کہ وہ ہمیشہ حق بولتے ہیں۔ (ابوداؤد، ابن ماجہ، حاکم)

37- حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم اس بات میں شک نہیں کرتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی زبان پر سیکڑ بولتا ہے یعنی ان کے ارشاد پر سب کو دلی سکون ملتا ہے۔ اسے امام بیہقی نے دلائل المتبوعہ میں روایت کیا۔ (مشکوٰۃ)

38- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ! اسلام کو ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب کے ذریعے عزت دے۔ صبح ہوئی تو اگلے روز حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیا اور مسجد میں اعلانیہ نماز پڑھی۔ (احمد، ترمذی)

39- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آنقا موملی رضی اللہ عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ! اسلام کو عمر بن خطاب کے ذریعے غلبہ عطا فرما۔ (مسند رک للحاکم) اس حدیث میں مذکور دعا میں کسی دوسرے شخص کا نام شامل نہیں ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے سنن میں اُم المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے۔ اسی حدیث کو طبرانی نے اوسط میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے اور معجم کبیر میں حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۸۳)

40- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایمان لائے تو حضرت جبرئیل رضی اللہ عنہ نازل ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آسمان والے حضرت عمر کے ایمان لانے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ (ابن ماجہ، حاکم)

41- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اس وقت سے ہم مسلسل کامیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ (بخاری)



42- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے کہا، اے رسول اللہ ﷺ کے بعد تمام لوگوں سے بہتر۔ حضرت ابو بکر نے کہا، آپ تو یوں کہتے ہیں حالانکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، سورج کسی ایسے شخص پر طلوع نہیں ہوا جو عمر سے بہتر ہو۔ (ترمذی)

43- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا، رسول کریم ﷺ کے وصال کے بعد میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسا نیک اور سخی نہیں دیکھا گویا یہ خوبیاں تو آپ کی ذات پر شتم ہو گئی تھیں۔ (بخاری)

44- حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتے۔ (ترمذی، حاکم)

45- حضرت بڑیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ کسی غزوہ کے لیے نکلے۔ جب واپس تشریف لائے تو ایک کالی لونڈی حاضر بارگاہ ہو کر عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ ﷺ! میں نے نذر مانگی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بخیریت واپس لوٹائے تو میں آپ کی خدمت میں دف بجاؤں گی۔

رحمت عالم ﷺ نے اس سے فرمایا، اگر تم نے نذر مانی تھی تو بجالو، اور نہیں مانی تھی تو نہ بجاؤ۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور وہ بجاتی رہی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے تو اس نے دف اپنے نیچے رکھی اور اس پر بیٹھ گئی۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، اے عمر! شیطان تم سے ڈرتا ہے۔ میں بیٹھا تھا لیکن یہ بجاتی رہی۔ ابو بکر آئے اور یہ بجاتی رہی، علی آئے اور یہ بجاتی رہی۔ پھر عثمان آئے اور یہ بجاتی رہی۔ جب اے عمر! تم اندر داخل ہوئے تو اس نے دف نیچے رکھی۔ (ترمذی)

46- حضرت انس اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تین باتوں میں میرے رب نے میری موافقت فرمائی۔

(۱) میں عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ ﷺ! کاش ہم مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنا لیں تو حکم نازل ہوا، "اور ٹھہرو، مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ"۔ (۱۴۵:۲)

(۲) میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ہماری عورتوں کے پاس بھلے اور برے آتے ہیں، کاش! آپ انہیں پردے کا حکم فرمائیں۔ اس پر پردے کی آیت نازل ہوئی۔

(۳) نیز جب نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات غیرت کھا کر جمع ہو گئیں تو میں عرض گزار ہوا، "اگر آپ انہیں طلاق دے دیں تو قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ان سے بہتر بدلے میں عطا فرمائے"۔ پس اسی طرح آیت نازل ہوئی۔ (بخاری، مسلم)

47- حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دوسرے لوگوں پر چار باتوں سے فضیلت دی گئی ہے۔

(۱) بدر کے قیدیوں کے بارے میں جب آپ نے ان کو قتل کرنے کے لیے کہا تو اللہ تعالیٰ نے (آپ کی تائید میں) فرمایا، "اگر اللہ پہلے فیصلہ نہ کر چکا ہوتا جو تم نے کیا تو تم کو بڑا عذاب پہنچتا"۔ (۶۸:۸)

(۲) اور پردے کے معاملے میں جب آپ نے نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات سے پردے کے لیے کہا تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، اے ابن خطاب! آپ ہم پر بھی حکم چلاتے ہیں حالانکہ وحی ہمارے گھر میں نازل ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، "اور جب تم نے کوئی چیز ان سے مانگی ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو"۔ (۵۳:۳۳)

(۳) اور حضور ﷺ کی دعا کے باعث کہ "اے اللہ! عمر کے ذریعے اسلام کی مدد فرما"۔

(۴) اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کے فیصلے کے باعث کہ سب سے پہلے انہوں نے بیعت کی۔ (احمد، مشکوٰۃ)

48- حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا علم ترازو کے ایک پلے میں اور تمام اہل دنیا کا علم ترازو کے دوسرے پلے میں رکھ کر تولا جائے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پلہ ہی بھاری رہے گا کیونکہ علم کے دس حصوں میں سے نو حصے علم آپ کو دیا گیا ہے۔ (طبرانی، حاکم، تاریخ الخلفاء: ۱۹۵)

49- حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میری امت سے وہ آدمی جنت میں بڑے بلند درجے والا ہے۔ حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ خدا کی قسم، ہم اس آدمی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہی مراد لیا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ اپنے راستے پر چلے گئے یعنی وصال فرما گئے۔ (ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

50- حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو زخمی کیا گیا اور انہوں نے تکلیف محسوس کی تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے تسلی دیتے ہوئے کہا، اے امیر المؤمنین! کیا آپ پریشان ہیں حالانکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہے اور اچھا ساتھ نبھایا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو آپ سے راضی تھے پھر آپ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت میں رہے اور اچھا ساتھ نبھایا۔ پھر جب وہ جدا ہوئے تو آپ سے راضی تھے۔ پھر آپ کی صحابہ کرام سے صحبت رہی اور اچھی صحبت رہی۔ اگر آپ ان سے جدا بھی ہو جائیں تو وہ آپ سے راضی ہیں۔

فرمایا، تم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رضامندی کا ذکر کیا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے جو اس نے مجھ پر فرمایا۔ تم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت اور رضامندی کا ذکر کیا تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہے جو اس نے مجھ پر فرمایا۔ اور جو تم میری پریشانی دیکھ رہے ہو یہ تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم! اگر میرے پاس زمین بھر سونا بھی ہوتا تو میں اللہ کے عذاب کو دیکھنے سے پہلے اس کا فدیہ لو کر دیتا۔

(بخاری باب مناقب عمر بن خطاب)

51- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرفہ پر عموماً اور حضرت عمر پر خصوصاً فخر کیا ہے۔ جتنے انبیاء کرام مبعوث ہوئے ہیں، ہر ایک کی امت میں ایک محدث ضرور ہوا ہے اگر میری امت کا کوئی محدث ہے تو وہ عمر ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! محدث کون ہوتا ہے؟ فرمایا، جس کی زبان سے ملائکہ گفتگو کریں۔

اس حدیث کی اسناد درست ہیں۔ (طبرانی فی الاوسط، تاریخ الخلفاء: ۱۹۳)

52- حضرت نضل بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد حق عمر کے ساتھ رہے گا خواہ وہ کہیں ہوں۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۳، طبرانی)

53- حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مرض الوصال میں دریافت کیا گیا، اگر آپ سے اللہ تعالیٰ یہ دریافت فرمائے کہ تم نے عمر رضی اللہ عنہ کو کیوں خلیفہ منتخب کیا تو آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ فرمایا، میں عرض کروں گا کہ میں نے ان لوگوں پر ان میں سے سب سے بہتر شخص کو اپنا خلیفہ مقرر کیا تھا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۵، طبقات ابن سعد)

54- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا موملی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، عمر اہل جنت کا چہ ارغ ہیں۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۳، المرار، ابن عساکر)

55- حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جانب اشارہ کر کے فرمایا، یہی وہ ہستی ہے جس کے باعث فتنہ و فساد کے دروازے بند ہیں اور یہ جب تک زندہ رہے گا اس وقت تک تم میں کوئی پھوٹ اور فتنہ و فساد نہیں ڈال سکے گا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۳، ازلة الخفاء)

56- حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مجھ سے جبرئیل نے کہا ہے کہ اسلام عمر کی موت پر روئے گا یعنی ان کی وفات سے اسلام کو بہت نقصان پہنچے گا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۳، طبرانی)

57- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے سوا کسی شخص سے واقف نہیں جس نے جرأت کے ساتھ راہ خدا میں ملامت سنی ہو۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۵)

58- حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے آقا موملی رضی اللہ عنہ نے مجھ سے (ازراہ کرم و عنایت) یہ فرمایا، ”اے میرے بھائی! ہمیں اپنی دعا میں نہ بھولانا۔“

(ابوداؤد، ابن ماجہ)

وہ عمر جس کے انداء پہ شہدا ستر اُس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام

فضائل ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما قرآن میں:

1- فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ - (التحریم: ۳)

”بیشک اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل اور نیک ایمان والے۔“ - (کنز الایمان)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صالح مؤمنین سے مراد حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ (تفسیر بغوی)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عمر، ابن عباس اور سعید بن جبیر رضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ

یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ (تفسیر مظہری)

2- شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ (آل عمران: ۱۵۹) ”کاموں میں ان سے مشورہ لو“۔ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت میں رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ

ابوبکر و عمر سے مشورہ کیا کرو۔ اس آیت کے نزول پر سرکارِ دو عالم ﷺ نے حضراتِ شیخین سے فرمایا، جب تم دونوں کسی رائے پر متفق ہو جاؤ تو میں تمہارے

خلاف نہیں کرتا۔

(ازالۃ الخفاء: ج ۲: ۳۳، مستدرک للحاکم، تفسیر ابن کثیر)

3- وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ - (آل عمران: ۱۴۵)

”اور قریب ہے کہ ہم شکر والوں کو صلہ عطا کریں“۔ (کنز الایمان)

جو (غز وہ احد میں نبی کریم ﷺ کی شہادت کی جھوٹی افواہ سن کر) نہ پھرے اور اپنے دین پر ثابت رہے، انکو شاکرین فرمایا کیونکہ انہوں نے اپنے ثبات سے

نعمتِ اسلام کا شکر ادا کیا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور انکے ساتھی جو اپنے دین پر قائم رہے وہ شاکرین ہیں۔ (جن میں

حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں) حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ امیر الشاکرین ہیں۔ (ازالۃ الخفاء: ج ۲: ۳۵، تفسیر

تذکرۃ العرفان)

4- إِنَّ الدَّيْنَيْنِ يَغْضُوبُونَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَئِكَ الَّذِينَ امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ فَلَتُقْوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ

عَظِيمٌ ○ (الحجرات: ۳)

”بیشک وہ جو اپنی آوازیں پست کرتے ہیں رسول اللہ کے پاس، وہ ہیں جن کا دل اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب

ہے۔“ - (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ علیہ)

آیت لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ (اپنی آواز نبی کریم ﷺ کی آواز پر بلند نہ کرو) کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر و عمر اور بعض اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے بہت

احتیاط لازم کر لی اور خدمتِ اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض معروض کرتے۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تذکرۃ العرفان)

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کے دل اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کے لیے پرکھ لیے ہیں، جو انہیں فاسق مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ (نور العرفان)

فضائل ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما، احادیث میں:

59- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے آقا و مولیٰ ﷺ سے سوال کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اُس نے عرض کی، میرے پاس تو کوئی عمل نہیں سوائے اس کے کہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت کرتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، تم اُنہی کے ساتھ ہو گے جن سے محبت رکھتے ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے کسی بات سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جس قدر خوشی یہ فرمان سن کر ہوئی کہ ”تم اس کے ساتھ ہو گے جس سے محبت کرتے ہو“۔ میں آقا و مولیٰ نبی کریم ﷺ سے محبت کرتا ہوں اور حضرت ابو بکر و حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے محبت کرتا ہوں لہذا مجھے امید ہے کہ میں اُن سے محبت کی وجہ سے انکے ساتھ رہوں گا اگرچہ میرے اعمال اُن جیسے نہیں۔ (صحیح بخاری باب مناقب عمر بن خطاب)

60- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ایک آدمی گائے کو ہانک رہا تھا۔ جب تھک گیا تو اس پر سوار ہو گیا۔ اس نے کہا، ہمیں اس لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے بلکہ ہمیں زمین کی کاشت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، سبحان اللہ! گائے بولتی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ”اس بات کو میں نے مانا اور ابو بکر و عمر نے“ حالانکہ وہ دونوں وہاں موجود نہ تھے۔

پھر فرمایا، ایک آدمی اپنی بکریوں میں تھا جب کہ بھڑیے نے ایک بکری پر حملہ کیا اور اسے پکڑ لیا۔ اس کے مالک نے وہ بکری چھڑالی۔ بھڑیے نے اس سے کہا، یوم سبوح کو اس کی حفاظت کون کرے گا جبکہ میرے سوا کوئی جہ واپا نہیں ہوگا۔ لوگوں نے کہا، سبحان اللہ! بھڑیا باتیں کرتا ہے۔ فرمایا، ”میں نے اس بات کو مانا اور ابو بکر و عمر نے بھی“۔ حالانکہ وہ وہاں موجود نہ تھے۔ (بخاری، مسلم)

61- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مسجد میں تشریف لاتے تو حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کے سوا کوئی اور سر نہ اٹھاتا۔ یہ حضور ﷺ کو دیکھ کر مسکراتے اور حضور ﷺ انہیں دیکھ کر تبسم فرماتے۔ (ترمذی)

62- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد انکے لیے دعا کر رہے تھے جب کہ وہ تختے پر تھے تو ایک آدمی نے اپنی کہنی میرے کندھے پر رکھ کر کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے۔ مجھے امید ہے کہ وہ آپ کو آپ کے دونوں ساتھیوں سے ملا دے گا کیونکہ میں نے اکثر رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، ”میں اور ابو بکر و عمر تھے، میں نے اور ابو بکر و عمر نے کیا، میں اور ابو بکر و عمر گئے، میں اور ابو بکر و عمر اندر داخل ہوئے، میں اور ابو بکر و عمر باہر نکلے“۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ (بخاری، مسلم)

63- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، مجھے نہیں معلوم کہ میں تم میں کتنے دن اور رہوں گا لہذا میرے بعد والوں میں سے ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ (ترمذی)

64- حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، بیشک جنتی لوگ علیین والوں کو اس طرح دیکھیں گے جیسے تم چمک دار تارے کو آسمان کے کنارے پر دیکھتے ہو۔ اور بیشک ابو بکر و عمر اُنہی میں سے ہیں اور دونوں خوب تر ہیں۔ (مشکوٰۃ، ترمذی، ابن ماجہ)

65- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، ابو بکر و عمر انبیائے کرام و مرسلین عظام کے سوا تمام اہل جنت کے عمر رسیدہ لوگوں کے سردار ہیں۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

66- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک روز مسجد میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر میں سے ایک آپ کے دائیں جانب اور ایک بائیں جانب تھے۔ آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور فرمایا، میں قیامت کے روز اسی طرح اٹھایا جاؤں گا۔ (ترمذی)

67- حضرت عبداللہ بن حبیبؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما کو کچھ کفر فرمایا، یہ دونوں کان اور آنکھ ہیں (یعنی میرے لیے اس قدر اہم ہیں جیسے جسم کے لیے کان اور آنکھ)۔ (ترمذی)

68- حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا پس حضرت ابو بکر آئے۔ پھر فرمایا کہ تمہارے پاس ایک جنتی شخص آئے گا۔ پس حضرت عمر آئے۔ (ترمذی)

69- حضرت ابوسعیدؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، کوئی نبی نہیں مگر اس کے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو زمین والوں میں سے ہوتے تھے، میرے دو آسمانی وزیر جبرئیل و میکائیل ہیں اور زمین پر میرے وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ (ترمذی)

70- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ ایک چاندنی رات میں رسول کریم ﷺ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ ﷺ! کیا کسی کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں؟ فرمایا، ہاں! عمر کی۔ میں نے عرض کی، اور حضرت ابو بکر کی نیکیوں کا کیا حال ہے؟ فرمایا، عمر کی ساری نیکیاں ابو بکر کی ایک نیکی جیسی ہیں۔ (مشکوٰۃ)

71- حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، میرے پاس جبریلؑ آئے تو میں نے کہا، مجھ سے عمر بن خطاب کے فضائل بیان کرو۔ انہوں نے کہا، اگر عمر کے فضائل بیان کرنے کے لیے مجھے حضرت نوحؑ کی زندگی مل جائے تو بھی عمر کے فضائل ختم نہ ہوں حالانکہ عمر کے تمام فضائل، ابو بکر کے فضائل کا ایک جزو ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۱۲۱، تاریخ الخلفاء: ۱۱۳، ابویعلیٰ)

72- حضرت ابن مسعودؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ہر نبی کے اصحاب میں سے کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں۔ میرے اصحاب میں سے خاص لوگ ابو بکر اور عمر ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۱۱۸، تاریخ الخلفاء: ۱۱۵، طبرانی)

73- حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میرے بعد میری امت میں بہترین افراد ابو بکر اور عمر ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۱۱۸، ابن عساکر)

74- حضور اکرم ﷺ نے ایک مرتبہ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ سے فرمایا، اُس خدا کا شکر ہے جس نے تم کو میرا مددگار بنایا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۱۳، بزار، حاکم)

75- حضرت ابن عمرؓ سے پوچھا گیا کہ عہد نبوی میں کون فتویٰ دیا کرتا تھا؟ جواب دیا، حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ سے زیادہ کوئی عالم نہیں تھا اس لیے یہی دونوں حضرات فتویٰ دیا کرتے تھے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۱۵، طبقات ابن سعد)

76- حضرت ابوالدرداءؓ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، میرے بعد ابو بکر و عمر کی پیروی کرنا کیونکہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی پھیلائی ہوئی رسی ہیں۔ جو ان کا دامن تھام لے گا وہ کبھی نہ گھلنے والی گرہ تھام لے گا۔ (الصواعق المحرقة: ۱۱۶، طبرانی)

77- حضرت ابواسامہؓ فرماتے ہیں، لوگو! تم جانتے ہو کہ حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ کا دین اسلام میں کیا مقام ہے۔ وہ اسلام کے لیے ایسے تھے جیسے (اولاد کے لیے) ماں باپ۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۷)

78- حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، جس نے میرے اصحاب میں سے کسی کو ابو بکر و عمر پر فضیلت دی، اُس نے مہاجرین و انصار پر زیادتی کی۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۱۰، طبرانی فی الاوسط)

79- حضرت شریکؓ فرماتے ہیں، جس شخص میں ذرا سی بھی نیکی ہے وہ کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ حضرت علیؓ، سیدنا ابو بکرؓ اور سیدنا عمرؓ سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۷)

80- حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ کی محبت ایمان کی علامت ہے اور ان سے بغض رکھنا کفر کی نشانی ہے۔

(تاریخ الخلفاء: ۱۱۵، الصواعق المحرقة: ۱۲۲، ابن عساکر)

صدق الصادقین ، سید المستقین چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام  
ترجمان نبی ، ہم زبان نبی جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام

☆☆☆☆

خليفة سوم سيدنا عثمان ذوالنورين ﷺ:

سیدنا ابو بکر ﷺ اور سیدنا عمر ﷺ کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان ذوالنورین ﷺ ہیں۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ ﷺ کے بعد ایمان لائے۔ آپ نے اسلام کے لیے دوبارہ ہجرت کی، ایک بار حبشہ کی طرف اور دوسری بار مدینہ منورہ کی طرف۔ حضرت عمر ﷺ نے آپ کا شمار ان چھ خوش نصیب ہستیوں میں کیا جن سے نبی کریم ﷺ ظاہری وصال تک راضی رہے۔ آپ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے قرآن پاک کو لغت قریش پر جمع کیا۔

حضرت ابن سیرین ﷺ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ﷺ مناسک حج کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے۔ آپ نے سرکارِ دو عالم ﷺ سے ایک سو چھیالیس (۱۳۶) احادیث روایت کی ہیں۔ آپ کی حیا اور سخاوت بہت مشہور ہے۔ آپ نے اپنے مال سے اسلام اور مسلمانوں کو بہت نفع پہنچایا اور کئی بار جنت کی بشارت حاصل کی۔

حضرت امام حسن ﷺ سے روایت ہے کہ آپ کا لقب ذوالنورین اس لیے ہوا کیونکہ آپ کے سوا کسی شخص کے نکاح میں کسی نبی کی دو صاحبزادیاں نہیں آئیں۔

حضرت علی ﷺ سے جب حضرت عثمان ﷺ کے متعلق دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا، وہ ایسی ہستی ہیں جو ملاءِ اعلیٰ میں ذوالنورین کے لقب سے مشہور ہیں۔

آقا مولیٰ ﷺ کا ارشادِ گرامی ہے، ”میں نے اپنی صاحبزادیوں کے نکاح عثمان سے وحی الہی کے ذریعہ سے کیے تھے“۔

حضرت عمر ﷺ نے خلیفہ کے انتخاب کے لیے چھ جدید صحابہ کرام پر مشتمل جو کمیٹی بنائی تھی اس نے حضرت عثمان ﷺ کو خلیفہ منتخب کیا۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے تخلیہ میں حضرت عثمان ﷺ سے پوچھا، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ مجھے کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ آپ نے فرمایا، علی سے۔ پھر میں نے اسی طرح تنہائی میں حضرت علی ﷺ سے پوچھا، اگر میں آپ کی بیعت نہ کروں تو آپ کس سے بیعت کرنے کا مشورہ دیں گے؟ انہوں نے فرمایا، عثمان سے۔ پھر میں نے دیگر صحابہ سے مشورہ کیا تو اکثر کی رائے حضرت عثمان ﷺ کی طرف پائی۔

حضرت ابی وائل ﷺ سے روایت ہے کہ میں نے عبدالرحمن بن عوف ﷺ سے دریافت کیا، تم نے حضرت عثمان ﷺ سے کیوں بیعت کی اور حضرت علی ﷺ سے کیوں بیعت نہ کی؟ انہوں نے جواب دیا، اس میں میرا کچھ قصور نہیں۔ میں نے پہلے حضرت علی ﷺ ہی سے کہا تھا کہ میں آپ سے کتاب اللہ، سنت رسول اللہ ﷺ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی سنت پر بیعت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، مجھ میں اس کی استطاعت نہیں ہے۔ پھر میں نے حضرت عثمان ﷺ سے یہی باتیں کہیں تو انہوں نے جواب دیا، بہت اچھا۔ پس میں نے ان سے بیعت کر لی۔

اس روایت کی بنیاد پر گمان یہ ہے کہ حضرت علی ﷺ نے جب عام صحابہ کرام، ہم الامواں کا رجحان حضرت عثمان ﷺ کے حق میں دیکھا تو آپ نے صحابہ کرام کی مرضی کے خلاف زبردستی ان کا خلیفہ بننا پسند نہ فرمایا اور خلافت کا منصب قبول کرنے سے معذرت کر لی۔ واللہ تعالیٰ اعلم

آپ کے دورِ خلافت میں بھی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا۔ ملک روم کا وسیع علاقہ، قبرص، افریقہ، اندلس (اسپین) اور ایران کے کئی علاقے فتح ہوئے۔ خاص

بات یہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے پہلے اسلامی بحری بیڑے کے ذریعے قبرص پر حملہ کر کے اسے فتح کیا۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت کے ابتدائی چھ سالوں میں لوگوں کو آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوئی البتہ بعد ازاں بعض کورنوں کی وجہ سے لوگوں کو شکایات ہوئیں۔ دراصل مسلمانوں کی عظیم سلطنت کو نقصان پہنچانے کے لیے یہودی روز بروز سازشوں میں مصروف تھے چنانچہ انکے ایجنٹ عبداللہ بن سبائے نے مذکورہ شکایات کو بنیاد بنا کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف ایک مذموم پراپیگنڈا مہم شروع کر دی۔ وہ اور اسکے ساتھی جگہ جگہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی ناقصانی اورا قربا پروری کی داستانیں مشہور کرنے لگے۔ معاملہ اس وقت سنگین ہو گیا جب اہل مصر نے اپنے کورن ابن ابی سرح کے خلاف شکایات کیں اور آپ نے اسے بذریعہ خط سخت تنبیہ فرمائی۔ لیکن کورن نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی بلکہ جو مصری لوگ شکایات لے کر مدینہ منورہ آئے تھے، انہیں قتل کرادیا۔ اس طرح حالات مزید خراب ہوئے۔

چنانچہ تاریخ طبری کے مطابق بصرہ، کوفہ اور مصر سے تقریباً دو ہزار فتنہ پرداز افراد حایوں کی وضع میں مدینہ شریف پہنچ گئے، انکے عزائم ابھی نہ تھے۔ مصریوں نے کورن کو معزول کرنے کا مطالبہ کیا۔ آپ نے فرمایا، تم کوئی اور شخص بتاؤ، میں اسے کورن مقرر کر دوں گا۔ مصری وفد نے کہا، محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما دیجیے۔ چنانچہ آپ نے ابن ابی سرح کی معزولی اور انکی تقرری کا فرمان جاری کر دیا۔ محمد بن ابوبکر رضی اللہ عنہ بھی کچھ صحابہ کے ہمراہ قافلے کی صورت میں مصر روانہ ہوئے۔

راستے میں ایک صحابی غلام سائڈنی پر سوار تیزی سے اس قافلے کے پاس سے گزرا تو انہیں اس پر شک ہوا کہ کسی کا قاصد ہے یا کوئی مفروہ ہے۔ اسے پکڑ کر پوچھا، تو کون ہے؟ بولا، میں امیر المومنین کا غلام ہوں، پھر کہنے لگا، میں مروان کا غلام ہوں۔ پوچھا، تجھے کہاں بھیجا ہے؟ بولا، عامل مصر کے پاس خط دیکر بھیجا ہے۔ تلاشی لینے پر خط برآمد ہو گیا۔ اس میں کورن کے نام یہ تحریر تھا،

”جس وقت تمہارے پاس محمد بن ابوبکر اور فلاں فلاں لوگ پہنچیں تو تم کسی حیلے سے انہیں قتل کر دو اور اس فرمان کو کالعدم قرار دو اور حسب سابق اپنا کام جاری رکھو۔“ خط پر امیر المومنین کی مہر ثبت تھی۔ یہ پڑھ کر سب دنگ رہ گئے۔ مدینہ منورہ واپس آ کر اکابر صحابہ کو جمع کر کے یہ خط پڑھوایا گیا۔ اس پر سب لوگ برہم ہوئے۔ محمد بن ابوبکر، انکے قبیلہ بنو تمیم اور باغیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔

یہ صورتحال دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کے ہمراہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور دریافت کیا، یہ غلام آپ کا ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر پوچھا، کیا یہ اونٹنی بھی آپ کی ہے؟ فرمایا، ہاں۔ پھر آپ نے وہ خط پیش کر کے کہا، کیا یہ خط آپ نے لکھا ہے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نہیں۔ خدا کی قسم! نہ میں نے یہ خط لکھا، نہ کسی کو لکھنے کا حکم دیا اور نہ اسکے متعلق مجھے کچھ معلوم ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تعجب کی بات ہے کہ غلام آپ کا، اونٹنی آپ کی، مہر بھی آپ کی مگر آپ کو کوئی علم نہیں۔ آپ نے پھر قسم کھائی کہ مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ اس پر صحابہ کو یقین ہو گیا کہ آپ اس سازش سے بری ہیں۔

بعد میں کچھ لوگوں نے غور کر کے پہچانا کہ یہ تحریر مروان کی ہے۔ چونکہ وہ آپ ہی کے پاس مقیم تھا اس لیے لوگوں نے مطالبہ کیا کہ مروان کو ہمارے حوالے کریں مگر آپ نے انکار فرمادیا کیونکہ لوگ غریظ و غضب میں بھرے ہوئے تھے اس لیے آپ کو یہ اندیشہ تھا کہ وہ مروان کو قتل کر دیں گے۔ نیز چونکہ ایک تحریر دوسری تحریر کے مشابہہ ہو سکتی ہے اور شبہ کا فائدہ ملزم کو پہنچتا ہے اس لیے آپ نے مروان کو انکے سپرد نہیں کیا۔

بلوایوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے خلافت سے دستبردار ہونے کا مطالبہ کیا جس کے جواب میں آپ نے فرمایا، میرے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا، ”اے عثمان! عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص پہنائے گا یعنی خلافت عطا کرے گا۔ اگر لوگ اسے اٹارنا چاہیں تو تم نہ اٹارنا۔“ پس میں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف نہیں کر سکتا۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، ”بیشک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک عہد لیا تھا اور میں اس پر صابر ہوں۔“ (ترمذی، ابن ماجہ، مشکوٰۃ)

آپ کے انکار پر محاصرہ اور سخت کر دیا گیا جو کہ مسلسل چالیس دن تک قائم رہا یہاں تک کہ آپ پر پانی بھی بند کر دیا۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اوپر سے

جھانک کر مجمع سے پوچھا، کیا تم میں علی ہیں؟ لوگوں نے کہا، نہیں۔ پھر پوچھا، کیا تم میں سعد ہیں؟ جواب ملا، نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، کوئی شخص علیؑ کو یہ خبر پہنچا دے کہ وہ ہمارے لیے پانی مہیا کر دیں۔ یہ خبر سیدنا علیؑ تک پہنچی تو آپ نے پانی سے بھرے ہوئے تین مشکیزے بھجوا دیے لیکن یہ پانی ان تک سخت کوشش کے بعد پہنچا اور اس دوران بنو ہاشم اور بنو امیہ کے چند لوگ زخمی بھی ہو گئے۔ اس بات سے حضرت علیؑ کو اندازہ ہو گیا کہ بلوائی حضرت عثمانؓ کو قتل کرنے کے درپے ہیں۔ اکابر صحابہ نے بلوائیوں کو سمجھانے کے لیے متعدد تقریریں کیں مگر ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔

حضرت علیؑ نے اپنے صاحبزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ تم لوگ میرے لیکر حضرت عثمانؓ کے دروازے پر چوکس کھڑے رہو اور خبردار! کسی بلوائی کو ہرگز اندر نہ جانے دینا۔ اسی طرح حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور دیگر اکابر صحابہؓ نے اپنے اپنے بیٹوں کو انکی حفاظت کا حکم دیا اور یہ سب نہایت مستعدی سے مسلسل ان کی حفاظت کرتے رہے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہؓ سے روایت ہے کہ میں نے محاصرہ کے دوران حضرت عثمانؓ سے عرض کی، آپ امیر المؤمنین ہیں۔ میری تین باتوں میں سے ایک ضرور مان لیجیے۔ اول یہ کہ آپ حق پر ہیں اور وہ باطل پر نیز یہاں آپ کے حامیوں کی عظیم جماعت موجود ہے۔ آپ حکم دیجیے کہ ان باغیوں کو مقابلہ کر کے نکال دیں۔ دوم یہ کہ آپ پچھلی طرف سے نکل کر مکہ مکرمہ چلے جائیے۔ وہاں حرم کعبہ کی وجہ سے یہ لوگ آپ پر حملہ نہیں کریں گے۔ سوم یہ کہ آپ ملک شام چلے جائیے وہاں امیر معاویہؓ اور انکی فوج موجود ہے۔ حضرت عثمانؓ نے جواب میں فرمایا، رسول اللہ ﷺ کا خلیفہ ہو کر میرے لیے یہ ناممکن ہے کہ میں اپنی حکومت کی بقا کے لیے مسلمانوں کی خوزری کر اؤں۔ دوسری بات کا جواب یہ ہے کہ مکہ معظمہ جانا مجھے اس لیے پسند نہیں کہ ان لوگوں سے یہ توقع نہیں کہ یہ حرم مکہ کی حرمت کا کوئی لحاظ کریں گے اس لیے میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے اس مقدس شہر کی حرمت پامال ہو۔ اور تیسری صورت کا جواب یہ ہے کہ میں اپنی ہجرت کے مقام اور رسول کریم ﷺ کے محبوب شہر کو چھوڑ کر کہیں نہیں جانا چاہتا۔ (مسند احمد)

حضرت عبد اللہ بن زبیر، زید بن ثابت انصاری، حضرت ابو ہریرہ اور کئی صحابہؓ نے باغیوں سے لڑنے کی اجازت مانگی مگر آپ نے سب کو منع کیا اور فرمایا، ”اللہ کی قسم! خوزری سے پہلے قتل ہو جانا مجھے زیادہ محبوب ہے اس سے کہ میں خوزری کے بعد قتل کیا جاؤں۔“ مطلب یہ ہے کہ جب آقا موملی ﷺ نے مجھے شہادت کی بشارت دیدی ہے تو اگر تم جنگ بھی کرو گے تو مجھے قتل ہونے سے نہیں بچا سکو گے۔

مسلسل سخت پہرہ دیکھ کر آخر کار بلوائیوں نے دور ہی سے حضرت عثمانؓ پر تیر چلائے۔ ایک تیر لگنے سے حضرت حسنؓ زخمی ہو گئے، حضرت علیؓ کے ایک غلام کے علاوہ محمد بن طلحہؓ بھی زخمی ہوئے۔ اس پر محمد بن ابوبکرؓ کو یہ خوف ہوا کہ اگر بنو ہاشم نے حضرت حسنؓ کو زخمی دیکھ لیا تو وہ بگڑ جائیں گے۔ لہذا وہ دو بلوائیوں کے ساتھ ایک انصاری کے مکان میں داخل ہوئے اور وہاں سے دیوار پھاند کر حضرت عثمانؓ کے گھر میں پہنچ گئے۔ یوں باہر اور چھت پر موجود لوگوں کو خبر نہ ہوئی۔

نیچے حضرت عثمانؓ سے تلاوت فرما رہے تھے اور انکے پاس صرف انکی اہلیہ تھیں۔ محمد بن ابوبکرؓ نے قریب پہنچ کر حضرت عثمانؓ کی داڑھی مبارک پکڑ لی تو سیدنا عثمانؓ نے فرمایا، ”اگر تیرے والد ابوبکرؓ تجھے یہ حرکت کرتے دیکھتے تو وہ کیا کہتے۔“ یہ سن کر انہوں نے آپ کی داڑھی چھوڑ دی اور نادم ہو کر پیچھے ہٹ گئے۔ لیکن دوسرے دو بلوائیوں نے آگے بڑھ کر سیدنا عثمانؓ کو شہید کر دیا۔ اس دوران آپ کی زوجہ محترمہ نے بہت چیخ و پکار کی لیکن بلوائیوں کا شور اس قدر تھا کہ کوئی ان کی آواز نہ سن سکا۔ پھر وہ چھت پر گئیں اور لوگوں کو بتایا کہ امیر المؤمنین شہید کر دیے گئے۔

حضرت علیؓ سب سے پہلے وہاں پہنچے اور اپنے فرزندوں پر غصہ ہوئے کہ تمہارے ہوتے ہوئے امیر المؤمنین کس طرح شہید ہوئے۔ غصہ سے آپ نے ایک طمانچہ حضرت حسن کے اور ایک گھونسہ حضرت حسین کے سینے پر مارا۔ محمد بن طلحہ اور عبد اللہ بن زبیرؓ کو بھی برا بھلا کہا۔ پھر حضرت عثمانؓ کی اہلیہ سے تاتلوں کے متعلق پوچھا۔ انہوں نے بتایا، میں انہیں تو نہیں جانتی مگر انکے ساتھ محمد بن ابوبکرؓ تھے۔

اب حضرت علیؓ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا، میں قتل کے ارادے سے داخل ضرور ہوا تھا مگر جب انہوں نے میرے والد حضرت ابوبکرؓ کا ذکر کر



دیا تو میں انہیں چھوڑ کر پیچھے ہٹ گیا۔ میں اپنے اس فعل پر نادم ہوں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہوں۔ خدا کی قسم! میں نے نہ ان کو پکڑا اور نہ ہی قتل کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی مصری نے شہید کیا تھا۔

۱۸ ذی الحجہ ۳۵ھ کو جمعہ کا دن تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خواب میں دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہما شریف فرما چیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، ”عثمان! جلدی کرو۔ آج تم ہمارے ساتھ اظہار کرنا۔“ اسی دن آپ شہید کیے گئے۔

آپ کی عظمت کا اندازہ اس بات سے کیجیے کہ آپ کے باغی کم و بیش دو ہزار تھے اور آپ کے حامی کئی ہزار۔ آپ نے چالیس روز محاصرہ میں رہنا، بھوک اور پیاس برداشت کرنا اور جام شہادت نوش کرنا قبول کر لیا مگر اپنی ایک جان کی خاطر یا اپنی حکومت کی خاطر کسی کلمہ کو کا خون بہانا کوارہ نہ کیا۔

(ماخوذ از تاریخ الخلفاء و تاریخ طبری و طبقات ابن سعد)

فضائل سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، قرآن میں:

1- اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ اَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يُبْعَثُونَ مَا اَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا اَذٰى لَهُمْ اَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ - (البقرہ: ۲۶۴)

”وہ جو اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر دینے کے بعد نہ احسان رکھیں نہ تکلیف دیں۔ ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور انہیں نہ کچھ اندیشہ ہونہ کچھ غم۔“

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے غزوہ تبوک میں ایک ہزار اونٹ مع سامان کے بارگاہ نبوی میں پیش کئے تو یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر بغوی، تفسیر مظہری)

2- اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ اِنَّمَا اَلَيْبِي سَاجِدًا وَّ قَائِمًا يَحْمِلُ الْاِجْرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةً رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُونَ وَ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ - (الزمر)

”کیا وہ جسے فرمانبرداری میں رات کی گھڑیاں گزریں تجو د میں اور قیام میں، آخرت سے ڈرتا اور اپنے رب کی رحمت کی آس لگائے، کیا وہ نافرمانوں جیسا ہو جائے گا؟ تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان (ہرگز نہیں)۔“ (کنز الایمان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی شان میں نازل ہوئی اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی۔

(تفسیر بغوی، تفسیر مظہری، خزائن العرفان)

3- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”جو شخص بیتر رومہ خرید کر راہ خدا میں دے گا، اللہ اس کی مغفرت فرما دے گا۔“ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے اسے خرید لیا تو سرکار نے فرمایا ”کیا تمھاری نیت یہ ہے کہ اسے لوگوں کی سیرابی کا ذریعہ بناؤ؟ عرض کی، ہاں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں یہ آیات نازل فرمائیں۔

يَا أَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي اِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَاذْخُلِي جَنَّتِي - (الفجر: ۲۷-۳۰)

”اے اطمینان والی جان! اپنے رب کی طرف واپس ہو یوں کہ تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، پھر میرے خاص بندوں میں داخل ہو اور میری طرف جنت میں آ۔“ (کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ)

علامہ ابن کثیر نے بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر)

4- وَصَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ ..... وَهُوَ عَلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ - (الاحقاف)

”اور اللہ نے کہاوت بیان فرمائی، دومرد (ہیں جن میں) ایک کو لگا جو کچھ کام نہیں کر سکتا اور وہ اپنے آقا پر بوجھ ہے، جدھر بھیجے کچھ بھلائی نہ لائے۔ کیا برا ہو جائے گا یہ اور وہ جو انصاف کا حکم کرتا ہے اور وہ سیدھی راہ پر ہے۔“ (کنز الایمان)

ابن جریر رحمہ اللہ نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور ان کے غلام اسید کے بارے میں نازل ہوئی، یہ غلام اسلام کو ناپسند کرتا تھا اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو صدقہ اور نیکی سے منع کرتا تھا۔ (تفسیر مظہری، از لایۃ الخفاء ج ۲: ۱۳۳)

5- مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَطَعْنَا وَفِيهِمْ مَنْ يَنْتَظِرُ۔ (الاحزاب: ۲۳)

”مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے سچا کر دکھایا جو عہد اللہ سے کیا تھا تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی راہ دکھ رہا ہے۔“ (کنز الایمان)

یہ آیت حضرت عثمان اور ان جلیل القدر صحابہ رضی اللہ عنہم کے حق میں نازل ہوئی جنہوں نے رب تعالیٰ سے عہد کیا تھا کہ اگر ہمیں جہاد کا موقع ملا تو ہم ثابت قدم رہیں گے اور انہوں نے اپنا وعدہ سچا کر دکھایا۔ حضرت حمزہ و مصعب شہید ہو گئے اور حضرت عثمان و طلحہ رضی اللہ عنہما شہادت کا انتظار کر رہے ہیں۔ (تفسیر خزائن العرفان)

6- لَقَدْ رَجَعِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يَبِغُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا ○ (الفتح: ۱۸)

”بے شک اللہ راضی ہوا ایمان والوں سے جب وہ اس بیڑ کے نیچے تمہاری بیعت کرتے تھے تو اللہ نے جانا جو ان کے دلوں میں ہے تو ان پر الطمینان اتارا اور انہیں جلد آنے والی فتح کا انعام دیا۔“ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکہ میں حدیبیہ میں نبی کریم رضی اللہ عنہ سے بیعت کرنے والوں کو رضائے الہی، سکون و الطمینان اور فتح و نصرت کی بشارت دی گئی۔ بیعت رضوان اور اس سے متعلق آیات کے نزول کا سبب حضرت عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی افواہ تھی جب وہ حضور اکرم رضی اللہ عنہ کے سفیر بن کر مکہ مکرمہ گئے اور انہیں کافروں نے روک لیا۔ اس پر آتا ہوئی رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے کفار کے مقابل جہاد میں ثابت قدم رہنے پر بیعت لی۔

علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں ایک منافق کا درخت تھا جو اسکے انصاری پڑوسی کے مکان پر جھکا ہوا تھا اس لیے اس کا پھل اس انصاری کے مکان میں گرتا تھا۔ انصاری نے اسکا ذکر نبی کریم رضی اللہ عنہ سے کیا تو حضور رضی اللہ عنہ نے اس منافق سے (جس کا نفاق ابھی ظاہر نہ ہوا تھا) فرمایا تم وہ درخت انصاری کو بیچ دو، اسکے عوض تمہیں جنت کا درخت ملے گا۔ اس منافق نے انکار کر دیا۔

جب اس بات کی خبر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو آپ نے پورا باغ دیکر اسکے عوض منافق سے وہ درخت خرید لیا اور انصاری کو دیدیا۔ اس پر آپ کی شان میں اور اس منافق کی مذمت میں یہ آیات نازل ہوئیں۔

سَيَذَكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَنْجِيهَا الْأَشْقَى الْبِدَى يَضَلِّي النَّارَ الْكُبْرَى۔

”عقرب صیحت مانے گا جو ڈرتا ہے اور اس سے وہ بڑا بد بخت دور رہے گا جو سب سے بڑی آگ میں جائے گا۔“ (الاعلیٰ، ۱۰-۱۲، تفسیر روح البیان)

فضائل سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ، احادیث میں:

81- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم نبی کریم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کسی کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے برابر نہیں سمجھتے تھے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو فضیلت دیتے اور پھر دیگر اصحاب پر کسی کو فضیلت نہیں دیتے تھے۔

(صحیح بخاری باب مناقب عثمان)

82- سرکارِ دو عالم رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جو رومہ کنوئیں کو خریدے، اس کے لیے جنت ہے، اسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے خریدا اور مزید کھدوایا۔ نبی کریم رضی اللہ عنہ نے

تبوک کے موقع پر فرمایا، جو تنگی والے لشکر کا سامان مہیا کر دے اس کے لیے جنت ہے تو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے سامان فراہم کر دیا۔ (بخاری باب مناقب عثمان)

83 - حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں داخل ہوئے اور مجھے باغ کے دروازے کا خیال رکھنے کے لیے فرمایا۔ پس ایک صاحب آئے تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی۔ غیب بتانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو۔ وہ صاحب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر ایک صاحب آئے اور اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو۔ وہ صاحب حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھے۔

پھر ایک اور صاحب نے اجازت مانگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر خاموش رہے پھر فرمایا، انہیں بھی اجازت دے دو اور جنت کی بشارت دو لیکن ایک مصیبت کے ساتھ جو انہیں پہنچے گی۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھے۔ (بخاری باب مناقب عثمان)

84 - صحیح مسلم کی روایت میں یہ بھی ہے کہ اس پر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، "اے اللہ! اُس مصیبت پر مجھے صبر عطا فرما"۔ (باب من فضائل عثمان)

85 - حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان کے لیے حکم فرمایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ بھیجا ہوا تھا۔ پس صحابہ نے بیعت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیشک عثمان، اللہ اور اسکے رسول کے کام سے گئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اپنے ایک دستِ اقدس کو دوسرے پر رکھ کر انکی طرف سے بیعت کی۔ پس حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستِ مبارک لوگوں کے اپنے ہاتھوں سے بہتر رہا۔ (ترمذی)

86 - حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کا شانہ اقدس میں لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پنڈلیاں کھلی ہوئی تھیں پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اجازت مانگی اور آپ نے انہیں اجازت دے دی اور آپ اسی حالت میں رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو انہیں بھی اجازت دے دی اور اسی حالت میں رہے اور انہوں نے گفتگو کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اجازت طلب کی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست کر لیے۔ جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ نے ان کی بھی کوئی پرواہ نہ کی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے تو آپ بیٹھ گئے اور اپنے کپڑے درست فرما لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اس شخص سے حیاء کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔

87 - دوسری روایت میں ہے کہ فرمایا، عثمان رضی اللہ عنہ بہت زیادہ حیاء والے ہیں لہذا مجھے خدشہ تھا کہ اگر میں نے انہیں ایسی حالت میں اجازت دے دی تو وہ مجھ سے اپنی حاجت بیان نہیں کر سکیں گے۔ (صحیح مسلم باب من فضائل عثمان)

88 - حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے اور جنت میں میرا رفیق عثمان ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

89 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ میں مجھ سے مشابہہ عثمان ہیں۔ (تاریخ الخلفاء: ۲۳۶، ابن عساکر)

90 - حضرت عبد الرحمن بن خباب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا جب کہ آپ لشکر تبوک کے لیے رغبت دلا رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! سواونت اللہ کی راہ میں جھولوں اور کجاووں سمیت میرے ذمے۔ پھر آپ نے لشکر کے متعلق ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، اللہ کی راہ میں دو سواونت جھولوں اور کجاووں سمیت میرے ذمے۔ پھر آپ نے لشکر کے متعلق ترغیب دی تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر عرض گزار ہوئے، اللہ کی راہ میں تین سواونت جھولوں اور کجاووں سمیت میرے ذمے۔

پس میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ منبر سے اتر آئے اور فرما رہے تھے، اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ گناہ نہیں۔ اس کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں اس کا کوئی گناہ نہیں۔ (ترمذی)

91- حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ہزار دینار اپنی آستین میں لے کر حاضر ہوئے جب کہ لشکر تبوک کا بندوبست کیا جا رہا تھا اور وہ حضور کی کوہ میں ڈال دیے۔ پس میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ انہیں اپنی کوہ میں الٹ پلٹ رہے تھے اور دوسرے آپ نے فرمایا، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کریں وہ انہیں نقصان نہیں دے گا۔ (مسند احمد)

92- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان! یہ جبریل ہیں جو مجھے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی رقیہ کے مہر کے مثل پر میری دوسری بیٹی ام کلثوم کو بھی تیری زوجیت میں دیا ہے اس لیے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی حسن سلوک کرنا۔ (الصواعق المحرقة: ۱۶۸، ابن ماجہ)

93- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا جو آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے (انکی زوجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے انتقال پر) فرما رہے تھے کہ اگر میری چالیس بیٹیاں ہوتیں تو بھی میں یکے بعد دیگرے ان سب کا نکاح تم سے کر دیتا۔ (تاریخ الخلفاء: ۲۳۶، الصواعق المحرقة: ۷۰، ابن عساکر)

94- حضرت مڑہ بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عنقریب واقع ہونے والے فتنوں کا ذکر سنا۔ پس ایک آدمی کپڑے سے سر کو ڈھانپنے ہوئے گزرا تو فرمایا، یہ اُس روز ہدایت پر ہوں گے۔ میں نے جا کر دیکھا تو وہ حضرت عثمان تھے۔ پس انہیں آپ کے روبرو کر کے عرض کی کہ یہ؟ فرمایا، ہاں۔

امام ترمذی رحمہ اللہ نے کہا، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

95- حضرت ثمامہ بن حزن قشیری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اوپر سے جھانکتے ہوئے (بلوایوں سے) فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو بڑے رومہ کے سوا بیٹھے پانی کا کوئی کنواں نہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو بڑے رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اُس نعمت کے بدلے جو جنت میں اس سے بہتر ہے۔ پس میں نے اسے اپنے مال سے خرید اور آج تم مجھے اس کے پانی سے روکے ہوئے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔

فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ مسجد نبوی نمازیوں کے لیے تنگ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہ کون ہے جو آل فلاں کے قطعہ زمین کو خرید کر مسجد میں داخل کر دے، اس نعمت کے بدلے جو جنت میں اس سے بہتر ہے۔ پس میں نے اسے اپنے مال سے خرید اور آج تم مجھے اس میں دو رکعتیں پڑھنے سے بھی روکتے ہو۔ لوگوں نے کہا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔

فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ میں نے لشکر تبوک کا بندوبست اپنے مال سا کیا تھا؟ لوگوں نے کہا، یہ بات ہم جانتے ہیں۔ فرمایا، میں تمہیں اللہ اور اسلام کی قسم دیتا ہوں، کیا تم جانتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کے کوچہ شہر پر تھے۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور میں تھا۔ پہاڑ ہلنے لگا یہاں تک کہ پتھر لڑھکنے لگے تو آپ نے پھر سے ٹھوکر مار کر فرمایا، اے شہر! ٹھہر جا کیونکہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ لوگوں نے کہا، یہی بات ہے۔ آپ نے تکبیر کہی اور تین مرتبہ فرمایا، رب کعبہ کی قسم! لوگوں نے کواہی دے دی کہ میں شہید ہوں۔ (ترمذی، نسائی، دارقطنی)

96- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عثمان! عنقریب اللہ تعالیٰ تمہیں ایک قمیص (یعنی خلافت) پہنائے گا۔ اگر لوگ اسے اتارنا چاہیں تو تم نہ اتارنا۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

97- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ یہ اس فتنے میں مظلوم ہونگے اور شہید کر دیے جائیں گے۔ (ترمذی، مشکوٰۃ)

98- عثمان بن مویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی مصر سے حج کے لیے آیا۔ اس نے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے دیکھ کر پوچھا، یہ کون ہیں؟ کسی نے بتایا، یہ

قریش ہیں۔ پوچھا، ان میں سردار کون ہے؟ بتایا گیا، عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ کہنے لگا، اے ابن عمر! ایک بات بتائیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ غزوہ احد سے فرار ہوئے تھے؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ پھر کہا، کیا آپ کو معلوم ہے کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے بیعت رضوان نہ کی اور غائب رہے۔ فرمایا، ہاں تو اس مصری نے اللہ اکبر کہا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، میں ان واقعات کی حقیقت بیان کرتا ہوں۔

انہوں نے غزوہ احد سے رافضی اختیار کی تو میں کو ای دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فرمادیا اور انہیں بخش دیا۔

ان کا غزوہ بدر میں شریک نہ ہونا اس وجہ سے تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ان کے نکاح میں تھیں اور وہ اس وقت بیمار تھیں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان سے فرمایا تھا کہ تمہیں بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر اجر اور حصہ ملے گا۔

رہا ان کا بیعت رضوان سے غائب ہونا تو یہ بات جان لو کہ اگر اہل مکہ کے نزدیک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی دوسرا معزز ہوتا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بجائے اسے مکہ بھیجتے۔ اور بیعت رضوان کا واقعہ تو ان کے مکہ جانے کے بعد پیش آیا۔

چنانچہ آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ کے لیے فرمایا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور پھر اسے اپنے دوسرے ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، یہ عثمان کی بیعت ہے۔ پھر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا، اب جا اور ان بیانات کو بھی ساتھ لیتا جا۔

(صحیح بخاری باب مناقب عثمان)

99۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار ہوا، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا ایک تر ازو آسمان سے اتری۔ پس آپ کو اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما کو تو لایا گیا تو آپ وزنی رہے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو تو لایا گیا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ وزنی رہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تو لایا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ وزنی رہے پھر تر ازو اٹھالی گئی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا صدمہ ہوا اور فرمایا، یہ خلافت نبوت ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے دے۔ (ترمذی، ابو داؤد) چنانچہ خیر صادق رضی اللہ عنہ کے ارشاد گرامی کے مطابق سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم بالترتیب خلیفہ ہوئے۔

100۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو احد پر تشریف لے گئے اور آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم بھی تھے تو احد پہاڑ پہنچے لگا۔ آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر لگا کر فرمایا، بھڑھو جا احد! تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ (صحیح بخاری باب مناقب عثمان) مذکورہ اکثر احادیث خصوصاً آخر لفظ حدیث مبارکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی وسعت پر روشن دلائل میں سے ہے۔ بات بات پر بخاری کے حوالے طلب کرنے والوں کو صحیح بخاری میں ایسی احادیث کیوں نظر نہیں آتیں؟ رب تعالیٰ تعالیٰ تعصب سے بچائے اور اپنے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو دل سے ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔

زبد مسجد احمدی پر درود      دوایت عیش عصمت پہ لاکھوں سلام  
یعنی عثمان صاحب تمیص ہدی      حلدہ پوش شہادت پہ لاکھوں سلام  
اصل نسل صفا، وجہ وصل خدا      باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام  
شیر شمشیر زن، شاہ خیر ممکن      پرتو دست قدرت پہ لاکھوں سلام

☆☆☆☆

خلیفہ چہارم سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ:

حضرت علیؑ بچپن ہی میں اسلام لائے۔ بعض صحابہ کے نزدیک سب سے پہلے آپ ہی نے اسلام قبول کیا۔ آپ رسول کریم ﷺ کے چچا حضرت ابوطالب کے فرزند ہیں۔ آقا مولا ﷺ نے بچپن ہی میں آپ کی پرورش اپنے ذمہ لے لی تھی۔ حضور ﷺ نے اپنی چھوٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح آپ سے کیا۔

علم کی قوت، ارادے کی پختگی، استقلال اور شجاعت و بہادری میں آپ کو نمایاں مقام حاصل ہے۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جتنی احادیث حضرت علیؑ کی فضیلت میں وارد ہیں، کسی اور کی فضیلت میں نہیں آئیں۔

آپ سے نبی کریم ﷺ کی ایک سو چھیالیس احادیث مروی ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، کیا سب سے زیادہ احادیث روایت کرتے ہیں؟ فرمایا، اس کا سبب یہ ہے کہ جب کبھی میں حضور ﷺ سے کچھ دریافت کرتا تو آپ مجھے خوب اچھی طرح سمجھایا کرتے اور جب میں خود سے کچھ نہیں پوچھتا تو آپ خود ہی بتایا کرتے تھے۔

آپ تمام غزوات میں سوائے غزوہ تبوک کے نبی کریم ﷺ کے ساتھ رہے اور شجاعت و بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ غزوہ تبوک میں آقا مولا ﷺ نے آپ کو اپنا نائب بنا کر مدینہ منورہ میں چھوڑ دیا تھا۔

جنگ خیبر میں آپ نے اپنی پشت پر خیبر کا دروازہ اٹھالیا اور مسلمان اس دروازے پر چڑھ کر قلعہ کے اندر داخل ہو گئے، بعد ازاں آپ نے وہ دروازہ پھینک دیا۔ فتح کے بعد جب اس دروازے کو گھسیٹ کر دوسری جگہ ڈالا جانے لگا تو چالیس افراد نے مل کر اسے اٹھایا تھا۔ جنگ خیبر ہی کے موقع پر آپ نے یہ شعر پڑھا جو بہت مشہور ہوا،

أَنَا الْبَلَدِيُّ سَمَّيْنِي أُمَّيْ حَيْدَرَهُ كَمَا نَبَتْ غَابَاتٍ تَكْرِيهِ الْمُنْظَرَهُ

”میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام ”شیر“ رکھا ہے، میری صورت جنگل میں رہنے والے شیر کی طرح خوفناک ہے۔“

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ حضرت علیؑ میں اٹھارہ ایسی صفات ہیں جو کسی اور صحابی میں نہیں ہیں۔ جس جگہ قرآن کریم میں یا أَيُّهَا الْبَلَدِيُّ ائْتُوا آيَايَ وَهَذَا يَبْجُهَا جَاءِي كَمَا نَبَتْ غَابَاتٍ تَكْرِيهِ الْمُنْظَرَهُ ہے کہ حضرت علیؑ ان ایمان والوں کے امیر و شریف ہیں۔

حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جس دن میری آنکھوں میں آقا مولا ﷺ نے اپنا لعاب دہن اقدس لگایا تھا اور عظم عطا فرمایا تھا، اُس دن سے نہ میری آنکھیں دُکھے آئیں اور نہ میرے سر میں درد ہوا۔

حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں کہا کرتے تھے کہ ہم اہل مدینہ میں حضرت علیؑ سب سے زیادہ معاملہ فہم ہیں۔ طلیل القدر تابعی حضرت مسروقؓ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کا علم اب حضرت علیؑ، حضرت عمرؓ، حضرت عبد اللہ بن مسعود اور حضرت عبد اللہ بن عمرؓ تک محدود رہ گیا ہے۔

حضرت حسنؓ سے روایت ہے کہ جب حضرت علیؑ بصرہ تشریف لائے تو ابن الکواء اور قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہما نے کھڑے ہو کر دریافت کیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ سے وعدہ فرمایا تھا کہ میرے بعد تم خلیفہ ہو گے، یہ بات کہاں تک سچ ہے؟ آپ نے فرمایا،

یہ بات بالکل غلط ہے۔ جب میں نے سب سے پہلے حضور ﷺ کی نبوت کی تصدیق کی تو اب آپ پر جھوٹ کیوں تراشوں؟ اگر حضور ﷺ نے مجھ سے اس قسم کا کوئی وعدہ کیا ہوتا تو میں حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ رضی اللہ عنہما کو میرے لیے کھڑا ہوتا اور میں ان دونوں کو قتل کر ڈالتا خواہ میرا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہ ہوتا۔

یہ سب جانتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی وفات اچانک نہیں ہوئی بلکہ آپ چند روز بیمار رہے اور جب آپ کی بیماری نے شدت اختیار کی اور مؤذن نے حسب معمول آپ کو نماز پڑھانے کے لیے بلایا تو آپ نے حضرت ابو بکرؓ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا اور انہوں نے نماز پڑھائی اور حضور ﷺ نے مشاہدہ فرمایا۔ اس عرصہ میں ایک بار آپ کی ایک زوجہ مطہرہ (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا) نے حضرت ابو بکرؓ کے لیے اس ارادے سے باز رکھنا چاہا تو حضور ﷺ کو

غصہ آیا اور آپ نے فرمایا ہم تو یوسف کے زمانے کی عورتیں ہو! جاؤ ابو بکر ہی کو کہو کہ وہ نماز پڑھا نہیں۔

جب حضور ﷺ کا وصال ہوا اور ہم نے اپنے معاملات میں (یعنی خلافت کے متعلق) غور کیا تو اسی شخص کو اپنی دنیا کے لیے اختیار کر لیا جس کو آقا موملی ﷺ نے ہمارے دین (امامت) کے لیے منتخب فرمایا تھا کیونکہ حضور ﷺ دین و دنیا دونوں کے قائم رکھنے والے تھے۔ لہذا ہم سب نے حضرت ابو بکر ﷺ سے بیعت کر لی اور سچی بات یہی ہے کہ آپ اس کے اہل تھے اسی لیے کسی نے آپ کی خلافت میں اختلاف نہیں کیا اور نہ کسی نے روگردانی کی۔ میں نے بھی اسی بناء پر آپ کا حق ادا کیا اور آپ کی اطاعت کی۔ آپ نے لشکر میں شریک ہو کر کافروں سے جنگ کی، مال غنیمت اور بیت المال سے آپ نے جو دیا وہ خوشی قبول کر لیا، اور جہاں کہیں آپ نے مجھے جنگ کے لیے بھیجا، میں گیا اور دل کھول کر لڑا یہاں تک کہ ان کے حکم سے شرعی سزائیں بھی دیں۔

جب آپ کا وصال ہو گیا اور حضرت عمر ﷺ کو خلیفہ بنائے گئے اور وہ خلیفہ اول کے بہترین جانشین اور سنت نبوی پر عمل پیرا ہوئے تو ہم نے ان کے ہاتھ پر بھی بیعت کی۔ حضرت عمر ﷺ کو خلیفہ بنانے پر بھی کسی شخص نے اختلاف نہیں کیا، نہ کسی نے روگردانی کی اور نہ ہی کوئی شخص ان کی خلافت سے بیزار ہوا۔ پہلے کی طرح میں نے حضرت عمر ﷺ کے بھی حقوق ادا کیے اور انکی مکمل اطاعت کی۔ جو کچھ انہوں نے مجھے دیا وہ میں نے لیا۔ انہوں نے مجھے جنگوں میں بھیجا جہاں میں نے دشمنوں سے مقابلے کیے اور انکے عہد میں بھی اپنے کوزوں سے مجرموں کو سزا دی۔

جب انکے وصال کا وقت قریب آیا تو میں نے حضور ﷺ کے ساتھ اپنی قرابت، اسلام لانے میں اپنی سبقت، اپنے اعمال اور اپنی بعض دیگر فضیلتوں پر غور کیا تو مجھے خیال ہوا کہ حضرت عمر ﷺ میری خلافت میں اعتراض نہیں کریں گے لیکن شاید حضرت عمر ﷺ کو یہ خوف ہو کہ وہ کہیں ایسا خلیفہ نامزد نہ کر دیں جس کے اعمال کا خود انہیں قبر میں جواب دینا پڑے۔ اس خیال کے پیش نظر انہوں نے اپنی اولاد کو بھی نظر انداز کر دیا اور اسے خلافت کے لیے نامزد نہیں فرمایا۔ اگر حضرت عمر ﷺ خود کسی کو خلیفہ بنا تے تو لازمی طور پر اپنے بیٹے کو خلیفہ بنا تے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا بلکہ خلیفہ کا انتخاب چھ قریشیوں پر چھوڑ دیا جن میں ایک میں بھی تھا۔

جب ان چھ ارکان کا اجلاس ہوا تو مجھے خیال آیا کہ اب خلافت کا با رہبرے کندھوں پر رکھ دیا جائے گا اور یہ مجلس میرے برابر کسی دوسرے کو حیثیت نہیں دے گی اور مجھے ہی خلیفہ منتخب کرے گی۔ وہاں عبدالرحمن بن عوف ﷺ نے ہم سب سے عہد لیا کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جس کو خلیفہ بنا دے، ہم سب اس کی اطاعت کریں گے اور اسکے احکام برضا و رغبت بجالائیں گے۔

اسکے بعد انہوں نے حضرت عثمان ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ میں نے سوچا کہ میری اطاعت میری بیعت پر غالب آگئی اور مجھ سے جو وعدہ لیا گیا وہ اصل میں دوسرے کی بیعت کے لیے تھا۔ بہر حال میں نے حضرت عثمان ﷺ کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پہلے خلفاء کی طرح ان کی اطاعت کی، انکے حقوق ادا کیے، انکی قیادت میں جنگیں لڑیں، انکے عطیات کو قبول کیا اور مجرموں کو شرعی سزائیں بھی دیں۔

پھر حضرت عثمان ﷺ کی شہادت کے بعد مجھے خیال ہوا کہ وہ دونوں خلیفہ جن سے میں نے لفظ بالصلوٰۃ کے ساتھ بیعت کی تھی، وہ وصال فرما چکے اور جن کے لیے مجھ سے وعدہ لیا گیا تھا وہ بھی رخصت ہو گئے لہذا یہ سوچ کر میں نے بیعت لینا شروع کر دی چنانچہ مجھ سے مکہ و مدینہ اور بصرہ و کوفہ کے لوگوں نے بیعت کر لی۔ اب خلافت کے لیے میرے مقابل وہ شخص کھڑا ہوا ہے (یعنی امیر معاویہ ﷺ) جو قرابت، علم اور سبقت اسلام میں میرے برابر نہیں اس لیے میں ہر طرح اس شخص کے مقابلے میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ (تاریخ الخلفاء: ۲۶۵)

حضرت علی ﷺ کے اس تفصیلی ارشاد گرامی سے واضح ہو گیا کہ حضور ﷺ نے اپنے بعد خلافت کے لیے انہیں نامزد نہیں فرمایا تھا اور نہ ہی ان سے کسی قسم کا وعدہ فرمایا تھا۔ اسی لیے آپ نے خلفائے ثلاثہ کی بیعت و اطاعت کی اور کبھی ان کی مخالفت نہیں کی۔

”آپ کے دور خلافت میں جو فسادات یا جھگڑے ہوئے وہ آپ کے استحقاق خلافت پر نہیں تھے بلکہ وہ ایک اجتہادی غلطی تھی جس میں حضرت عثمان ﷺ کے قاتلوں کی سزائیں جلدی کا مطالبہ تھا۔“ (تکمیل الایمان: ۱۶۰)

(اس کے متعلق آئندہ صفحات میں گفتگو کی جائے گی) حضرت علیؑ سے کسی نے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ پہلے تینوں خلفاء کا دور خلافت بڑے انتظام سے گزرا اور کسی کو شے سے اختلاف و مخالفت نہیں ہوئی مگر آپ کے دور خلافت میں ہر طرف امتثا اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا، اُن کے دور خلافت میں ہم ان کے معاون تھے اور ہمارے دور خلافت کے معاون تم ہو۔ (ایضاً: ۱۵۸)

۱۹ رمضان المبارک ۳۰ھ کی صبح حضرت علیؑ نماز فجر پڑھانے کے لیے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ لوگوں کو نماز کے لیے آواز دیکر جگاتے جا رہے تھے کہ اچانک ابنِ مسلمہ خارجی سامنے آ گیا اور اس نے تموار کا وار کر کے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ آپ نے فرمایا، فَزَنَتْ وَرَبَّ الْمَكْتَبَةِ - ”رب کعبہ کی قسم! میں کامیاب ہو گیا“۔ دو دن بقیہ حیات رہ کر ۲۱ یا ۲۲ رمضان کو آپ کی روح جبارگاہِ قدس میں پرواز کر گئی۔

(ماخوذ از تاریخ الخلفاء)

فضائلِ سیدنا علیؑ، قرآن میں:

1 - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَاجَرْتُمْ الرُّسُولَ فَفَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةٌ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَطْهَرٌ فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فَإِنِ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

”اے ایمان والو جب تم رسول سے کوئی بات عرض کرنا چاہو تو اپنی عرض سے پہلے کچھ صدقہ دے لو۔ یہ تمہارے بہت بہتر اور بہت ستر ہے، پھر اگر تمہیں مقدور نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے“۔ (المجادلہ: ۱۲، کنز الایمان)

سید عالمؑ کی بارگاہ میں جب انبیاء نے عرض و عرض کا سلسلہ دراز کیا اور نوبت یہاں تک پہنچی گئی کہ نقرہ کو اپنی عرض پیش کرنے کا موقع کم ملنے لگا تو عرض پیش کرنے والوں کو عرض پیش کرنے سے پہلے صدقہ دینے کا حکم دیا گیا۔ اس حکم پر حضرت علی مرتضیٰؑ نے عمل کیا اور ایک دینار صدقہ کر کے دس مسائل دریافت کئے۔

عرض کیا، وفا کیا ہے؟ فرمایا، تو حید اور تو حید کی شہادت دینا۔ عرض کیا، نسا د کیا ہے؟ فرمایا، کفر و شرک۔ عرض کیا، حق کیا ہے؟ فرمایا، اسلام، قرآن و حدیث جب تجھے ملے، عرض کیا، حیلہ (یعنی تدبیر) کیا ہے؟ فرمایا، ترک حیلہ۔ عرض کیا، مجھ پر کیا لازم ہے؟ فرمایا، اللہ اور اس کے رسولؐ کی اطاعت۔ عرض کیا، اللہ تعالیٰ سے کیسے دعا مانگوں؟ فرمایا، صدق و یقین کے ساتھ۔ عرض کیا، کیا مانگوں؟ فرمایا، عاقبت۔ عرض کیا، اپنی نجات کے لئے کیا کروں؟ فرمایا، حلال کھا اور سچ بول۔ عرض کیا سرور کیا ہے؟ فرمایا، جنت۔ عرض کیا، راحت کیا ہے؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کا دیدار۔

جب حضرت علیؑ ان سوالوں سے فارغ ہو گئے تو یہ حکم منسوخ ہو گیا اور رخصت نازل ہوئی۔ سوائے حضرت علیؑ کے کسی اور کو اس پر عمل کرنے کا وقت نہیں ملا۔

(قرآن العرفان بحوالہ خازن و مدارک)

ابن ابی شیبہ نے مصنف اور حاکم نے مستدرک میں حضرت علیؑ سے روایت کیا ہے کہ کتاب اللہ میں ایک آیت ایسی ہے کہ جس پر میرے سوا کسی نے عمل نہیں کیا۔ میرے پاس ایک دینار تھا میں نے اس کے دس درہم لئے میں جب بھی حضورؐ سے مناجات کرتا تو ایک درہم صدقہ کرتا۔ (تفسیر مظہری)

2 - أَجْمَعْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَوِي عِنْدَ اللَّهِ - (التوبة: ۱۹)

”تو کیا تم نے حاجیوں کی سبیل اور مسجد حرام کی خدمت اس کے برابر ٹھہرائی جو اللہ اور قیامت پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہ اللہ کے نزدیک برابر نہیں۔“



(کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ)

اس آیت کریمہ میں حضرت علیؑ کی فضیلت بیان فرمائی گئی ہے جب طلحہ بن شیبہ نے فخر یہ کہا، میں بیت اللہ کا خادم ہوں اور انکی چابیاں میرے پاس ہیں۔ حضرت عباسؑ نے فرمایا، میں حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت کرتا ہوں۔ ان کے یہ فخر یہ جملے سن کر حضرت علیؑ نے فرمایا، مجھے معلوم نہیں کہ تم کس بات پر فخر کر رہے ہو جبکہ میں چھ سال سے قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہا ہوں یعنی تم لوگوں سے پہلے میں نے اسلام قبول کیا تھا اور میں مجاہد ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(تفسیر مظہری، تفسیر بغوی)

3- يُؤْفُونَ بِاللَّيْلِ وَالْحَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ○ وَيُطْعَمُونَ الطَّعَامَ عَالِي حَبِّهِ مَسْكِينًا وَيَتِيمًا ○ وَإِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكْرًا ○ (الرہ: ۷، ۸، ۹)

”اپنی نیتیں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی برائی (یعنی شدت اور سختی) پھیلی ہوئی ہے۔ اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو۔ ان سے کہتے ہیں، ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔“ (کنز الایمان)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی مرتضیٰؑ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (تفسیر بغوی، تفسیر مظہری) صدر الافاضل لکھتے ہیں، یہ آیات حضرت علی مرتضیٰ، حضرت فاطمہ اور ان کی کنیر نضہ کے حق میں نازل ہوئیں۔ حسین کریمینؑ بیمار ہوئے۔ ان حضرات نے ان کی صحت پر تین روزوں کی نذرمانی، اللہ تعالیٰ نے صحت دی۔ نذر پوری کرنے کے لئے انہوں نے روزے رکھے۔ ایک یہودی سے تین صاع لے کر آئے۔

حضرت خاتون جنت نے ایک ایک صاع تینوں دن پکایا لیکن جب افطار کا وقت آیا تو ایک روز ایک مسکین، ایک روز ایک یتیم اور ایک روز ایک اسیر آیا اور تینوں روز یہ سب روٹیاں ان لوگوں کو دے دی گئیں اور تینوں دن پانی سے روزہ افطار فرمایا اور پانی ہی سے رکھا گیا۔ (تفسیر خزائن العرفان) یہ واقعہ تفسیر کبیر، تفسیر روح البیان، تفسیر حازن، تفسیر بغوی اور تفسیر بیضاوی میں بھی ذرا مختلف الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ ایک روایت میں یہ حصہ زائد ہے کہ تینوں دن ایثار کرنے پر حضرت جبرائیلؑ حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ اللہ آپ کے اہلیت کے بارے میں مبارک باد دیتا ہے۔ اور پھر یہ آیات تلاوت کیں۔

4- هَلُمَّنْ خَصْمِنِ اِخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ (الحج: ۱۹)

”یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب (کے بارے) میں جھگڑنے۔“ (کنز الایمان)

ان فریقوں میں سے ایک مومنوں کا ہے اور دوسرا کافروں کا۔ بخاری و مسلم میں سیدنا ابوذرؓ سے مروی ہے، یہ آیت حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت عبیدہؓ اور ان سے مقابلہ کرنے والے کافروں عقبہ، شیبہ اور ولید کے بارے میں نازل ہوئی۔

علامہ بغوی رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت علیؑ نے فرمایا، کفار سے جھگڑا کرنے کے سبب قیامت کے دن رحمت الہی کے سامنے سب سے پہلے دوزانو ہو کے بیٹھنے والا میں ہی ہوں گا۔ (تفسیر بغوی، تفسیر مظہری)

5- الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○ (البقرہ: ۲۷۳)

”وہ جو مال خیرات کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، ان کے لئے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کو نہ کچھ اندیشہ ہو نہ کچھ غم۔“ (کنز الایمان)

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ یہ آیت حضرت علی شیر خداؑ کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ (تفسیر درمنثور)

آپ ہی سے مروی دوسری روایت میں ہے کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے کثیر دینار اصحاب صفہ کی طرف بھیجے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے رات کے اندھیرے میں ایک وثق (تقریباً چھ من) کھجوریں بھیجیں تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے حق میں یہ آیت نازل فرمائی۔ دن اور اعلانیہ طریقے سے عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، رات اور مخفی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا صدقہ مراد ہے۔ (بنوئی، مظہری)

6- وَ نَزَّ عَلَيْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْبٍ - (الاعراف: ۴۳)

”اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کینے کھینچ لیے، (جنت میں) ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اور کہیں گے، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی۔“

(کنز الایمان از امام احمد رضا بریلوی رحمہ اللہ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ آیت ہم اہل بدر کے حق میں نازل ہوئی اور یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں، عثمان، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم ان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ (تفسیر خازن، مظہری)

صدر الافاضل رحمہ اللہ اس کے بعد فرماتے ہیں، ”حضرت علی رضی اللہ عنہ کے اس ارشاد نے رض کی بیخ و بنیا دکا قلع قمع کر دیا۔“ (خزائن العرفان)

7- أَقْسَمُ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ - (السجدة: ۱۸)

”تو کیا جو ایمان والا ہے، اُس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے، یہ برابر نہیں ہیں۔“

(کنز الایمان از اعلیٰ حضرت بریلوی رحمہ اللہ)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ولید بن عقبہ کے درمیان کسی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ اس کافر نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، تم خاموش رہو کیونکہ تم بچے ہو جبکہ میں تم سے زیادہ زبان دراز اور بہادر ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا، خاموش ہو جا کیونکہ تو فاسق ہے۔ اس پر آپ کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔ (تفسیر خازن، تفسیر مظہری)

8- إِنَّ الْبَلَدَيْنِ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ اللَّهُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا -

”بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کئے عنقریب ان کے لئے رحمن (لوگوں کے دلوں میں) محبت پیدا کر دے گا۔“ (مریم: ۹۶، کنز الایمان)

طبرانی نے الاوسط میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت کریمہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ رب تعالیٰ ان کی محبت تمام مومنوں کے دلوں میں اور ساری کائنات میں پیدا فرما دے گا۔ (تفسیر مظہری)

حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم دعا کرو کہ الہی! مجھے اپنی بارگاہِ رحمت سے عہد عطا فرما اور مجھے اپنی محبت کا مستحق بنا لے اور میری محبت مومنوں کے دلوں میں پیدا فرما دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دعا کی تو مذکورہ آیت مبارکنا نازل ہوئی۔ (تفسیر درمنثور)

9- إِنَّمَا أَنْتَ مُنَادٍ، وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ - (الرعد: ۷)

”تم تو ڈر سنانے والے اور ہر قوم کے ہادی (ہو)۔“ (کنز الایمان)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینہ انور پر دستِ اقدس رکھا اور فرمایا، میں منذر لعن ذر سنانے والا ہوں اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر دست مبارک رکھ کر فرمایا،

”أَنْتَ الْهَادِي الْمُهْتَدُونَ مِنْ بَعْدِي“ - ”اے علی! تو ہادی ہے اور میرے بعد راہ پانے والے تجھ سے راہ پائیں گے۔“ (تفسیر درمنثور، تفسیر کبیر)

یعنی تجھ سے ولایت کے سلسلے جاری ہو گئے اور امت کے تمام اولیاء کرام اور صالحین تجھ سے فیض پائیں گے۔

10- يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَبِيبًا مِمَّا آخَبَتِ اللَّهُ لَكُمْ -

”اے ایمان والو! حرام نہ ٹھہراؤ وہ سٹھری چیزیں جو اللہ نے تمہارے لیے حلال کیں۔“ (المائدہ: ۸۷، کنز الایمان)

ابن عساکر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ آیت جماعت صحابہ کی ایک جماعت کے بارے میں ہوئی جن میں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت علی وغیرہ رضی اللہ عنہم بھی تھے۔ جب انہوں نے عہد کیا کہ دنیا ترک کر کے رہبانیت اختیار کر لیں، ٹاٹ کا لباس پہنیں، گوشت و روغن نہ کھائیں، ہمیشہ روزہ رکھیں صرف بقدر ضرورت کھائیں، عورتوں کے پاس نہ جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اعتدال کا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔ (تفسیر مظہری، تفسیر درمنثور)

11 - إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ (المائدہ: ۵۵)

”تمہارے دوست نہیں مگر اللہ اور اللہ کا رسول اور ایمان والے کہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے حضور جھکے ہوئے ہیں“ (کنز الایمان)

طبرانی نے اوسط میں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سائل آیا جبکہ آپ نفل نماز کے رکوع میں تھے۔ آپ نے حالت رکوع میں اپنی انگلی اتار کر سائل کو دے دی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس کی سند میں بعض راوی مجہول ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے دوسری روایت میں ہے کہ یہ آیت حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایسی بعض اسناد کا ذکر کر کے قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ وہ شاہد ہیں جن میں بعض بعض کوفت پہنچاتے ہیں۔ (تفسیر مظہری)

امام محمد باقر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ آیت مومنوں کے حق میں نازل ہوئی۔ آپ سے عرض کی گئی، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حق میں نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تو مومنوں میں شامل ہیں۔ (ایضاً)

شیعہ حضرات اس آیت سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل کا دعویٰ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہاں ولی کا مفہوم مسلمانوں کے امور میں تصرف کرنا ہے اس لئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت و امامت ثابت ہوئی اور چونکہ ”انما“ کلمہ حصر ہے اس لئے ان کے سوا خلفائے ثلاثہ کی خلافت کی نفی ثابت ہوئی۔ علماء اہلسنت اس کے جواب میں فرماتے ہیں:-

(۱) یہاں ولی کا مطلب خلیفہ نہیں ہو سکتا، اس کی دو وجوہ ہیں اول یہ کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو بھی ولی فرمایا اور وہ کسی کے خلیفہ نہیں۔ نیز ایک لفظ بیک وقت متعدد معانی میں استعمال نہیں ہو سکتا۔ دوم یہ کہ اس آیت کے نزول کے وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ نہیں تھے۔ اگر اس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا زمانہ مراد لیا جائے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ثابت نہیں ہوتی۔ تین خلفاء کے بعد کا زمانہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا زمانہ کہلائے گا۔

(ب) اگر لفظ ”انما“ سے جو حصر کے لئے ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات میں خلافت و امامت منحصر مان لی جائے اور خلفائے ثلاثہ کی خلافت و امامت کا انکار کر دیا جائے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد آنے والے ائمہ اہلبیت کی بھی نفی ہو جائے گی اور یہ بات مخالفین کے نزدیک بھی قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

قاضی ثناء اللہ رحمہ اللہ، تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں، اگر اس سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ذات ہے تو بصریوں کے قول کے مطابق ”انما“ سے حصر اضافی مراد ہوگا اور وہ یہود و نصاریٰ ہوں گے جن کو خارج کیا جائے گا مومنوں کو اس سے خارج نہیں کیا جائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان ”وما محمد الا رسول“ میں حصر اضافی مراد ہے۔

(ج)۔ پس یہاں ولی بمعنی دوست اور محبوب کے ہے یا بمعنی مددگار کے۔ جیسا کہ حدیث پاک ”من کرم مولاہ فعلی مولاہ“ کے تحت آگے تفصیل آئے گی۔

فضائل سیدنا علی رضی اللہ عنہ، احادیث میں:

101 - حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں چھوڑ دیا۔ آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میرے ساتھ تمہاری وہی نسبت ہو

جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت ہارون علیہ السلام کو تھی ماسوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ (متفق علیہ)

102 - حضرت زبیر بن حبیش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی امی ﷺ نے مجھ سے عہد فرمایا ہے کہ مجھ سے مومن ہی محبت کرے گا اور مجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہی ہوگا۔ (مسلم، ترمذی)

103 - حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا مولیٰ ﷺ نے خیبر کے روز فرمایا، کل یہ جھنڈا میں ایسے شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ فتح دے گا، وہ اللہ اور اسکے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے نیز اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت رکھتے ہیں۔ اگلے روز صبح کے وقت ہر آدمی یہی تمنا رکھتا تھا کہ جھنڈا اسی کو دیا جائے۔ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، علی بن ابی طالب کہاں ہیں؟ لوگ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ﷺ! ان کی آنکھیں دکھتی ہیں۔ فرمایا، انہیں بلاؤ۔ انہیں بلایا گیا اور رسول کریم ﷺ نے ان کی آنکھوں پر لعاب دہن لگا دیا۔ ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں جیسے کوئی تکلیف ہی نہ ہوئی تھی اور انہیں جھنڈا دے دیا۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ﷺ! میں ان سے لڑوں گا یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ فرمایا، نرمی اختیار کرو، جب ان کے میدان میں اتر جاؤ تو انہیں اسلام کی دعوت دو اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ان پر لازم ہیں وہ انہیں بتاؤ۔ خدا کی قسم! تمہارے ذریعے اگر اللہ تعالیٰ نے ایک آدمی کو بھی ہدایت عطا فرمادی تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ (متفق علیہ)

104 - ابو حازم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ فلاں شخص سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو منبر پر بیٹھ کر برا بھلا کہتا ہے۔ انہوں نے پوچھا، وہ کہتا کیا ہے؟ جواب دیا، وہ انہیں ابوتراب کہتا ہے۔ یہ ہنس پڑے اور فرمایا، خدا کی قسم! ان کا یہ نام تو آقا مولیٰ ﷺ نے رکھا ہے اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ نام اپنے اصل نام سے زیادہ پیارا ہے۔ پس راوی نے کہا، اے ابو عباس! پورا واقعہ بتائیں۔

فرمایا، ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور پھر کسی وجہ سے مسجد میں آ کر لیٹ گئے۔ آقا مولیٰ ﷺ گھر آئے تو ان سے دریافت فرمایا، علی کہاں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ مسجد میں ہیں۔ حضور ﷺ مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی چادر ڈھلکی ہوئی ہے اور ان کی کمرٹی سے آلودہ ہے۔ آقا کریم ﷺ اپنے مبارک ہاتھ سے وہ مٹی جھاڑنے لگے اور آپ نے دوبار فرمایا، اے ابوتراب اٹھو، اے ابوتراب اٹھو۔ (بخاری باب مناقب علی)

105 - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے پاس ایک بھنا ہوا پرندہ تھا۔ آپ نے دعا کی، اے اللہ! میرے پاس اس شخص کو بھیج جو تجھے اپنی مخلوق میں سب سے پیارا ہو، تاکہ وہ اس پرندے کو میرے ساتھ کھائے۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر بارگاہ ہوئے اور آپ کے ساتھ اسے کھایا۔ (ترمذی)

106 - حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ (متفق علیہ)

107 - حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، علی رضی اللہ عنہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اور وہ ہر ایمان والے کے پارو مددگار ہیں۔ (ترمذی)

108 - حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، جس کا میں مددگار ہوں، اس کے علی بھی مددگار ہیں۔ (احمد، ترمذی)

109 - حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے طائف کے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا کر ان سے سرکوشی فرمائی۔ لوگوں نے کہا، آپ نے اپنے چچا کے بیٹے سے بہت لمبی سرکوشی فرمائی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے ان سے سرکوشی نہیں کی بلکہ اللہ تعالیٰ نے سرکوشی فرمائی ہے یعنی میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان سے سرکوشی کی ہے۔ (ترمذی)

110 - حضرت جہشی بن جنادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا،

”علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ میری طرف سے میرے یا علی کے سوا کوئی دوسرا ادائ نہیں کر سکتا۔“ (ترمذی)

111 - حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور انکی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ عرض گزار ہوئے کہ آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان بھائی چارہ قائم فرمادیا لیکن مجھے کسی کا بھائی نہیں بتایا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم دنیا اور آخرت میں میرے بھائی ہو۔ (ترمذی)

112 - حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ ﷺ سے جب کوئی چیز مانگتا تو آپ عطا فرماتے اور اگر میں خاموش رہتا تو حضور مجھ سے ابتداء فرماتے۔ (ترمذی)

113 - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ (ترمذی، حاکم)

114 - حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہیں۔ (طبرانی، المعجم، تاریخ الخلفاء: ۲۵۷)

115 - حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ”ہم اس مشکل سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں جس کو علی رضی اللہ عنہ حل نہ کر سکیں۔“

صحابہ میں کوئی ایسا نہ تھا جو یہ کہتا ہو کہ مجھ سے پوچھو اللہ تعالیٰ ﷻ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھ سے پوچھا کرو۔ (تاریخ الخلفاء: ۲۵۸، الصواعق المحرقة: ۱۹۶)

116 - حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا، حالت جنابت میں کسی کے لیے اس مسجد سے گزرنا جائز نہیں ہے سوائے میرے اور تمہارے۔ (ترمذی)

117 - حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر بھیجا، جن میں حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ میں نے دیکھا کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر فرما رہے تھے، اے اللہ! مجھے وفات نہ دینا جب تک میں علی کو نہ دیکھ لوں۔ (ترمذی)

118 - حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، کوئی منافق علی سے محبت نہیں رکھے گا اور کوئی مومن اس سے بغض نہیں رکھے گا۔ (مسند احمد، ترمذی)

119 - ان سے ہی روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ (مسند احمد، مشکوٰۃ)

120 - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے مجھ سے فرمایا، تمہاری مثال حضرت عیسیٰ رضی اللہ عنہ جیسی ہے کہ یہود نے ان سے عداوت رکھی یہاں تک کہ ان کی والدہ ماجدہ پر بھی بہتان چڑ دیا اور نصاریٰ نے ان سے محبت رکھی یہاں تک کہ انہیں اس مقام پر پہنچا دیا جو ان کا حق نہیں۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے متعلق دو آدمی ہلاک ہو جائیں گے۔ محبت میں افراط کرنے والا کہ ایسی باتیں کہے گا جو مجھ میں نہیں ہیں۔ دوسرے عداوت رکھنے والا جس کو دشمنی اٹھارے گی کہ مجھ پر بہتان چڑے۔ (احمد، مشکوٰۃ)

121 - حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے متعلق پوچھنے لگا۔ آپ نے ان کے نیک اعمال بیان کر کے فرمایا، یہ باتیں تجھے بری لگی ہوگی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کرے۔ پھر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق سوال کیا۔ آپ نے ان کی بھی خوبیاں بیان کیں اور فرمایا، وہ ایسے ہیں کہ ان کا گھر نبی کریم ﷺ کے گھروں کے درمیان ہے۔ پھر پوچھا، یہ باتیں بھی تجھے بری لگی ہوگی؟ اس نے کہا، ہاں۔ آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کرے۔ جادف ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر سکتا ہو کر لے۔ (بخاری باب مناقب علی)

122 - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تمام دروازوں کو بند کرنے کا حکم فرمایا سوائے دروازہ علی کے۔ (ترمذی)

123 - حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں مجھے ایک قرب حاصل تھا جو کسی دوسرے کو حاصل نہ تھا۔ میں علی الصبح حاضر بارگاہ ہوتا اور عرض کرتا، یا نبی اللہ! آپ پر سلام ہو۔ اگر آپ کھنکارتے تو اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹ آتا ورنہ حاضر خدمت ہو جاتا۔ (نسائی)

124 - حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ میں بیمار تھا تو رسول اللہ ﷺ میرے پاس سے گزرے اس وقت میں کہہ رہا تھا، اے اللہ! اگر میری موت کا وقت آ پہنچا ہے تو مجھے راحت پہنچا اور دیر ہے تو صحت بخش اور اگر آزمائش ہے تو صبر عطا فرما۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، تم نے کیا کہا؟ میں نے جو کہا تھا وہ دہرایا۔ حضور ﷺ نے پائے اقدس سے مجھے ٹھوکری اور کہا، اے اللہ! اسے عافیت اور صحت عطا فرما۔ حضرت علیؑ فرماتے ہیں، اس کے بعد وہ تکلیف مجھے پھر نہیں ہوئی۔ (ترمذی)

125 - حضرت عبد اللہ بن مسعودؓ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، علیؑ کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔  
(حاکم، طبرانی، الصواعق المحرقة: ۱۹۰)

126 - سیدنا ابو بکر صدیقؓ سے بھی یہی روایت ہے کہ آقا موملیؑ نے فرمایا، علیؑ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ (ابن عساکر، تاریخ الخلفاء: ۱۲۳)

127 - حضرت عمران بن حصینؓ سے روایت ہے کہ ایک جنگ سے واپسی پر چار افراد نے بارگاہ رسالت میں حضرت علیؑ کی شکایت کی۔ حضور اکرم ﷺ کے چہرہ انور پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا، تم علیؑ سے کیا چاہتے ہو؟ علیؑ مجھ سے ہیں اور میں علیؑ سے ہوں اور وہ میرے بعد ہر مومن کے ولی ہیں۔ (ترمذی)

128 - حضرت اطلق بن براءؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ کسی نے بارگاہ نبویؐ میں خط کے ذریعے حضرت علیؑ کی شکایت کی۔ اس پر نبی کریم ﷺ ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا، تمہارا اس شخص کے بارے میں کیا خیال ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول ﷺ سے محبت رکھتا ہے اور اللہ و رسول ﷺ کو وہ محبوب ہے۔ (ترمذی)

129 - حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ سیدہ فاطمہؓ نبیؐ کا کوئی پھل سے تکلیف ہوتی تھی۔ وہ یہ عرض کرنے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں گئیں لیکن کاشا نہ اقدس پر آپ کو نہ پایا تو حضرت عائشہؓ نبیؐ کو آنے کی وجہ بتا کر آ گئیں۔ جب رسول کریم ﷺ کو ام المؤمنین نے خبر دی تو آقا موملیؑ ہمارے پاس تشریف لائے جبکہ ہم اپنے بستروں پر لیٹے ہوئے تھے۔ میں اٹھنے لگا تو آپ نے فرمایا، اپنی اپنی جگہ رہو۔ پس آپ ہمارے درمیان رونق افروز ہو گئے یہاں تک کہ میں نے آپ کے مبارک قدموں کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی۔ آقا کریم ﷺ نے فرمایا،

کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جو اس سے بہتر ہے جس کا تم نے سوال کیا؟ جب تم اپنے بستروں پر لیٹنے لگو تو ۳۳ بار اللہ اکبر، ۳۳ بار سبحان اللہ اور ۳۳ بار الحمد للہ پڑھ لیا کرو، یہ تم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔ (بخاری باب مناقب علیؑ)

130 - حضرت ام سلمہؓ نبیؐ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ علیؑ قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علیؑ کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں خاص کوڑ تک ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونگے۔ (طبرانی فی الاوسط، الصواعق المحرقة: ۱۹۱)

131 - امام طحاوی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ رسول کریم ﷺ حضرت علیؑ کی کوئی مبارک رکھے ہوئے تھے اور آپ پر وحی نازل ہو رہی تھی۔ حضرت علیؑ نے نماز عصر نہیں پڑھی تھی۔ اس دوران سورج غروب ہو گیا۔ آقائے دو جہاں ﷺ نے دعا فرمائی، اے اللہ! علیؑ تیری اور تیرے رسول کی اطاعت میں تھے اس لیے ان کے لیے سورج لوٹا دے۔ تو سورج غروب ہونے کے بعد پھر طلوع ہو گیا۔ اس حدیث کو امام طحاوی نے صحیح قرار دیا ہے، قاضی عیاض ماکی نے بھی کتاب الشفاء میں اسے صحیح کہا ہے۔ علامہ ابن حجر کی اور دیگر محدثین نے بھی اسے صحیح قرار دیا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ

132 - حضرت ام سلمہؓ نبیؐ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، جس نے علیؑ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور جس نے علیؑ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ اس حدیث کی سند حسن ہے۔

(طبرانی فی الکبیر، الصواعق المحرقة: ۱۹۰)

133 - حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ میں نے آقا و مولیٰؑ سے شکایت کی کہ لوگ مجھ سے حسد کرتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے لوگوں میں چوتھے تم ہو؟ وہ چار لوگ ہیں، تم، حسن اور حسین ہیں۔ (مسند احمد، طبرانی فی الکبیر، مجمع الروايد)

134 - حضرت انسؓ سے روایت ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا،

چار آدمیوں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مومن کے سوا کوئی ان چاروں سے محبت کر سکتا ہے وہ چار لوگ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔

(ابن عساکر، الصواعق المحرقة: ۱۱۹)

135 - حضرت ابو سعید خدریؓ فرماتے ہیں کہ ہم انصار کے لوگ منافقوں کو سیدنا علیؑ سے بغض رکھنے کی وجہ سے پہچان لیتے تھے۔ (ترمذی ابواب السناقب)

136 - حضرت بريدہؓ سے روایت ہے کہ مجھ سے آقا و مولیٰؑ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے چار لوگوں سے محبت رکھنے کا حکم دیا ہے اور مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت رکھتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی، ہمیں ان کے نام بتا دیجیے۔ آپ نے تین بار فرمایا، ان میں سے ایک علی ہیں۔ پھر فرمایا، دیگر تین لوگ ابو ذر، مقداد اور سلمان ہیں۔ (ترمذی ابواب السناقب)

137 - حضرت جابرؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا، تم لوگ مختلف درختوں کی شاخیں ہو! میں اور علی ایک ہی درخت سے ہیں۔ (تاریخ الخلفاء: ۲۵۸)

138 - حضرت ام سلمہؓ سے روایت ہے کہ حضورؐ نے فرمایا، جب سرکارِ دو عالمؐ غصہ کی حالت میں ہوتے تھے تو سوائے حضرت علیؑ کے کسی کی مجال نہ تھی کہ وہ آپ سے گفتگو کر سکے۔ (طبرانی، تاریخ الخلفاء: ۲۵۹)


139 - حضرت علیؑ فرماتے ہیں، حضورؐ نے مجھے یمن کی جانب قاضی بنا کر بھیجا چاہا تو میں نے عرض کی، میں ابھی نا تجربہ کار ہوں اور معاملات طے کرنا نہیں جانتا۔ آپ نے میرے سینے پر ہاتھ مبارک مار کر فرمایا، اہلی! اسکے قلب کو روشن فرما دے، اسکی زبان کو تاثیر عطا فرما دے۔ خدا کی قسم! اس دعا کے بعد سے مجھے کبھی کسی مقدمہ کا فیصلہ کرتے ہوئے شک و تردید پیدا نہیں ہو اور میں نے درست فیصلے کیے۔ (حاکم)

140 - حضرت عمار بن یاسرؓ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقاؑ نے فرمایا، دو شخص سب سے زیادہ شقی و بد بخت ہیں۔ ایک وہ جس نے صالحؑ کی اونٹنی کی کوچیں کاٹ دی تھیں اور دوسرا وہ ہے جو تمہارے سر پر تلوار مارے گا اور تمہاری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی۔ (مسند رک للحاکم، مسند احمد)

141 - حضرت براء بن عازبؓ اور حضرت زید بن ارقمؓ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہؐ خیم غدیر پر اترے تو حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا تم جانتے نہیں کہ میں ہر صاحب ایمان سے اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہوں؟ لوگ عرض گزار ہوئے، کیوں نہیں؟ فرمایا، کیا تم جانتے نہیں کہ میں مسلمانوں کا ان کی جان سے بھی زیادہ مالک ہوں؟ عرض کیا، کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا،

اے اللہ! جس کا میں دوست ہوں اس کے علیؑ بھی دوست ہیں۔ اے اللہ! اس سے دوستی رکھ جو ان سے دوستی رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔

اس کے بعد سیدنا عمرؓ نے ان سے طے تو فرمایا، اے ابن ابوطالب! آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہر صبح و شام ہر ایمان والے مرد و عورت کے دوست



عشرہ مبشرہ کے فضائل، قرآن میں:

1- وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءَ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا (الفتح: ۲۹)

”اور انکے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، سجدے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ (کنز الایمان)  
حضرت حسن بصری ؓ سے روایت ہے کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ سے مراد حضرت ابو بکر ؓ ہیں۔ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ سے مراد حضرت عمر ؓ ہیں۔ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ سے مراد حضرت عثمان ؓ ہیں۔ تَرَاهُمْ رُكْعًا سُجَّدًا سے مراد حضرت علی ؓ ہیں۔ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سے مراد باقی عشرہ مبشرہ ہیں۔

(تفسیر مظہری، تفسیر بغوی)

2- إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ○

”بے شک وہ ہیں جن کے لئے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا ہے، وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔“ (الانعام: ۱۰۱، کنز الایمان)

ابوداؤد، ابن ابی حاتم اور ابن مردویہ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت علی ؓ نے خطبہ ارشاد فرمایا اور آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ جہنم سے دور رکھے جانے والوں میں سے، میں (یعنی علی) ہوں اور ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعید، سعد، عبد الرحمن بن عوف اور ابو عبیدہ بن جراح ؓ ہیں۔ پھر نماز کے لئے اقامت کہی گئی تو آپ اپنی چادر کھینچتے ہوئے کھڑے ہوئے اور اس سے اگلی آیت تلاوت کی، لَا يَسْمَعُونَ حَبِيبَتَهَا وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ ○

ترجمہ: ”اور اس (جہنم) کی بھٹک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔“ (کنز الایمان)

عشرہ مبشرہ کے فضائل، احادیث میں:

اب وہ احادیث بیان ہوگی جن میں عشرہ مبشرہ میں سے کسی ایک صحابی کی یا ان میں سے بعض صحابہ کی فضیلت بیان ہوئی ہے۔

142- حضرت ابو ہریرہ ؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ حرا پہاڑ پر تھے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص ؓ بھی تھے۔ پہاڑ ٹپنے لگا تو آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ٹھہر جا! تجھ پر صرف نبی ہے یا صدیق یا شہید۔ (مسلم)  
143- حضرت عبد الرحمن بن عوف ؓ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، ابو بکر جنت میں ہے، عمر جنت میں ہے، عثمان جنت میں ہے، علی جنت میں ہے، طلحہ جنت میں ہے، زبیر جنت میں ہے، عبد الرحمن بن عوف جنت میں ہے، سعد بن ابی وقاص جنت میں ہے، سعید بن زید جنت میں ہے، اور ابو عبیدہ ابن الجراح جنت میں ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

144- حضرت عمر ؓ نے فرمایا کہ غلیفہ بنے گا ان حضرات سے زیادہ کوئی مستحق نہیں جن سے وصال فرمانے تک رسول اللہ ﷺ راضی رہے۔ پھر آپ نے حضرت علی، حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت سعد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف ؓ کے نام لیے۔ (بخاری)

145- حضرت علی ؓ سے روایت ہے کہ میں نے آقا و مولیٰ ﷺ کو کسی کے لیے اپنے والدین کو جمع کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے حضرت سعد کے۔ میں نے غزوہ احد کے دن فرماتے سنا، ”اے سعد! تیر چلاؤ۔ تم پر میرے ماں باپ قربان۔“ (بخاری، مسلم)

146- حضرت جابر ؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ہر نبی کا ایک خواری ہوتا ہے اور میرا خواری زبیر ہے۔ (بخاری، مسلم)



147- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے اور میری امت کا امین ابوعبیدہ ابن الجراح ہے۔ (بخاری، مسلم)

148- حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ اُحد کے دن نبی کریم ﷺ پر دو زہریں تھیں۔ آپ ایک پتھر پر چڑھنا چاہتے تھے لیکن نہ چڑھ سکے۔ پس حضرت طلحہ آپ کے نیچے بیٹھ گئے یہاں تک کہ آپ پتھر پر چڑھ گئے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، طلحہ نے (جنت) واجب کر لی۔ (ترمذی)

149- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی طرف دیکھ فرمایا، جو ایسے شخص کو دیکھنا چاہے کہ زمین پر پلٹے ہوئے اپنا وعدہ پورا کر چکا ہو تو اس کی طرف دیکھے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ زمین پر پلٹے ہوئے شہید کو دیکھے تو اُسے طلحہ بن عبید اللہ کو دیکھنا چاہیے۔ (ترمذی)

150- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، آپ اپنے بعد کس کو امیر بناتے ہیں؟ غیب بتانے والے آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، اگر تم ابو بکر کو امیر بناؤ گے تو انہیں امانت دار، دنیا سے منہ موڑنے والا اور آخرت کی رغبت رکھنے والا پاؤ گے۔ اگر تم عمر کو امیر بناؤ گے تو انہیں طاقتور اور امانت دار پاؤ گے جو اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نڈر رہے۔ اور اگر تم علی کو امیر بناؤ گے اور میرے خیال میں تم ایسا کرنے والے نہیں ہو، تو انہیں ہدایت دینے والا اور ہدایت یافتہ پاؤ گے جو تمہیں سیدھے راستے پر لے جائے۔ (مسند احمد، مشکوٰۃ)

151- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میری امت میں ابو بکر سب سے زیادہ مہربان ہیں۔ اللہ کے کاموں میں عمر سب سے زیادہ سخت ہیں، حیا میں عثمان ان سب سے آگے ہیں، ان میں فرائض کو سب سے زیادہ جاننے والے زید بن ثابت ہیں، ابی بن کعب سب سے بڑے قاری ہیں، ان میں حلال و حرام کا سب سے زیادہ علم معاذ بن جبل کو ہے اور ہر امت کا ایک امین ہوتا تھا اور اس امت کے امین ابوعبیدہ ابن الجراح ہیں۔ یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اور قنادہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ ان میں سب سے بڑے قاضی علی ہیں۔ (مشکوٰۃ، ترمذی)

152- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ابو بکر پر رحم فرمائے کہ انہوں نے اپنی بیٹی میرے نکاح میں دی، مجھے ہجرت کے گھر کی طرف سوار کر کے لے گئے، غار میں میرا ساتھ دیا، اور بلال کو اپنے مال کے ذریعے آزاں کیا۔ اللہ تعالیٰ عمر پر رحم فرمائے جو حق بات کہتے ہیں خواہ کسی کو کڑوی معلوم ہو، اور حق نے انہیں ایسا کر چھوڑا کہ ان کا کوئی دوست نہ رہا۔ اللہ تعالیٰ عثمان پر رحم فرمائے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ علی پر رحم فرمائے، اے اللہ! جہاں علی جائے حق اس کے ساتھ رہے۔ (ترمذی)

153- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میری امت میں سب سے زیادہ رحمدل ابو بکر ہیں۔ سب سے زیادہ حسن اخلاق والے ابوعبیدہ ابن الجراح ہیں۔ زیادہ صحیح لوجہ والے ابو ذر ہیں۔ حق کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت عمر ہیں، اور سب سے زیادہ اچھے فیصلے کرنے والے علی ہیں۔ (ابن عساکر)

154- حضور ﷺ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر فرمایا، لو کو! ابو بکر نے مجھے کبھی رنج نہیں پہنچایا، اسے یاد رکھو۔ لو کو! میں ان سے راضی ہوں اور عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، عبد الرحمن اور مہاجرین الاولین سے بھی خوش ہوں۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۱۵)

155- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، چار آدمیوں کی محبت کسی منافق کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی اور نہ ہی مومن کے سوا کوئی ان چاروں سے محبت کرتا ہے، وہ چار افراد ابو بکر، عمر، عثمان اور علی ہیں۔ (ابن عساکر، الصواعق المحرقة: ۱۱۹)

اہل بیت اطہار رضی اللہ عنہم:

عام طور پر اہل بیت یعنی گھر والوں سے بیوی اور اولاد مراد ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اہل بیت کا اطلاق بیویوں پر کیا گیا ہے۔

سورۃ ہود کی آیت ۷۱، ۷۲ اور ۷۳ ملاحظہ کیجیے۔ جب فرشتوں نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دی تو انہوں نے تعجب سے کہا، کیا اس بڑھاپے میں میرے بچہ پیدا ہوگا؟ اس پر فرشتوں نے کہا،

”كَيْفَ نَكْفِيكَ مِنَ اللَّهِ رَحْمَتِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ -“ (ہود: ۷۳)

اس آیت سے ثابت ہوا کہ بیویاں اہل بیت میں داخل ہیں۔ سورہ طہ کی آیت ۱۰ ملاحظہ فرمائیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ہمراہ وادی سینا سے گزرے تو کوہ طور کی سمت انہیں آگ نظر آئی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا،

إِذْ رَأَوْا فَحَالًا لَّا غَيْبَةَ لَهُمْ فَاذْبَعُوا بَأْسَ اللَّهِ بِلَاغٍ بَلَاغًا كَبِيرًا -“ (طہ: ۱۰)

یہاں بھی ”اہل“ سے بیوی مراد ہے۔ عام گفتگو میں بیوی ہی کو گھر والی کہتے ہیں۔ قرآن کریم سے ایک اور حوالہ پیش خدمت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب شیرخوار بچے کے طور پر فرعون کے محل میں پہنچ جاتے ہیں اور فرعون کی بیوی کو ایسی عورت کی تلاش ہوتی ہے جو اس بچے کو دودھ پلا سکے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کہتی ہے،

هَلْ أَتَاكُمْ عَلَيَّ أَهْلِي بَيْتٍ يَخْفَوْنَ عَنْكُمْ - (سورۃ القصص: ۱۴)

”کیا میں تمہیں بتا دوں ایسے گھر والے کہ تمہارے اس بچے کو پال دیں“۔ (کنز الایمان)

صحیح مسلم میں مروی ہے کہ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، نبی کریم ﷺ کے اہلیت کون ہیں؟ کیا آپ کی ازواج اہل بیت سے نہیں؟ انہوں نے فرمایا، آپ کی ازواج بھی اہل بیت میں سے ہیں لیکن آپ کے اہل بیت وہ بھی ہیں جن پر آپ کے بعد صدقہ حرام کر دیا گیا۔ پوچھا گیا، وہ کون ہیں؟ فرمایا، وہ آل علی، آل عقیل، آل جعفر اور آل عباس ہیں ﷺ۔ (باب فضائل علی بن ابی طالب)

آیات و احادیث کی روشنی میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اکابر علماء کرام کی تحقیق کا خلاصہ یوں بیان کیا ہے کہ بیت تین طرح کے ہیں۔

(۱) بیت نسب (خاندان)، (۲) بیت ولادت (اولاد)،

(۳) بیت کنی (کا شانہ مبارکہ میں رہنے والے)۔

پس نسب کے اعتبار سے حضرت عبدالمطلب کی اولاد میں سے بنو ہاشم نبی کریم ﷺ کے اہل بیت ہیں۔ قریبی دادا کی اولاد کو بیت کہتے ہیں مثلاً کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں بزرگ کا بیت یعنی خاندان ہے۔ سکونت و رہائش کے اعتبار سے ازواج مطہرات رسول کریم ﷺ کے اہل بیت ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہم بھی چونکہ آپ کے کا شانہ اقدس میں رہتے تھے اس لیے صاحب مشکوٰۃ نے مناقب اہلیت کے باب میں ان کا بھی ذکر کیا ہے۔

نبی کریم ﷺ کی اولاد مبارکہ ولادت کے اعتبار سے اہل بیت ہے۔ اگرچہ آقا و مولیٰ ﷺ کی تمام اولاد آپ کے اہل بیت میں داخل ہے تاہم ان میں سے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم زیادہ عظمت و فضیلت کے ساتھ نمایاں شان کے حامل ہیں اس لیے جب لفظ اہلیت بولا جاتا ہے تو ذہن انہی کی طرف جاتا ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے فضائل و مناقب اور عظمت و کرامت کے بارے میں بیشمار احادیث وارد ہیں۔ (مشکوٰۃ للامعات شرح مشکوٰۃ)

فضائل اہلیت قرآن میں:

اہل بیت اطہار کی فضیلت و شان، قرآن کریم کی روشنی میں بیان کرتے ہیں۔

1- إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ○ (الاحزاب: ۳۳)

”اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کو تم سے ہرنا پاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔“ (کنز الایمان)

علماء فرماتے ہیں، ریخس کا اطلاق گناہ، نجاست، عذاب اور عیوب پر ہوتا ہے اور رب تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ تمام چیزیں اہلیت کرام سے دور فرما دیں۔ کیا اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے اہل بیت! اگرچہ تم پاک ہو مگر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا پاک کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں پاکیزگی کا اعلیٰ ترین مقام حاصل ہو جائے نیز رب کریم تمہاری پاکی کو ہمیشہ برقرار رکھنا چاہتا ہے۔

اس آیت سے پچھلی آیت کا آغاز یُنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسُنَّ كَمَا خَدَّ مِنْ النِّسَاءِ کے مبارک کلمات سے ہو رہا ہے جن کا ترجمہ ہے، ”اے نبی کی بیویاں تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔“ اس آیت مقدسہ کا آغاز وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کے الفاظ مبارک سے ہوا ہے جن کا ترجمہ ہے، (اے نبی کی بیویاں!) ”اپنے گھروں میں ٹھہری رہو۔“

اس آیت کریمہ کے بعد والی آیت ملاحظہ فرمائیے۔ اس کا آغاز یوں ہو رہا ہے، وَادْخُرْنَ مَا بُنِي فِي بُيُوتِكُنَّ۔ اس میں بھی ازواج مطہرات کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں میں تلاوت کی جانے والی آیات کو یاد کریں۔ کیا آیت تطہیر سے قبل بھی اور بعد میں بھی ازواج مطہرات ہی سے خطاب کیا گیا ہے۔ اس لیے ثابت ہوا کہ اس آیت کریمہ میں اہل بیت سے مراد رسول کریم ﷺ کی ازواج مطہرات ہی ہیں۔

امام رازی رحمہ اللہ آیت تطہیر کے تحت فرماتے ہیں کہ یہ آیت نبی کریم کی ازواج مطہرات کو شامل ہے کیونکہ آیت کریمہ کی روش اس پر دلالت کرتی ہے لہذا انہیں اس آیت سے خارج کرنا اور اس آیت کو ان کے سوا دوسرے لوگوں سے مخصوص کرنا صحیح نہیں۔

اہل بیت میں ازواج مطہرات اور نبی کریم ﷺ کی اولاد اجماعاً بھی ہے، امام حسن، امام حسین اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ان میں داخل ہیں اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے معاشرت کی بناء پر حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ بھی اہل بیت میں سے ہیں۔

(اشعۃ المنعمات شرح مشکوٰۃ)

بعض لوگ اہل بیت میں سے صرف حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہم ہی کو مراد لیتے ہیں۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ان نفوس قدسیہ کو اپنی چادر مبارک میں لے کر آیت تطہیر تلاوت فرمائی اور دوسری روایت میں ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی، اَللّٰهُمَّ هَلُوْا لِاَهْلِ بَيْتِيْ۔ اے اللہ! یہ میرے اہل بیت ہیں۔

(مسلم باب فضائل الحسن والحسين، مشکوٰۃ باب مناقب اہل بیت)

علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ان کے ساتھ اپنے دیگر عزیز و اقارب اور ازواج مطہرات کو بھی اکٹھا کیا۔ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے صحیح روایت میں ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں بھی اہل بیت میں سے ہوں؟ حضور ﷺ نے فرمایا، بَشَكَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ۔ (الصواعق المحرقة: ۲۲۲)

ابن جریر، ابن منذر، ابن ابی حاتم، طبرانی اور ابن مردودہ رحمہم اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے بھی اس چادر میں اپنا سر داخل کر کے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے دوبار فرمایا، ”تم بھلائی پر ہو۔“ پھر علامہ بہمانی رحمہ اللہ نے شیخ محی الدین ابن عربی رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ حدیث بیان کی کہ حضور ﷺ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے فرمایا، ”سلمان ہم میں سے، اہل بیت میں سے ہے۔“

(الاشرف الموبد ل محمد)

حق یہ ہے کہ جب آیت تطہیر نازل ہوئی تو ازواج مطہرات سے خطاب ہونے کی بناء پر یہ گمان تھا کہ کہیں کوئی اولاد رسول ﷺ کو اہل بیت سے خارج نہ سمجھے

اس لیے آپ نے انکے لیے خاص طور پر آیت تطہیر تلاوت کی اور دعا فرمائی۔

دوسری بات یہ ہے کہ نسب عام طور پر باپ کی طرف سے چلتا ہے۔ اس قاعدے پر حضرت علیؑ کی اولاد، ابوطالب کی اولاد کہلانی چاہیے تھی نہ کہ اولاد رسولؐ۔ لیکن رب تعالیٰ نے رسول کریمؐ کو یہ خصوصیت عطا فرمائی کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے حضرت علیؑ کی اولاد، اولاد مصطفیٰؐ شمار ہوتی ہے۔

2- قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَّزِدْ لَهُ فِيهَا حَسَنًا۔ (الشوریٰ: ۲۳)

”تم فرماؤ، میں اس (تبلیغ رسالت پر تم سے کچھ اجر نہیں مانگتا مگر قربت کی محبت۔ اور جو نیک کام کرے ہم اس کے لیے اس میں اور خوبی بڑھائیں۔“

(کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ)

حضرت عبداللہ بن عباسؓ سے اس آیت کی تفسیر دریافت کی گئی تو حضرت سعید بن جبیرؓ نے کہا، اس سے مراد حضورؐ کے قرابت دار ہیں۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، قریش کا کوئی قبیلہ ایسا نہ تھا جس کے ساتھ حضور کی رشتہ داری نہ ہو، اس سلسلے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ مراد یہ ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت ہے تم اس کا لحاظ کرو۔ (صحیح بخاری باب المناقب)

اہل عرب اگرچہ خاندانی عصبيت کی بناء پر قرابت کا پاس رکھتے تھے لیکن نبی کریمؐ کو دعوت حق کی وجہ سے ایذا دیتے تھے۔ اس پر آقا و مولیٰؐ نے فرمایا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، تم کم از کم قرابت ہی کا لحاظ کرو اور مجھے ستانے سے باز رہو اور مجھے دعوت حق پہنچانے دو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے ایک اور قول یہ مروی ہے کہ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور انصار نے دیکھا کہ حضور کے ذمہ مصارف بہت ہیں اور مال کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے بہت سماں جمع کر کے بارگاہ نبوی میں پیش کیا اور عرض گزار ہوئے، آقا کریم! آپ کی بدولت ہمیں ہدایت ملی اور ہم نے گمراہی سے نجات پائی۔ یہ مال آپ کی نذر ہے قبول فرمائیے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اموال واپس فرمادیے اور فرمایا، میں تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر یہ کہ تم اپنے اقربا سے محبت کرو۔ (تفسیر کبیر، خزائن العرفان)

امام احمد رحمہ اللہ نے بروایت مجاہد رحمہ اللہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں جو روشن دلیلیں اور جو ہدایت دی ہے، اس پر کسی اجر کا طلبگار نہیں سوائے اس کے کہ تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اور اس کی اطاعت کے ذریعے اس کا قرب حاصل کر لو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی یہی تفسیر منقول ہے۔ (تفسیر کبیر، تفسیر ابن کثیر)

پس پہلے قول کے مطابق قربت سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قریش کو اپنی رشتہ داری یا دلدلانا ہے۔ دوسرے قول کے مطابق مسلمانوں کا اپنے اقربا سے اور باہم محبت کرنا ہے۔ تیسرے قول کے مطابق رب تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے۔ چوتھا قول جو امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، اس کے مطابق الْمَوَدَّةُ فِي الْقُرْبَى سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت دار یعنی اہلیت اطہار سے محبت ہے۔

امام رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر میں اور علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے تفسیر دُرِّ مُنْتَوَّرٍ میں اس آیت کے تحت یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے متعلق دریافت کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! وہ کون لوگ ہیں جن کی محبت ہم پر واجب ہے؟ ارشاد فرمایا: علی، فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن و حسین رضی اللہ عنہم۔ اس حدیث کی سند پر علماء نے کلام کیا ہے جبکہ اس ضمن میں بعض دیگر روایات بھی موجود ہیں۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، بزار اور طبرانی رحمہما اللہ نے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ سے ایسے طرق سے بیان کیا ہے جن میں بعض حسن ہیں کہ امام حسن رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ میں فرمایا، میں ان اہلیت میں سے ہوں جن سے محبت اور دوستی کرنا اللہ تعالیٰ نے فرض فرمادیا ہے اور فرمایا ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ (الصافات: ۲۵۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وَمَنْ يُفْتَرِ حَسَنَةً نَّزَّلْنَا لَهُ فِيهَا حُسْنًا مِمَّا يَكْتُمُونَ اس آیت کے تحت یہ حدیث بیان کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے۔ (ایضاً) حضرت عمرو بن شعیب رضی اللہ عنہ سے جب اس آیت کی تفسیر پوچھی گئی تو انہوں نے فرمایا، اس سے مراد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت ہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

جب امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو قید کر کے دمشق لایا گیا تو ایک شامی نے کہا، خدا کا شکر ہے جس نے تمہیں قتل کرایا، تمہاری جڑ کاٹ دی اور تمہارا فتنہ ختم کیا۔ آپ نے اسے فرمایا، کیا تو نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی،

قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس نے کہا، کیا وہ تم ہو؟ فرمایا، ہاں۔ (تفسیر ابن کثیر، الصافات: ۲۵۹، طبرانی)

سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ارشاد گرامی ہے، اِرْقَبُوا مُحَمَّدًا فِي أَهْلِ بَيْتِهِ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے اہل بیت کے بارے میں لحاظ رکھو۔ (بخاری کتاب السائب) یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے حقوق اور مراتب کا خیال رکھو۔

صحیح بخاری ہی میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد موجود ہے جو آپ نے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا،

”اللہ تعالیٰ کی قسم! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت داروں سے حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قربت داروں کے سلوک سے بھی زیادہ پیارا ہے۔“ (بخاری کتاب السائب)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ فرمایا، خدا کی قسم! آپ کا اسلام لانا مجھے اپنے والد خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ اچھا لگا کیونکہ آپ کا اسلام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ روایت لکھ کر علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ آل رسول اور اہل بیت کے ساتھ وہی معاملہ رکھے جو سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ان کے ساتھ تھا یعنی اہلیت اطہار کے ساتھ حسن ادب اور حسن عقیدت سے پیش آنا چاہیے۔ (تفسیر ابن کثیر)

آقا و مولیٰ کا فرمانِ عالیشان ہے، ہم اہل بیت سے محبت لازم رکھو کیونکہ ہماری محبت والا جو شخص بارگاہِ خداوندی میں حاضر ہوگا وہ ہماری شفاعت سے جنت میں جائے گا۔ اُس ذاتِ پاک کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! ہمارا حق پہچانے بغیر کسی بندے کا عمل اسے فائدہ نہیں دے گا۔ (اشرف المؤمن بدلائل محمد)

صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی دسر نے بھی بڑی بیاری بات کہی، فرماتے ہیں، اس آیت کی رو سے جب مسلمانوں میں باہم ایک دوسرے کے ساتھ محبت واجب ہوئی تو سید عالمین ﷺ کے ساتھ کس قدر محبت فرض ہوگی..... حضور سید عالم ﷺ کی محبت اور حضور کے اقارب کی محبت دین کے فرائض میں سے ہے۔“

(تفسیر خزائن العرفان)

3- اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۝ (الاحزاب: ۵۶)

”بیشک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اُس غیب بتانے والے (نبی پر)، اے ایمان والو! ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔“ (کنز الایمان)

حضرت کعب بن عُجرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی خدمتِ اقدس میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ہمیں رب تعالیٰ نے آپ پر سلام بھیجنے کا طریقہ تو سکھا دیا ہے اب آپ یہ فرمائیں کہ ہم آپ پر درود کیسے پیش کریں؟ حضور ﷺ نے فرمایا، تم اس طرح درود بھیجو۔ اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید..... الخ۔ ”اے اللہ! درود بھیج حضرت محمد پر اور آل محمد پر.....“ (مشفق علیہ، مشکوٰۃ)

اس سے معلوم ہوا کہ درود بھیجنے کے حکم کی تعمیل میں آقا و مولیٰ ﷺ نے اپنے ساتھ اپنی آل کو بھی شامل فرما کر ان کی عظمت اُجاگر کی ہے۔ آپ کا ایک ارشاد گرامی ہے، مجھ پر کٹا ہوا درود نہ بھیجا کرو۔ عرض کی گئی، کٹا ہوا درود کیا ہے؟ ارشاد ہوا، صرف اللھم صل علی محمد کہنا۔ تم یوں کہا کرو، اللھم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ معلوم ہوا کہ آل کا ذکر کیے بغیر درود پڑھنا کٹا ہوا درود ہے اور آل کے ذکر کے ساتھ پڑھنا پورا درود ہے جو کہ آقا کریم ﷺ کو پسند ہے۔ (الصواعق الخرقہ: ۲۲۵)

4- فَضَلِيْ تَعَالَوْا نَدْعُ اَنْبَاءَ نَا وَاَنْبَاءَ كُمْ وَنِسَاءَ نَا وَنِسَاءَ كُمْ وَاَنْفُسَنَا وَاَنْفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْهَلُ فَجَعَلْ لِّغَنَةِ اللّٰهِ عَلٰى الْكَافِرِيْنَ ۔ (آل عمران: ۶۱)

”تو ان سے فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے، اور اپنی عورتیں اور تمہاری عورتیں، اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں، پھر مباہلہ کریں تو جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ڈالیں۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب حُجران کے عیسائی مناظرہ میں لا جواب ہو کر جھگڑنے لگے تو آقا و مولیٰ ﷺ نے انہیں مباہلے کی دعوت دی جس کا ذکر اس آیت میں ہے۔ تین دن بعد عیسائی بڑے بڑے پادریوں کو ساتھ لیکر آئے۔ جبکہ نبی کریم ﷺ اس شان سے تشریف لائے کہ آپ کی کود میں امام حسینؓ تھے اور امام حسنؓ آپ کا دست مبارک پکڑے ہوئے تھے، خاتونِ جنت سیدہ فاطمہؓ نبیؐ، نبیؐ اور شہرِ خدا سیدنا علیؓ دونوں آپ کے پیچھے تھے اور آقا و مولیٰ ﷺ ان سے فرما رہے تھے، جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔

یہ منظر دیکھ کر انکسب سے بڑا پادری بولا، بیشک میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پہاڑ اسکی جگہ سے ہٹا دے تو وہ پہاڑ اسکی جگہ سے ہٹا دے گا۔ خدا کے لیے ان سے مباہلہ نہ کرو ورنہ ہلاک ہو جاؤ گے اور قیامت تک زمین پر کوئی عیسائی باقی نہ رہے گا۔ پس انہوں نے بارگاہِ رسالت میں عرض کی،

اے ابو القاسم! ہم آپ سے مباہلہ نہیں کرتے، آپ اپنے دین پر رہیں اور ہمیں ہمارے دین پر چھوڑ دیں۔ پھر انہوں نے جزیہ دینے پر صلح کر لی۔

آقا و ولی ﷺ نے فرمایا، خدا کی قسم! اگر وہ مباہلہ کرتے تو وہ سب بندر اور سوربن جاتے اور انکا جنگل آگ سے بھڑک اٹھتا اورجران کے جہنم پرند تک ہلاک ہو جاتے۔ (تفسیر کبیر، تفسیر خزائن العرفان)

بعض کم فہم یہ اعتراض کرتے ہیں کہ اگر حضور ﷺ کی چار بیٹیاں تھیں تو وہ مباہلے میں کیوں شریک نہ ہوئیں؟ جواب یہ ہے کہ مباہلہ ۱۰ھ میں ہوا جبکہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کا وصال ۲ھ میں، سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کا وصال ۸ھ میں اور سیدہ اُمّ کلثوم رضی اللہ عنہا کا وصال ۹ھ میں ہو چکا تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضور ﷺ کی چار بیٹیاں ہونا تو شیعہ فرقہ کی معتبر ترین کتاب اصول کافی سے بھی ثابت ہے۔ ”حضرت خدیجہ کے بطن سے حضور کی یہ اولاد پیدا ہوئی۔ بعثت سے پہلے قاسم، رقیہ، ام کلثوم اور بعثت کے بعد طیب، طاہر اور فاطمہ“۔ رضی اللہ عنہم جس (اصول کافی ج ۱ ص ۳۳۹ مطبوعہ تہران)

5- سَلَامٌ عَلٰی الْيَاسِيْنَ۔ ”سلام ہو الیاسین پر“۔ (المطہفت: ۲۳)

مفسرین کی ایک جماعت نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ اس سے مراد آل رسول ﷺ پر سلام پڑھنا ہے اور کلبی رحمہ اللہ نے بھی یہی کہا ہے جبکہ جمہور مفسرین کے نزدیک اس سے مراد حضرت الیاس رضی اللہ عنہ ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، نحن آل محمد ال یاسین۔ ”آل محمد ہی ہیں۔“

(ابن ابی حاتم، طبرانی، درمنثور، الصواعق المخرجة: ۲۲۸)

6- وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ ”اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر“۔ (آل عمران: ۱۰۳، کنز الایمان)

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں، نحن حبلى الله الذى قال الله فيه۔ ”ہم ہبلیت وہ اللہ کی رسی ہیں جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔“ (الصواعق المخرجة: ۲۳۳)

7- وَقَفُوهُمْ اِنَّهُمْ مَسْئُوْنُوْنَ ۝۔ ”اور انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھنا ہے۔“ (المطہفت: ۲۳، کنز الایمان)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، وَقَفُوهُمْ یعنی انہیں ٹھہراؤ کیونکہ ان سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، پوچھے جانے کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم ﷺ نے تبلیغ رسالت پر جو اقرباء کی محبت طلب کی تھی، اسکے متعلق پوچھا جائے گا کہ کیا انہوں نے حضور ﷺ کے ارشاد کے مطابق حق موالات ادا کیا ہے یا اسے بیکار خیال کیا ہے۔ (الصواعق المخرجة: ۲۲۹)

حضور اکرم ﷺ کا ارشاد ہے، (قیامت میں) ہر شخص سے چار چیزوں کے متعلق پوچھا جاتا ہے۔ اپنی عمر کس کام میں صرف کی، اپنے جسم کو کس کام میں استعمال کیا، مال کیسے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور ہم اہل بیت کی محبت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔

(طبرانی، اشرف الموبد)

ہبلیت اطہار کی محبت سے متعلق احادیث مبارکہ کا ذکر آئندہ صفحات میں آئے گا۔

8- وَمَا كَانَ لِلّٰهِ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ (الانفال: ۳۳)

”اور اللہ کا کام نہیں کہ انہیں عذاب کرے جب تک اے محبوب تم ان میں تشریف فرما ہو۔“ (کنز الایمان از امام احمد رضا محدث بریلوی ندرہ)

علامہ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، حضور ﷺ نے اپنے ہبلیت میں ان معنوں کے پائے جانے کی طرف اشارہ کیا ہے کیونکہ وہ بھی نبی کریم ﷺ کی طرح زمین والوں کے لیے امان ہیں۔ اسکے متعلق بہت سی احادیث ہیں جن میں سے ایک یہ ہے کہ ”ستارے آسمان والوں کے لیے امان ہیں اور میرے ہبلیت میری امت کے لیے امان ہیں۔“ امام احمد کی دوسری روایت میں ہے کہ جب ستارے ختم ہو جائیں گے تو آسمان والے بھی ختم ہو جائیں گے اور جب میرے ہبلیت ختم ہو جائیں گے تو اہل زمین بھی ختم ہو جائیں گے۔ (الصواعق المخرجة: ۲۳۳)

9- وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى ۝

”اور بیشک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے تو بہکی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا“۔ (طہ: ۸۲، کنز الایمان)

حضرت ثابت البنانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ **ثُمَّ اهْتَدَى** سے مراد ہدایت کی طرف ہدایت پانے والا ہے۔ امام ابو جعفر محمد باقر رضی اللہ عنہ سے بھی یہی تفسیر مروی ہے۔ ابن سعد نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ جنت میں پہلے میں، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین داخل ہونگے رضی اللہ عنہم۔ میں نے عرض کی، ہم سے محبت کرنے والوں کا کیا ہوگا؟ فرمایا، وہ تمہارے پیچھے آئیں گے۔ (الصواعق الخرقہ: ۲۳۵)

یہ حدیث پہلے بیان ہو چکی ہے کہ مومن کے دل میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ و عمر رضی اللہ عنہما کا بغض جمع نہیں ہو سکتے۔ اس ضمن میں علامہ ابن حجر کی رحمت نے خوب لکھا ہے۔ فرماتے ہیں، وہ شخص اس قوم کی محبت کا کیسے گمان کرتا ہے جس نے کبھی انکے اخلاق میں سے کسی وصف کو نہیں اپنایا اور نہ کبھی انکے کسی قول پر عمل کیا ہے اور نہ کبھی انکے کسی فعل کی پیروی کی ہے اور نہ انکے انحال میں سے کسی چیز کے سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ حقیقت میں یہ محبت نہیں بلکہ ائمہ شریعت و طریقت کے نزدیک بغض ہے جبکہ محبت کی حقیقت یہ ہے کہ محبوب کی اطاعت کی جائے اور نفس کی محبوب ہر غوب چیزوں کے مقابلے میں محبوب کی مرضی اور محبت کو ترجیح دی جائے نیز اسکے اخلاق و آداب سے ادب سیکھا جائے۔

خصوصاً حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد پیش نظر رہے کہ میری محبت اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ و حضرت عمر رضی اللہ عنہما کا بغض کسی مومن کے دل میں اکٹھے نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں جو جمع نہیں ہو سکتیں۔ (الصواعق الخرقہ: ۲۳۸)

10 - وَلَسَوْفَ يُنظِّقُكَ رَبُّكَ فَارْضَٰهُ ۝

”اور بیشک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے“۔ (الضحیٰ: ۵، کنز الایمان)

علامہ قرطبی رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا میں سے یہ بھی ہے کہ آپ کے ہدایت میں سے کوئی بھی دوزخ میں داخل نہ ہو۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے سند صحیح روایت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رب تعالیٰ نے مجھ سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ میرے ہدایت میں سے جو توحید و رسالت کا اقرار کرے گا اور یہ بھی کہ میں نے رب تعالیٰ کے پیغام کو پہنچا دیا ہے، اسے وہ عذاب نہیں دے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، میں نے یہ دعا کی، اے میرے ہدایت میں سے کسی کو جہنم میں نہ ڈالنا، تو اس نے میری یہ دعا قبول فرمائی۔ (الصواعق الخرقہ: ۲۳۳)

آبِ تَطْمِئِنُّ مِنْهُ جَسَدٌ فِي مِثْرَةٍ مِنْ مِثْرَتِهِ  
خَوْنٌ فِي مِثْرَةٍ مِنْ مِثْرَتِهِ  
أَسْرِيَةٌ فِي مِثْرَةٍ مِنْ مِثْرَتِهِ  
أَنْ كَانَتْ فِي مِثْرَةٍ مِنْ مِثْرَتِهِ

فضائل اہل بیت، احادیث میں:

بعض جہلاء کو یہ کہتے سنا گیا کہ امام بخاری اور امام مسلم وغیرہ نے ہدایت اطہار کی فضیلت میں کوئی حدیث روایت نہیں کی ہے، حالانکہ یہ عظیم بہتان ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب المناقب میں ”مناقب علی بن ابی طالب“ کے عنوان سے سات حدیثیں، ”مناقب قرینہ رسول اللہ و منقبہ فاطمہ علیہا السلام“ کے عنوان سے تین حدیثیں اور ”مناقب الحسن والحسین“ کے عنوان سے آٹھ حدیثیں روایت کیں ہیں۔

اسی طرح امام مسلم رحمہ اللہ نے سیدنا علی کے فضائل کے باب میں تیرہ احادیث، سیدہ فاطمہ کے فضائل کے باب میں آٹھ احادیث اور حسنین کریمین رضی اللہ عنہم کے فضائل کے باب میں چھ احادیث روایت کیں ہیں۔ ان احادیث کے علاوہ بھی انہوں نے اپنی کتب میں ان نفوس قدسیہ کے متعلق پیشا احادیث روایت کیں ہیں۔

ہدایت کرام کے فضائل پر مبنی اکثر احادیث اس کتاب میں تحریر کی جا چکیں اور بعض اب تحریر کی جا رہی ہیں۔ چونکہ ہدایت اطہار میں ازواج مطہرات کو خاص مقام حاصل ہے اس لیے ان کی فضیلت میں مخصوص آیات اور احادیث علیحدہ سے بیان ہونگی۔



1- حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز رسول اللہ ﷺ میں خم نامی چشمے پر خطبہ دینے کھڑے ہوئے جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ہے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنائیاں کی اور وعظ و نصیحت فرمائی پھر ارشاد فرمایا، اے لوگو! میں بشر ہوں۔ قریب ہے کہ اللہ کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اسے قبول کر لوں۔ میں تم میں دو عظیم چیزیں چھوڑے جاتا ہوں جن میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے۔ پس اللہ کی کتاب کو لو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ آپ نے اللہ کی کتاب کی طرف ابھارا اور اسکی ترغیب دی۔

پھر فرمایا، دوسرے میرے اہل بیت ہیں اور میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یا دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یا دلاتا ہوں، میں اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ یا دلاتا ہوں۔ (مسلم باب من فضائل علی)

2- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حج کے موقع پر عرفات میں دیکھا کہ اپنی قصواء اونٹنی پر خطبہ دے رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو! میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر انہیں پکڑے رہو گے تو گمراہ نہیں ہو گے، وہ اللہ کی کتاب اور میری عترت یعنی اہل بیت ہیں۔ (ترمذی)

3- حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، میں تم میں ایسی چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں کہ اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رہو گے تو میرے بعد گمراہ نہیں ہو گے۔ ان میں سے ایک دوسری سے بہت عظمت والی ہے یعنی اللہ کی کتاب جو آسمان سے زمین تک لنگی ہوئی رسی ہے اور میرے اہل بیت۔ اور یہ دونوں ہرگز الگ نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر مجھے ملیں گے۔ پس خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیسا سلوک کرتے ہو۔ (ترمذی)

4- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے اور اللہ سے محبت رکھنے کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو، اور مجھ سے محبت رکھنے کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ (ترمذی، المستدرک)

5- حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو تین چیزیں سکھاؤ۔ اپنے نبی ﷺ کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت اور قرآن مجید پڑھنا۔ (جامع الصغیر: ۱۱۷)

6- حبیب کبری رضی اللہ عنہا نے ارشاد فرمایا، اے نبو عبد المطلب! میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ وہ تمہارے دیندار کو استقامت، بے علم کو علم اور بے راہ کو ہدایت دے۔ اگر کوئی شخص رکن اور مقام ابراہیم کے درمیان چلا جائے اور نماز پڑھے اور روزے رکھے۔ پھر وہ اہل بیت سے بغض رکھتے ہوئے مرجائے تو وہ آگ میں داخل کیا جائے گا۔ (طبرانی، حاکم، الصواعق المحرقة: ۲۶۵)

7- آقا مولی ﷺ نے فرمایا، اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! ہم اہل بیت سے کوئی بغض نہ رکھے ورنہ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل فرمائے گا۔

(المستدرک للحاکم، الصواعق المحرقة: ۲۶۳)

8- نبی کریم ﷺ نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اور میری اولاد اُسے اسکی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جائیں، اور اُسے مجھ سے اپنی ذات سے زیادہ اور میری اولاد سے اپنی اولاد کی نسبت زیادہ محبت نہ ہو جائے۔

(الصواعق المحرقة: ۲۶۴، بیہقی)

9- حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولی ﷺ نے فرمایا، میرے اہل بیت کو اپنے درمیان وہ جگہ دو جو جسم میں سر کی اور سر میں آنکھوں کی جگہ ہے اور سر آنکھوں ہی سے ہدایت پاتا ہے۔ (الشرف الموبد ل محمد)

10- رسول کریم ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے لیے تین عزتیں ہیں۔ جو ان کی حفاظت کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کے معاملے کی حفاظت فرمائے گا

اور جوان کی حفاظت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے دین و دنیا کی حفاظت نہیں فرمائے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! وہ کیا ہیں؟ فرمایا، اسلام کی عزت، میری عزت اور میرے قرابت داروں کی عزت۔ (طبرانی، الصواعق المحرقة: ۲۳۱)

11 - حضرت علیؑ سے روایت ہے کہ آقا و ولیؑ نے فرمایا، تم میں پہلے صراط پر سب سے زیادہ تابت قدم وہ ہوگا جو میرے پہلے بیت اور میرے صحابہ سے زیادہ محبت رکھتا ہوگا۔ (ابن عدی، الصواعق المحرقة: ۲۸۳)

12 - سید عالم، نور محمدؑ نے فرمایا، میرے پہلے بیت حوض کوثر پر آئیں گے اور میرے امت میں سے ان سے محبت کرنے والے بھی ان کے ساتھ ایسے ہونگے جیسے دو انگلیاں باہم قریب ہوتی ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۲۳۵، اشرف ائمہ بَدَلَا ل محمد)

اس حدیث کی تائید بخاری و مسلم کی اس حدیث سے ہوتی ہے کہ ”جو جس سے محبت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوگا۔“

13 - حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے، حضور ﷺ نے فرمایا، تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو میرے بعد میرے پہلے بیت کے لیے بہتر ہوگا۔ (الصواعق: ۲۸۲، حاکم)

14 - سرکارِ دو عالم ﷺ نے ارشاد فرمایا، جس نے میرے پہلے بیت پر ظلم کیا اور مجھے میری اولاد کے بارے میں اذیت دی، اس پر جنت حرام کر دی گئی۔ (اشرف ائمہ بَدَلَا ل محمد)

15 - حضرت ابو ذرؓ نے کعبہ کا دروازہ پکڑے ہوئے فرمایا، میں نے نبی کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، ”خبردار ہو جاؤ! تم میں میرے اہل بیت کی مثال نوحؑ کی کشتی جیسی ہے جو اس میں سوار ہوا، وہ نجات پا گیا اور جو پیچھے رہا وہ ہلاک ہو گیا۔“ (احمد، مشکوٰۃ)

کتاب کے آغاز میں یہ حدیث بیان ہو چکی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا، ”میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔“ اس حدیث میں صحابہ کرام کو آسمان ہدایت کے ستارے فرمایا اور مذکورہ بالا حدیث میں اپنے اہلیت کو کشتی کی مثل قرار دیا۔ کو یا منزل پر پہنچنے کے لیے اہلیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہونا بھی ضروری ہے اور منزل کے حصول کے لیے ستاروں سے راہنمائی لینا بھی ضروری ہے۔ الحمد للہ! اہلسنت ہی اہلیت اطہار کی محبت کی کشتی میں سوار ہو کر نجوم ہدایت یعنی صحابہ کرام سے روشنی لیتے ہوئے منزل مقصود حاصل کرتے ہیں۔

اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضورؐ نجم ہیں اور ناؤ ہے عنترت رسول اللہ کی  
فضائل سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا:

16 - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک روز صبح کے وقت باہر تشریف لے گئے۔ آپ کے اوپر سیاہ اون سے نئی ہوئی چادر تھی۔ حضرت حسنؑ آئے تو آپ نے انہیں اس چادر میں داخل کر لیا۔ پھر حضرت حسینؑ آئے تو انہیں بھی اس چادر میں داخل کر لیا، پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا آئیں تو انہیں بھی داخل کر لیا، پھر حضرت علیؑ آئے تو آپ نے انہیں بھی اس چادر میں لے لیا۔ پھر فرمایا، ”بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والو! کہ تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔“

(صحیح مسلم، مصنف ابن ابی شیبہ، المستدرک للحاکم)

17 - حضرت عمرو بن ابی سلمہؓ سے روایت ہے کہ آیت کریمہ اِنَّمَا يُرِيكُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ الْوَجْهَ الَّذِي تَارْتَدُّونَ عَلَيْهِ كَثِيْرًا مِّنْكُمْ وَمَا تَدْرُوْنَ اَنۡتُمْ عَلَيْهِ تَارْتَدُّوْنَ كَثِيْرًا مِّنْكُمْ۔ الخ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے کاشانہ اقدس میں نازل ہوئی۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت فاطمہ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت علیؑ کو بلا کر چادر اوڑھائی پھر دعا مانگی، اے اللہ! یہ میرے پہلے بیت ہیں، ان سے گندگی دور رکھ اور انہیں خوب پاک و صاف بنا دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں بھی ان کے

ساتھ ہوں؟ آپ نے فرمایا تم اپنی جگہ پر ہو اور تم خیر کی جانب ہو۔ (ترمذی ابواب المناقب)

انہی احادیث کی بنا پر ان نفوسِ قدسیہ کو بچھن پاک کہا جاتا ہے۔

18 - حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ چھ ماہ تک نبی کریم ﷺ کا یہ معمول رہا کہ جب نماز فجر کے لیے نکلتے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے دروازے کے پاس سے گزرتے تو فرماتے، اے ہل بیت! نماز قائم کرو۔ اِنَّمَا يَرِيذُ اللّٰهُ لِيَذْهَبَ عَنْكُمْ الرَّجْسُ..... الخ - ”بے شک اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے گھر والو! تم سے گندگی دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف کر دے۔“

(مسند احمد، مصنف ابن ابی شیبہ، المستدرک للحاکم)

19 - حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ اٰنْبَاءَنَا وَ اٰنْبَاءَكُمْ ..... الخ - ”فرما دو، آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو“ تو رسول کریم ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین کو بلایا اور فرمایا، اے اللہ! یہ میرے ہل بیت ہیں۔ ﷺ (صحیح مسلم)

20 - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی ازواج آپ کے پاس جمع تھیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آگئیں ان کا چلنا رسول اللہ ﷺ کے چلنے سے مختلف نہیں تھا۔ جب آپ نے انہیں دیکھا تو فرمایا، میری بیٹی خوش آمدید۔ پھر انہیں بٹھایا اور ان کے ساتھ سرکوشی فرمائی تو وہ بہت زیادہ روئیں۔ اُن کا غم دیکھ کر آپ نے دوبارہ سرکوشی فرمائی تو وہ ہنسنے لگیں۔ میں نے پوچھا، آقا مولیٰ ﷺ نے تم سے کیا سرکوشی فرمائی تھی؟ کہا، میں رسول اللہ ﷺ کے راز کو فاش نہیں کر سکتی۔

جب حضور ﷺ کا وصال ہوا تو میں نے کہا، میں تمہیں اس حق کا واسطہ دیتی ہوں جو میرا تم پر ہے کہ مجھے وہ بات بتا دو۔ کہا، ہاں اب بتا دیتی ہوں۔ پہلی دفعہ جب آپ نے مجھ سے سرکوشی فرمائی تو بتایا کہ جبرئیل میرے ساتھ ہر سال ایک مرتبہ قرآن مجید کا دور کیا کرتے تھے اس سال دو مرتبہ کیا ہے، میرے خیال میں میرا آخری وقت قریب آ گیا ہے لہذا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور صبر کرنا کیونکہ میں تمہارے لیے اچھا پیش رو ہوں۔ یہ سن کر میں روئی۔ آپ نے جب میری پریشانی ملاحظہ فرمائی تو دوبارہ سرکوشی کی اور ارشاد فرمایا،

”اے فاطمہ! کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ تم ایمان والی عورتوں کی سردار ہو یا اس امت کی عورتوں کی سردار ہو؟“ (صحیح مسلم)

21 - آپ ہی سے دوسری روایت میں ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھ سے سرکوشی فرمائی کہ اسی مرض میں میرا وصال ہو جائے گا تو میں رونے لگی۔ پھر آپ نے سرکوشی فرماتے ہوئے مجھے بتایا کہ میرے ہل بیت میں سب سے پہلے تم مجھ سے آملو گی، تو میں ہنس پڑی۔ (بخاری، مسلم)

22 - اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے بڑھ کر کسی کو عادات و اطوار اور نشست و برخاست میں رسول کریم ﷺ سے مشابہت رکھنے والا نہیں دیکھا۔

(المستدرک، فضائل الصحابہ للنسائی)

23 - حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ جب سفر کا ارادہ فرماتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مل کر سفر پر روانہ ہوتے اور جب سفر سے تشریف لاتے تو بھی سب سے پہلے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آتے۔ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔

(المستدرک للحاکم، صحیح ابن حبان)

24 - حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ (بخاری، مسلم)

25 - حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ابو جہل کی لڑکی کے لیے نکاح کا پیغام دیا تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا، بیشک فاطمہ

میرے جسم کا حصہ ہے اور مجھے یہ بات پسند نہیں کہ اُسے کوئی تکلیف پہنچے۔ خدا کی قسم! اللہ کے رسول کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک شخص کے نکاح میں جمع نہیں ہو سکتیں۔ (بخاری، مسلم)

26۔ اُنہی سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ نے فرمایا، نو ہشام بن مغیرہ نے مجھ سے یہ اجازت مانگی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی علی بن ابی طالب سے کر دیں۔ میں اُن کو اجازت نہیں دیتا، میں ان کو اجازت نہیں دیتا، پھر میں ان کو اجازت نہیں دیتا۔ ہاں اگر اس ابی طالب چاہے تو میری بیٹی کو طلاق دیدے اور پھر اُنکی بیٹی سے شادی کر لے۔ کیونکہ میری بیٹی میرے جسم کا حصہ ہے۔ جو چیز اُسے پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے اور جو چیز اُسے تکلیف دیتی ہے وہ مجھے تکلیف دیتی ہے۔

(مسلم، ترمذی، ابو داؤد)

27۔ حضرت عبد اللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسے تکلیف دینے والا مجھے تکلیف دیتا ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ (مسند احمد، المستدرک)

28۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، بیشک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔

(المستدرک، طبرانی فی الکبیر، مجمع الرواۃ)

29۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم فرمایا کہ میں فاطمہ کا نکاح علی سے کر دوں۔

(طبرانی فی الکبیر، مجمع الرواۃ)

30۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے ان کی شادی کے موقع پر خاص دعا فرمائی، اے اللہ! میں اپنی اس بیٹی کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ (صحیح ابن حبان، طبرانی فی الکبیر)

31۔ حضرت بربدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شادی کی رات حضور اکرم ﷺ نے اُن پر پانی چھڑکا اور فرمایا، اے اللہ! ان دونوں کے حق میں برکت دے اور ان دونوں پر برکت نازل فرما اور ان دونوں کے لیے ان کی اولاد میں برکت عطا فرما۔ (طبقات ابن سعد، أسد الغابہ)

32۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔ ہر بیٹے کی نسبت باپ کی طرف ہوتی ہے سوائے اولاد فاطمہ کے کہ ان کا باپ بھی میں ہی ہوں اور ان کا نسب بھی میں ہی ہوں۔ (مصنف عبد المرزاق، سنن الکبیر فی اللہ تعالیٰ، طبرانی فی الکبیر)

33۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین رضی اللہ عنہم کے متعلق فرمایا، میں اُن سے لڑنے والا ہوں جو ان سے لڑیں اور اُن سے صلح کرنے والا ہوں جو ان سے صلح کریں۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

34۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم ﷺ نے دریافت فرمایا، عورت کے لیے کون سی بات سب سے بہتر ہے؟ اس پر صحابہ کرام خاموش رہے۔ میں نے گھرا کر یہی سوال سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے جواب دیا، عورت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اسے غیر مرد نہ دیکھے۔ میں نے اس جواب کا ذکر حضور ﷺ سے کیا تو آپ نے فرمایا، فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ (مسند بزار، مجمع الرواۃ)

35۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ نے فرمایا، بیشک فاطمہ نے اپنی عصمت و پارسائی کی ایسی حفاظت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اولاد پر آگ حرام کر دی ہے۔ (المستدرک للحاکم، مسند بزار)

36۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہیں اور تمہاری اولاد کو آگ کا عذاب

نہیں دے گا۔ (طبرانی فی الکبیر، مجمع الرواۃ) علامہ بیہمی نے کہا ہے کہ اس کے رجال ثقہ ہیں۔

37- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، آج رات ایک فرشتہ جو اس سے پہلے کبھی زمین پر نہ اتر تھا، اُس نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہو اور یہ خوشخبری دے کہ فاطمہ عنتی عورتوں کی سردار ہیں اور حسن و حسین عنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔

(ترمذی، مسند احمد، فضائل الصحابہ للنسائی، المستدرک للحاکم)

38- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا، سب سے پہلے جنت میں تم، فاطمہ، حسن اور حسین داخل ہو گے ﷺ۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہو گئے؟ حضور ﷺ نے فرمایا، وہ تمہارے پیچھے ہوں گے۔ (المستدرک للحاکم، الصواعق المبروقہ: ۲۳۵)

39- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میں تم اور یہ دونوں (یعنی حسن و حسین) اور یہ سونے والا (سیدنا علی جو کہ اس وقت سوکراٹھے ہی تھے) قیامت کے دن ایک ہی جگہ ہوں گے۔ ﷺ

(مسند احمد، مجمع الرواۃ)

40- اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا آقا مولیٰ کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور ﷺ انہیں مرحبا کہتے، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، ان کا ہاتھ پکڑ کر اُسے بوسہ دیتے اور انہیں اپنی نشست پر بٹھالیتے۔ (المستدرک، فضائل الصحابہ للنسائی)

41- حضرت جمیع بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں اپنی پھوپھی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے پوچھا، لوگوں میں سے رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ فرمایا، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔ پوچھا، مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرمایا، ان کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔

(ترمذی، المستدرک، طبرانی فی الکبیر)

42- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بارگاہِ نبوی میں عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو میرے اور فاطمہ میں سے کون زیادہ محبوب ہے؟ آقا مولیٰ ﷺ نے ارشاد فرمایا، فاطمہ مجھے تم سے زیادہ پیاری ہے اور تم مجھے اس سے زیادہ عزیز ہو۔ (طبرانی فی الاوسط، مجمع الرواۃ)

43- حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر گئے اور فرمایا، اے فاطمہ! خدا کی قسم! میں نے آپ سے زیادہ کسی سستی کو رسول کریم ﷺ کے نزدیک محبوب نہیں دیکھا۔ اور خدا کی قسم! لوگوں میں سے سوائے آپ کے والد رسول کریم ﷺ کے مجھے کوئی اور آپ سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔

(مصنف ابن ابی شیبہ، المستدرک للحاکم)

44- سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے وصال سے قبل حضرت اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا سے فرمایا، میرا جنازہ لے جاتے وقت اور تدفین کے وقت پردے کا پورا لحاظ رکھنا۔ انہوں نے کہا، میں نے حبش میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر ان پر پردہ ڈال دیتے ہیں (اس طرح جسم کی ہیئت نمایاں نہیں ہوتی)۔ پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر ان پر کپڑا ڈال کر سیدہ کو دکھایا۔ آپ نے پسند کیا پھر بعد وصال اسی طرح آپ کا جنازہ اٹھا۔ (أسد الغابہ، استیعاب)

45- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا مولیٰ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے دن ایک ندا کرنے والا غیب سے آواز دے گا، اے اہل محشر! اپنی نگاہیں جھکا لو تاکہ فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا گزر جائیں۔ (المستدرک للحاکم، أسد الغابہ)

سیدہ زاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام

## فضائل سیدنا حسنؑ و سیدنا حسینؑ:

حضرت سیدنا امام حسنؑ اور حضرت سیدنا امام حسینؑ کے فضائل پر چالیس احادیث تحریر کی جا رہی ہیں، پڑھیے اور اپنے دل میں اہلبیت اطہار خصوصاً نوجوانانِ جنت کے سرداروں کی محبت کی شمع فروزاں کیجیے۔

46- حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت حسن بن علیؑ کو اپنے مبارک کندھے پر اٹھایا ہوا تھا اور آپ ﷺ فرما رہے تھے، ”اے اللہ! میں اس سے محبت کرتا ہوں پس تو بھی اس سے محبت فرما۔“

(بخاری، مسلم)

47- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ میں دن کے ایک حصہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلا، آپ حضرت فاطمہؑ، منیٰؑ، سبا کی رہائش گاہ پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا، کیا بچہ یہاں ہے؟ یعنی حسنؑ۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ دوڑتے ہوئے آگے یہاں تک کہ دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لپٹ گئے۔ آقا مولا ﷺ نے فرمایا، ”اے اللہ! میں اس سے محبت رکھتا ہوں تو بھی اس سے محبت رکھ اور اس سے بھی محبت رکھ جو اس سے محبت رکھے۔“ (بخاری، مسلم)

48- حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد ہے، جس نے ان دونوں یعنی حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے ان دونوں سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ (فضائل الصحابة للنسائی)

49- حضرت ایاسؓ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں اس سفید فخر کی لگام پکڑ کر چلا ہوں جس پر میرے آقا نبی کریم ﷺ اور حضرت حسن و حضرت حسین سوار تھے یہاں تک کہ وہ نبی کریم کے حجرہ مبارکہ میں داخل ہو گئے۔ رسول کریم ﷺ آگے سوار تھے اور حسین کریمین آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ (مسلم)

50- حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ جب حسن پیدا ہوا تو میں نے اس کا نام حمزہ رکھا اور جب حسین پیدا ہوا تو اس کا نام جعفر رکھا۔ مجھے آقا مولا ﷺ نے بلا کر فرمایا، مجھے انکے نام تبدیل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو حضور نے ان کے نام حسن اور حسین رکھے۔ (مسند احمد، حاکم)

51- حضرت ابو بکرہؓ سے روایت ہے کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ ﷺ منبر پر جلوہ افروز تھے اور حسنؑ آپ کے پہلو میں تھے کبھی آپ لوگوں کی جانب متوجہ ہوتے اور کبھی ان کی طرف، پھر آپ نے ارشاد فرمایا،

”میرا یہ بیٹا حقیقی سردار ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے دو بہت بڑے گروہوں میں صلح کروادے گا۔“ (بخاری، ترمذی)

52- حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے نانا نانی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے چچا اور پھوپھی کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماموں اور خالہ کے لحاظ سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ کیا میں تمہیں ان کے بارے میں نہ بتاؤں جو اپنے ماں باپ کے اعتبار سے سب لوگوں سے بہتر ہیں؟ وہ حسن اور حسین ہیں۔ ان کے نانا اللہ تعالیٰ کے رسول ﷺ، انکی نانی خدیجہ بنت خویلد، ان کی والدہ فاطمہ بنت رسول اللہ، انکے والد علی بن ابی طالب، انکے چچا جعفر بن ابی طالب، انکی پھوپھی ام ہانی بنت ابی طالب، انکے ماموں قاسم بن رسول اللہ اور انکی خالہ اللہ کے رسول کی بیٹیاں زینب، رقیہ اور ام کلثوم ہیں۔ ان کے نانا، نانی، والد، والدہ، چچا، پھوپھی، ماموں، خالہ سب جنت میں ہونگے اور وہ دونوں یعنی حسن و حسین بھی جنت میں ہونگے۔ (طبرانی فی الکبیر، مجمع الروايد)

53- حضرت عائشہؓ، منیٰؑ، سبا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے حسن اور حسین کی پیدائش کے ساتویں دن ان کی طرف دو دو بکریاں عقیقہ میں ذبح

کیں۔

(مصنف عبدالرزاق، ابن حبان)

54- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ حسن رضی اللہ عنہ سے زیادہ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ رسول اللہ ﷺ سے بہت مشابہت رکھتے تھے۔ (بخاری، ترمذی)

55- حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ سینے سے سر تک رسول اللہ ﷺ سے مشابہت رکھتے ہیں اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ سے نیچے (پاؤں تک) نبی کریم ﷺ سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ (ترمذی)

اعلیٰ حضرت مجرودین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے خوب فرمایا،

معدوم نہ تھا سایہ شاہِ ثقلین اس نور کی جلوہ گہ تھی ذاتِ حسین  
تشیل نے اس سائے کے دو حصے کیے آدھے سے حسن بنے آدھے سے حسین

56- سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو رسول کریم ﷺ کے مرض الوصال کے دوران آپ کی خدمت میں لائیں اور عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! انہیں اپنی وراثت میں سے کچھ عطا فرمائیں۔ آقا کریم ﷺ نے فرمایا، حسن میری ہیبت اور سرداری کا وارث ہے اور حسین میری جرأت اور سخاوت کا وارث ہے۔ (طبرانی فی الکبیر، مجمع الرواۃ)

57- حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور فرمایا، اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔ دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ انہیں پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھالیتے اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دوسری ران مبارک پر۔ پھر یہ کہتے، اے اللہ! ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر مہربانی کرتا ہوں۔ (بخاری)

58- حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا موملی ﷺ نے فرمایا، جو مجھ سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ان دونوں یعنی حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ (فضائل الصحابۃ للنسائی، صحیح ابن خزیمہ، مجمع الرواۃ)

59- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا موملی ﷺ نے حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو اپنے کندھے پر اٹھایا ہوا تھا تو ایک آدمی نے کہا، اے لڑکے! کیا خوب سواری پر سوار ہو۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ سوار بھی تو بہت خوب ہے۔ (ترمذی)

60- حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حسن و حسین کو آقا موملی ﷺ کے مبارک کندھوں پر سوار دیکھا تو ان سے کہا، آپ کی سواری کتنی اچھی ہے! نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنے اچھے ہیں۔ (مسند بزار، مجمع الرواۃ)

61- حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز عصر پڑھی پھر باہر نکلے اور ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو بچوں کے ساتھ کھیلتے ہوئے دیکھا تو اسے اپنے کندھے پر اٹھالیا اور فرمایا، میرا باپ قربان! تم نبی کریم ﷺ سے مشابہت رکھتے ہو اور علی سے مشابہت نہیں رکھتے جبکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہنس رہے تھے۔ (بخاری)

62- حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ (ترمذی، مسند احمد، صحیح ابن حبان)

63- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا، حسن اور حسین دونوں دنیا میں سے میرے دو پھول ہیں۔ (ترمذی، مسند احمد، صحیح ابن حبان)

64- حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک رات میں کسی کام سے میں نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ آقا موملی ﷺ باہر تشریف لائے۔

آپ نے چادر میں کوئی چیز لی ہوئی تھی اور مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ وہ چیز کیا ہے۔ جب میں اپنے کام سے فارغ ہو گیا تو عرض گزار ہوا، میرے آقا! آپ نے کس چیز پر چادر لپیٹی ہوئی ہے؟ آپ نے چادر ہٹائی تو دیکھا کہ آپ کی دونوں رانوں پر حسن اور حسین موجود ہیں۔ فرمایا، یہ دونوں میرے بیٹے اور میری بیٹی کے بیٹے ہیں۔ اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں پس تو بھی ان سے محبت رکھ اور ان سے بھی محبت رکھ جو ان دونوں سے محبت رکھیں۔ (ترمذی، صحیح ابن حبان)

65 - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا کہ اپنے اہل بیت سے آپ کو سب سے پیارا کون ہے؟ فرمایا، حسن اور حسین۔ آپ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کرتے، میرے دونوں بیٹوں کو میرے پاس بلاؤ۔ پھر آپ دونوں کو سونگھا کرتے اور انہیں اپنے ساتھ لپٹا لیا کرتے۔ (ترمذی، مسند ابویعلیٰ)

66 - حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ خطبہ دے رہے تھے کہ اس دوران حسن اور حسین آگئے۔ ان کے اوپر سرخ قمیصیں تھیں اور وہ گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے تو رسول کریم ﷺ منبر سے اترے، دونوں کو اٹھایا اور سامنے بٹھالیا۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، انما اموالکم واولادکم فتنۃ۔ بیشک تمہارے مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہیں۔ (۲۸:۸) میں نے ان دونوں بچوں کو دیکھا کہ گرتے پڑتے آ رہے ہیں تو میں مہربان کر سکا اور اپنی بات چھوڑ کر ان دونوں کو اٹھالیا۔ (ترمذی، ابوداؤد ہنسائی)

67 - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ حضرت حسن اور حضرت حسین کے لیے (خاص طور پر) کلماتِ تعویذ کے ساتھ دم فرماتے۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا، تمہارے جد امجد یعنی ابراہیم رضی اللہ عنہ بھی اپنے صاحبزادوں اسماعیل رضی اللہ عنہ و اسحاق رضی اللہ عنہ کے لیے ان کلمات کے ساتھ دم کرتے تھے۔ اَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ النَّامِيَةِ مِنْ كُلِّ شَيْطٰنٍ وَهَامِيَةٍ وَمِنْ كُلِّ غِيْبٍ لَّامِيَةٍ۔ ”میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے ہر شیطان اور بلا سے اور ہر نظر بد سے پناہ مانگتا ہوں۔“ (بخاری، ابن ماجہ)

68 - حضرت یعلیٰ بن مرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اس سے محبت کرے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ حسین میری اولاد میں سے ایک فرزند ہے۔ (ترمذی، ابن ماجہ)

69 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، اس نے درحقیقت مجھ ہی سے محبت کی۔ اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، اس نے درحقیقت مجھ ہی سے بغض رکھا۔

(ابن ماجہ، فضائل الصحابة للنسائی، طبرانی فی الکبیر)

70 - حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے آقا و مولیٰ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے حسن اور حسین سے محبت کی، اُس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی، اُس سے اللہ تعالیٰ نے محبت کی اور جس سے اللہ نے محبت کی، اُس نے اسے جنت میں داخل کر دیا۔ اور جس نے حسن اور حسین سے بغض رکھا، اُس نے مجھ سے بغض رکھا اور جس نے مجھ سے بغض رکھا، وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ہو گیا اور جو اللہ کے نزدیک مبغوض ہوا، اللہ تعالیٰ نے اسے آگ میں داخل کر دیا۔ (المستدرک للحاکم)

71 - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار رسول کریم ﷺ نے حسن اور حسین کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے محبت کی اور ان کے والد اور انکی والدہ سے محبت کی، وہ قیامت میں میرے ساتھ ہوگا۔ (مسند احمد، طبرانی فی الکبیر)

72 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے حضرت علی، حضرت فاطمہ، حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہم کی طرف دیکھا اور ارشاد فرمایا، جو تم سے لڑے گا میں اُس سے لڑوں گا اور جو تم سے صلح کرے گا میں اس سے صلح کروں گا۔ یعنی جو تمہارا دوست ہے وہ میرا بھی دوست ہے۔ (مسند احمد، المستدرک للحاکم، طبرانی فی الکبیر)



73 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز عشاء ادا کر رہے تھے۔ جب آپ سجدے میں گئے تو حسن اور حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو گئے۔ جب آپ نے سجدے سے سر اٹھایا تو دونوں شہزادوں کو اپنے پیچھے سے نرمی کے ساتھ پکڑ کر نیچے بٹھا دیا۔ جب آپ دوبارہ سجدے میں گئے تو وہ پھر کمر مبارک پر سوار ہو گئے۔ یہاں تک کہ آپ نے نماز مکمل کر لی۔ پھر آپ نے دونوں کو اپنے مبارک زانوؤں پر بٹھا لیا۔ (مسند احمد، المستدرک للحاکم، طبرانی فی الکبیر)

74 - حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے کہ اس دوران حضرت حسن اور حضرت حسین آپ کی کمر مبارک پر سوار ہو گئے۔ لوگوں نے ان کو منع کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کو چھوڑ دو، ان پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ (مصنف ابن ابی شیبہ، صحیح ابن حبان، طبرانی فی الکبیر)

75 - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے سجدے میں ہوتے تو حسن یا حسین آ کر آپ کی کمر مبارک پر سوار ہوجاتے اور اس وجہ سے آپ سجدوں کو طویل کر دیتے۔ ایک مرتبہ آپ کی خدمت میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! کیا آپ نے سجدے کو طویل کر دیے ہیں؟ ارشاد فرمایا، مجھ پر میرا بیٹا سوار تھا اس لیے مجھے اچھا لگا کہ میں سجدوں سے اٹھنے میں جلدی کروں۔ (مسند ابویعلیٰ، مجمع الروائد)

76 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ کے مبارک شانوں پر حضرت حسن اور حضرت حسین سوار تھے۔ آپ دونوں شہزادوں کو باری باری چومنے لگے۔ (مسند احمد، المستدرک للحاکم)

77 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حسین کریمین کشتی ٹڑپے تھے اور آپ فرما رہے تھے، حسن! جلدی کرو۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ صرف حسن ہی کو ایسے کیوں فرما رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیونکہ جبریل امین، حسین کو ایسا کہہ کر حوصلہ دلا رہے ہیں۔

(سند الغاب، الاصابہ)

78 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ راستے میں آپ نے حسین کریمین کے رونے کی آواز سنی تو آپ انکے پاس تشریف لے گئے اور رونے کا سبب پوچھا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ انہیں سخت پیاس لگی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی کے لیے مشکیزے کی طرف بڑھے تو پانی ختم ہو چکا تھا۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا مگر (گرمی کی وجہ سے زیادہ استعمال کے باعث) کسی کے پاس پانی موجود نہ تھا۔ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ایک صاحبزادہ مجھے دیدو۔ انہوں نے پردے کے نیچے سے ایک شہزادہ دے دیا۔ آپ نے اسے سینے سے لگا لیا لیکن وہ سخت پیاس کی وجہ سے مسلسل رورہا تھا۔

پس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے منہ میں اپنی مبارک زبان ڈال دی۔ وہ اسے چومنے لگا یہاں تک کہ سیراب ہو گیا۔ پھر میں اسکے دوبارہ رونے کی آواز نہ سنی جبکہ دوسرا ابھی تک رورہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے دوسرا صاحبزادہ لے کر اس کے منہ میں بھی اسی طرح اپنی مبارک زبان ڈال دی تو وہ بھی سیراب ہو کر خاموش ہو گیا۔ (طبرانی فی الکبیر، مجمع الروائد، خصائص کبریٰ)

79 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہلی! میں ان دونوں (یعنی حسن و حسین) سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت فرما۔ (مسند احمد، طبرانی فی الکبیر، مجمع الروائد)

80 - حضرت ام الفضل بنت حارث رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض گزار ہوئیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آج رات میں نے برا خواب دیکھا ہے۔ فرمایا، وہ کیا ہے؟ عرض کیا، آپ کے جسم انور کا ایک ٹکڑا کاٹ کر میری کود میں رکھا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے اچھا خواب دیکھا ہے۔ انشاء اللہ فاطمہ کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوگی جو تمہاری کود میں ہوگا۔ پس حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے ہاں حسین رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور

وہ میری کو دہیں تھے جیسے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تھا۔

ایک روز میں رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تو رسول کریم ﷺ کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ ﷺ! میرے ماں باپ آپ پر قربان! کیا بات ہے؟ فرمایا، جبرئیل میرے پاس آئے تھے اور مجھے بتایا کہ عنقریب میری امت میرے اس بیٹے کو قتل کرے گی۔ میں نے کہا، انہیں (یعنی حسین کو)؟ فرمایا، ہاں! اور وہ میرے پاس اس جگہ کی مٹی لائے جو سرخ ہے۔

(دلائل النبوة للبیہقی، مشکوٰۃ)

81- حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عبید اللہ بن زیاد کے پاس حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا سر اقدس لا کر طشت میں رکھا گیا تو وہ اسے چھیڑنے لگا اور اس نے آپ کے حسن و جمال پر نکتہ چینی کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا، ”خدا کی قسم! یہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والے ہیں۔“ امام عالی مقام نے وسمہ کا خضاب کیا ہوا تھا۔ (بخاری)

82- دوسری روایت میں ہے کہ میں ابن زیاد کے پاس تھا جب امام حسین رضی اللہ عنہ کا سر مبارک لایا گیا تو وہ ایک چھڑی ان کی ناک پر مارنے لگا اور طر ابولا، میں نے ایسا حسن والا نہیں دیکھا تو پھر انکا ذکر کیوں ہوتا ہے۔ میں نے کہا، تجھے معلوم ہونا چاہیے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سب سے زیادہ مشابہت رکھتے ہیں۔ (ترمذی)

83- عبد الرحمن بن ابوعبید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے احرام کے متعلق مسئلہ پوچھا۔ شعبہ نے کہا، میرے خیال میں مکھی مارنے کے متعلق پوچھا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یہ عراق والے مجھ سے مکھی مارنے کے متعلق مسئلہ پوچھتے ہیں حالانکہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے نواسے کو شہید کر دیا تھا جبکہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ یہ دونوں دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ (بخاری)

84- حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ رورہی تھیں۔ میں نے عرض کی، آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ سر اقدس اور داڑھی مبارک گرد آلود ہے۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ ﷺ! آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، میں ابھی حسین کی شہادت گاہ میں گیا تھا۔ (ترمذی)

85- حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ ﷺ کو خواب میں دیکھا کہ گیسوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور دست مبارک میں ایک شیشی ہے جس میں خون تھا۔ میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آپ پر قربان! یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں دن بھر اسے جمع کرتا رہا ہوں۔ میں نے وہ وقت یاد رکھا تو معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ (دلائل النبوة للبیہقی، مسند احمد)

مجددین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں،

وہ حسن مجتبیٰ سید الاخیاء      راکب دوشِ عزت پہ لاکھوں سلام  
 اورج مبر ہدیٰ موج بحر ندی      روح روح سخاوت پہ لاکھوں سلام  
 شہد خوار لعاب زبان نبی      چاشنی گیر عصمت پہ لاکھوں سلام  
 اُس ہمید بلا شاہ گلگوں قبا      نیکس دھتِ غربت پہ لاکھوں سلام

ہلبیت اطہار میں سے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم کے مناقب کے بعد چند متفرق فضائل کی احادیث پیش خدمت ہیں۔

دیگر اہل بیت کے فضائل:

86- حضرت براء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کے لُحْث جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا تو آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، ”بیشک اس کے لیے

جنت میں ایک دودھ پلانے والی ہے۔ (بخاری)

87 - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب لوگ قحط سے دوچار ہوتے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہمیشہ حضرت عباس بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ کے وسیلے سے بارش کی دعا کرتے۔ وہ کہتے، اے اللہ! ہم تیرے نبی کے وسیلے سے بارش مانگا کرتے تھے اور اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کو وسیلہ بناتے ہیں۔ پس ہم پر بارش برسا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر بارش ہو جاتی۔ (بخاری باب ذکر العباس)

88 - حضرت عبدالمطلب بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ غصے کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور میں بھی وہاں موجود تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کس نے ناراض کیا؟ عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! قریش کا ہمارے ساتھ یہ کیا سلوک ہے کہ جب آپس میں ملیں تو خندہ پیشانی سے ملتے ہیں۔ اور جب ہم سے ملیں تو دوسری طرح۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے یہاں تک کہ پُر نور چہرہ سرخ ہو گیا پھر فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے! ایمان کسی آدمی کے دل میں داخل نہیں ہوتا جب تک کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی خاطر تم سے محبت نہ کرے۔

پھر فرمایا، اے لوگو! جس نے میرے چچا جان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی کیونکہ آدمی کا چچا اس کے باپ کی مثل ہوتا ہے۔ (ترمذی)

89 - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عباس مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ (فضائل الصحابة للنسائی، ترمذی)

90 - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے فرمایا، پیر کی صبح اپنے بیٹوں سمیت میرے پاس آنا تاکہ میں تمہارے لیے ایسی دعا مانگوں جو تمہیں نفع دے۔ چنانچہ جب ہم حاضر ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر ایک چادر اوڑھا کر دعا مانگی، الہی! عباس اور اسکی اولاد کی ظاہری و باطنی مغفرت فرما، تاکہ کوئی گناہ باقی نہ رہے اور انہیں انکی اولاد میں معزز فرما۔ (ترمذی)

91 - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے مبارک سینے سے لگا کر کہا، اے اللہ! اسے حکمت سکھا دے۔ دوسری روایت میں ہے کہ اسے کتاب سکھا دے۔ (بخاری)

92 - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں داخل ہوئے تو میں نے آپ کے لیے پانی رکھ دیا۔ جب باہر نکلے تو فرمایا، یہ کس نے رکھا ہے؟ آپ کو بتایا گیا تو آپ نے میرے لیے دعا فرمائی، اے اللہ! اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ (بخاری، مسلم)

93 - غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! اللہ تعالیٰ نے ساتویں آسمان پر لکھا ہوا ہے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ سید اللہ اور سید الرسول ہیں۔ (مواہب الدنیہ، مدارج النبوة)

94 - رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، میرے تمام چچاؤں میں سب سے بہتر حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ (مدارج النبوة)

95 - حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد فَبِهِمْ مِّنْ قُضِيٍّ نَّحْبَهُ (یعنی ان میں سے کوئی شہید ہو چکا ہے) سے مراد حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ (تفسیر ابن عباس، مواہب الدنیہ)

96 - حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی ایسے آنسو بہاتے نہ دیکھا جیسے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت پر آپ کے آنسو بہے۔ آپ ان کے جنازے پر اس قدر روئے کہ آپ کو شش آ گیا۔ آپ نے فرمایا، اے حمزہ! اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا! اے اللہ کے شیر اور اس کے رسول کے شیر! اے نیکیاں کرنے والے! اے سختیاں جھیلنے والے! اے حمزہ! اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور کو گھلانے والے!۔ (مواہب الدنیہ، مدارج النبوة)

97 - حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کو مسکین لوگوں سے محبت تھی، آپ ان کے پاس بیٹھتے اور ان سے گل مل کر باتیں کیا کرتے اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو المساکین رکھی ہوئی تھی۔ (ترمذی)

98- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت بھی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا، میں نے جعفر کو دیکھا کہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑ رہے ہیں۔ (ترمذی)

99- حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم صورت و سیرت میں میرے مشابہ ہو۔ (ترمذی)

100- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آپ ﷺ جب عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما کو سلام کرتے تو فرماتے، ”اے دوپروں یا دو بازوؤں والے کے بیٹے! تم پر سلام ہو“۔ (بخاری)

101- حضرت عبد اللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ جب سفر سے واپس آتے تو ہم آپ سے ملاقات کرتے۔ ایک بار سفر سے واپسی پر میں اور حسن یا حسین آپ سے ملے تو آپ ﷺ نے ہم میں سے ایک کو سواری پر آگے بٹھایا اور دوسرے کو پیچھے یہاں تک کہ ہم مدینہ میں داخل ہوئے۔ (مسلم)

102- حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب بتانے والے آقا موملی نے فرمایا، ہر نبی کو سات نجیب و رفیق یا رقیب دیے گئے جبکہ مجھے چودہ عطا ہوئے۔ پوچھا گیا، وہ کون ہیں؟ فرمایا، میں، میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین، جعفر، حمزہ، ابو بکر، عمر، مصعب بن عمیر، بلال، سلمان، عمار، مقداد، حذیفہ اور عبد اللہ بن مسعود۔ (ترمذی)

103- حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے مجھے اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو پکڑا اور فرمایا، اے اللہ! میں ان دونوں سے محبت رکھتا ہوں تو بھی ان دونوں سے محبت رکھ۔

104- دوسری روایت میں ہے کہ رسول اکرم ﷺ انہیں پکڑ کر اپنی ایک ران پر بٹھا لیتے اور حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو دوسری ران مبارک پر۔ پھر یہ کہتے، اے اللہ! ان دونوں پر رحم فرما کیونکہ میں بھی ان پر مہربانی کرتا ہوں۔ (بخاری)

105- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک لشکر روانہ کیا اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کو اس کا سپہ سالار مقرر فرمایا بعض لوگوں نے ان کو امیر بنانے پر نکتہ چینی کی چنانچہ آقا موملی ﷺ نے فرمایا،

تم اس کی امارت ہی کو ناپسند نہیں کرتے بلکہ تم تو اس کے باپ کی امارت میں بھی اس سے پہلے نکتہ چینی کر چکے ہو۔ حالانکہ خدا کی قسم! وہ امارت کے لائق تھے اور ان لوگوں میں سے تھے جو مجھے بہت پیارے تھے اور یہ ان بعد والوں میں سے ہے جو مجھے سب سے زیادہ پیارے ہیں۔ (بخاری، مسلم)

106- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے چوری کر کے قریش کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اور وہ کہنے لگے کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے سوانہی کریم ﷺ سے اس کی سفارش کی جرات کون کر سکتا ہے کیونکہ رسول کریم ﷺ کو ان سے محبت ہے۔ (بخاری کتاب المناقب)

107- حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے ایک شخص کو دیکھا کہ مسجد نبوی کے گوشے میں کپڑے پھیلا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا، دیکھو یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، اے ابو عبد الرحمن! کیا آپ اسے نہیں پہچانتے؟ یہ تو محمد بن اسامہ رضی اللہ عنہ ہے۔ یہ سن کر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنا سر جھکا لیا اور دونوں ہاتھوں سے زمین کریدنے لگے پھر فرمایا، اگر رسول کریم ﷺ اسے دیکھتے تو ضرور اس سے محبت کرتے۔ (بخاری)

108- حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لیے تین ہزار پانچ سو اور حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے لیے تین ہزار وظیفہ مقرر فرمایا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اپنے والد ماجد کی خدمت میں عرض گزار ہوئے کہ آپ نے اسامہ کو کس وجہ سے ترجیح دی جبکہ خدا کی قسم! وہ کسی موقع پر مجھ سے سبقت نہیں لے جا سکے؟ فرمایا،

چونکہ حضرت زید رضی اللہ عنہ رسول اللہ کو تمہارے والد سے زیادہ پیارے تھے اور خود اسامہ تمہاری نسبت رسول کریم ﷺ کو زیادہ محبوب تھے پس میں نے رسول اللہ ﷺ کی محبت کو اپنی محبت پر ترجیح دی ہے۔ (ترمذی)

109 - حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے نبی کریم ﷺ اسامہ کی ناک صاف کرنے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا عرض گزار ہوئیں، یا رسول

اللہ ﷺ! آپ چھوڑیں، میں صاف کر دیتی ہوں۔ ارشاد فرمایا، اے عائشہ! اس سے محبت رکھو کیونکہ میں اس سے محبت رکھتا ہوں۔ (ترمذی)

110 - حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ کو رسول کریم ﷺ کے گھر

کثرت سے آنے جانے اور آپ کے ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ سمجھتے رہے کہ یہ رسول اللہ ﷺ کے اہل بیت ہیں۔ (صحیح مسلم)

اہلبیت اطہار میں سے سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہم اور بعض دیگر اہلبیت کرام کے فضائل و مناقب میں 151 احادیث پیش کرنے

کے بعد اب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کا ذکر کرتے ہیں۔

ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن:

رسول کریم ﷺ کو دنیا سے جو چیزیں محبوب و پسندیدہ تھیں انہی میں سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن تھیں۔ حضرت عبد اللہ بن ابی اوفیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

رسول کریم ﷺ نے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں اہل جنت کے سوا کسی سے نکاح نہ کروں تو اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول فرمایا۔ (حاکم،

طبرانی)

حضور ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے خود بھی حسن سلوک فرماتے تھے اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جانا آپ کو محبوب تھا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت

ہے کہ میں نے آقا مولیٰ ﷺ کو اپنی ازواج مطہرات سے فرماتے ہوئے سنا، میرے بعد تم پر دل کھول کر فرج کرنے والا سچا نیکو کار ہوگا۔ (مسند احمد)

اب ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کی شان میں چند آیات ملاحظہ فرمائیں۔

1 - يٰۤاَيُّهَا النَّبِيُّ لَسْنَا نَسْتَنَّ كَمَا حَبَدَ مِنَ النِّسَاءِ - (الاحزاب: ۳۴)

”اے نبی کی بیویا تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو“۔ (کنز الایمان)

اللہ تعالیٰ بے مثل ہے، اُس کا قرآن بے مثل ہے، اُس کا رسول ﷺ بے مثل ہے اور اُس کے رسول ﷺ کی ازواج بھی بے مثل ہیں۔ اس آیت مبارکہ سے

ثابت ہوا کہ ازواج مطہرات عام عورتوں کی طرح نہیں ہیں بلکہ اُن سے افضل اور بے مثل ہیں۔

صدر الافاضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ”تمہارا مرتبہ سب سے زیادہ ہے اور تمہارا اجر سب سے بڑھ کر ہے، جہاں کی عورتوں میں کوئی تمہاری ہمسر نہیں“۔ (قرآن

العرفان)

2 - اَلنَّبِيُّ اَوْلٰى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنْ اَنْفُسِهِمْ وَاَزْوَاجُهُ اُمَّهَاتُهُمْ - (الاحزاب: ۶)

”یہ نبی مسلمانوں کا اُن کی جان سے زیادہ مالک ہے اور اس کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں“۔ (کنز الایمان از امام احمد رضا رحمہ اللہ علیہ)

اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں رسول کریم ﷺ کے مالک و مختار ہونے کی صفت بیان فرما کر آپ کی ازواج مطہرات کو تمام ایمان والوں کی مائیں قرار دیا

ہے، اسی لیے ازواج مطہرات کو امہات المؤمنین یعنی ”مومنوں کی مائیں“ کہا جاتا ہے۔ جس طرح ماں کا درجہ تمام عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے، اسی طرح

ازواج مطہرات تمام عورتوں سے اعلیٰ و افضل ہیں اور اُن کی تعظیم و تکریم سب مومنوں پر لازم ہے۔

3 - وَاِنْ كُنْتُمْ تُرِيدْنَ اَللّٰهَ وَرِسُوْلَهٗ وَالْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُمْ اَجْرًا عَظِيْمًا - (الاحزاب: ۲۹)

”اور اگر تم اللہ اور اُس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو، تو بیشک اللہ نے تمہاری نیکی والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے“۔ (کنز الایمان)

اس آیت میں آقا مولیٰ ﷺ کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی برکت سے ازواج مطہرات کو اجر عظیم کی بشارت دی گئی ہے۔ چونکہ تمام ازواج مطہرات نے اللہ

تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کی خاطر دنیا اور اس کی لذتوں اور آسائشوں کو ٹھکرا دیا اور اللہ و رسول ﷺ کی محبت کو تمام دنیا پر ترجیح دی اس لیے وہ اس بشارت کی مستحق

ہو گئیں جو اس آیت میں مذکور ہے۔ پس ثابت ہوا کہ تمام ازواجِ مطہرات جنتی ہیں۔

4۔ وَمَنْ يَفْعَلْ مِنْكُمْ خَيْرًا فَلْيَحْذَرِ لِقَاءَ يَوْمٍ يَكُونُ فِيهِ عَذَابٌ يُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ وَأَعْدَاءَ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَوْمَئِذٍ يَصْحَكُونَ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَنَّانُ الَّذِي يَكْفُلُ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ (الاحزاب: ۳۱)

”اور جو تم میں سے فرما کر اللہ اور رسول کی اور اچھا کام کرے، ہم اسے اوروں سے دونا ثواب دیں گے اور ہم نے اس کے لیے عزت کی روزی تیار کر رکھی ہے۔“

(کنز الایمان از اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ)

رسول کریم ﷺ کی اطاعت و فرمانبرداری کرنے پر رب تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کے لیے اجرِ عظیم کو دو گنا کرنے کی خوشخبری دی اور عزت والا رزق دینے کا اعلان بھی فرمایا۔ ازواجِ مطہرات کے لیے دو گنے اجر کی وجہ یہ ہے کہ ان کے عمل کی دو جہتیں ہیں۔ اول: اللہ اور رسول کی اطاعت، دوم: رسول کریم ﷺ کی رضا جوئی۔

(تفسیر خزائن العرفان)

5۔ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلِي الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

”اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر بنا پا کی دو فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔“ (الاحزاب: ۳۳، کنز الایمان)

سورۃ الاحزاب کی اس سے سابقہ آیات میں رب کریم مزہل نے ازواجِ مطہرات کی فضیلت و عظمت بیان فرما کر انہیں پرہیزگاری کی تلقین فرمائی اور اس آیت میں انکی پاکیزگی کو بیان فرمایا۔ گویا جن مقدس خواتین کے سروں پر زوجیتِ مصطفیٰ علیہ السلام کا مبارک تاج سجانا تھا، رب تعالیٰ نے انہیں طہارت و پاکیزگی کا پیکر بنا کر کاشانہ نبوت کی زمینت بنا دیا۔ اس آیت کے حوالے سے تفصیلی گفتگو پہلے ہو چکی ہے۔

6۔ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكِحُوا زَوَاجَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ أَنَا أَعْلَمُ (الاحزاب: ۵۳)

”اور تمہیں (حق) نہیں پہنچتا کہ رسول اللہ کو ایذا دو، اور نہ یہ کہ ان کے بعد ان کی بیبیوں سے نکاح کرو۔“ (کنز الایمان)

اللہ تعالیٰ نے ازواجِ مطہرات کو مومنوں کی مائیں قرار دیا ہے اس لیے آقا صوملی ﷺ کے ظاہری وصال کے بعد کوئی ان سے نکاح نہیں کر سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آقا صوملی ﷺ کو روضہ اقدس میں حقیقی جسمانی حیات حاصل ہے اس لیے بھی آپ کی ازواجِ دوسرا نکاح نہیں کر سکتیں۔ حیاتِ انبیاء کرام کے عقیدے پر تفصیلی دلائل فقیر کی کتاب ”مزاراتِ اولیاء اور توسل“ میں ملاحظہ فرمائیں۔ قرآن وحدیث کے مضامین کی امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ نے کیا خوب تر جمانی فرمائی ہے،

انبیاء کو بھی اجل آتی ہے	مگر ایسی کہ نقطہ آتی ہے
پھر اسی آن کے بعد انکی حیات	مثل سابق وہی جسمانی ہے
اُس کی ازواج کو جائز ہے نکاح	اُس کا ترکہ بے جو فانی ہے
روح تو سب کی ہے زندہ ان کا	جسم پُر نور بھی روحانی ہے

7۔ تُرْجَى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُمْ وَتُؤْتَى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنْ ابْتِغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُمْ وَلَا

يَحْزَنَ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْنَهُنَّ كُلَّهُنَّ (الاحزاب: ۵۱)

”آپ کو اختیار ہے کہ (پہچھے ہٹاؤ ان میں سے جسے چاہو اور اپنے پاس جگہ دو جسے چاہو۔ اور جسے تم نے کنارے (یعنی دور) کر دیا تھا اُسے تمہارا جی چاہے تو اس میں بھی تم پر کچھ گناہ نہیں۔ یہ امر اس سے نزدیک تر ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں اور غم نہ کریں، اور تم انہیں جو کچھ عطا فرماؤ اس پر وہ سب کی سب راضی رہیں۔“

(کنز الایمان از اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ)

رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی بیویوں کے ساتھ عدل و مساوات کا حکم دیا ہے لیکن اس آیت کریمہ کے ذریعے اپنے محبوب رسول ﷺ کو اس حکم سے مستثنیٰ فرما دیا۔ اس کے باوجود آقا و مولیٰ ﷺ اپنی ازواج مطہرات سے عدل و مساوات کا سلوک فرماتے رہے۔ یہ اختیار عطا فرمانے کا سبب یہ بتایا گیا ہے کہ ازواج مطہرات آقا و مولیٰ ﷺ سے راضی رہیں اور یہ سمجھ لیں کہ جب حضور پر کوئی پابندی نہیں رہی تو اب آقا کریم جسے چاہیں جتنا وقت عنایت فرمائیں، انہیں کسی قسم کے اعتراض کا حق نہیں رہا۔

ان کے لیے یہی غنیمت اور رب تعالیٰ کی نعمت ہے کہ انہیں محبوب کبریا ﷺ کی زوجیت میں ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ”أَنْ تَقْرَأَ أَعْيُنُهُنَّ“ کے الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ کو ازواج مطہرات کی خوشی طوط ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں ان عورتوں پر غیرت کھاتی تھی جنہوں نے اپنی جان آقا و مولیٰ ﷺ کے لیے ہبہ کر دی تھی۔ میں نے عرض کی، کیا عورت اپنی جان ہبہ کر سکتی ہے؟ اس پر مذکورہ آیت نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ نبوی میں عرض کی، میرے آقا! میں دیکھتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش کو پورا کرنے میں جلدی فرماتا ہے۔ (بخاری و مسلم)

8- لَا يَجِلُّ لَكَ الْيَسَاءُ مِنْ م بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ -

”ان کے بعد اور عورتیں تمہیں حلال نہیں اور نہ یہ کہ ان کے عوض اور بیبیاں بدلو اگر چہ تمہیں ان کا حسن بھائے مگر کنیغہ تمہارے ہاتھ کا مال، اور اللہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔“

(الاحزاب: ۵۲، کنز الایمان)

سورۃ الاحزاب کی آیت ۲۸ اور ۲۹ میں مذکور ہوا کہ ازواج مطہرات کو یہ اجازت دی گئی تھی کہ وہ چاہیں تو نفقہ و فاقہ اور تنگی کے ساتھ کاشانہ نبوت میں رہیں اور چاہیں تو الگ ہو جائیں تو سب ازواج مطہرات نے دنیاوی آسائشوں کو ٹھکرا کر سرکارِ دو عالم کا قرب پسند کیا۔ ان کے اس ایثار کو پسند فرما کر رب کریم نے اپنے محبوب رسول ﷺ سے فرمایا کہ اب کسی اور کو شرف زوجیت نہ بخشیں اور نہ ہی ان میں سے کسی کو طلاق دیں۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے یہ ممانعت ختم کرتے ہوئے اس آیت کے حکم کو منسوخ فرمادیا اور نکاح کی اجازت دیدی۔ لیکن پھر بھی سرکارِ دو عالم ﷺ نے کوئی نکاح نہیں کیا تا کہ ازواج مطہرات پر آپ کا یہ احسان رہے۔ (تفسیر ابن کثیر)

9- وَإِذْ تَخَرَّجْنَا فِيهَا بُيُوتِكُمْ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا - (الاحزاب: ۳۳)

”اور یاد کرو جو تمہارے گھروں میں پڑھی جاتی ہیں اللہ کی آیتیں اور حکمت، بیشک اللہ ہر بار کی جانتا خبردار ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت مقدسہ میں رب تعالیٰ نے ازواج مطہرات پر ایک خاص نعمت کا ذکر فرمایا ہے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں،

اے نبی کی بیویو! رب تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد رکھو کہ اس نے تمہیں ایسے گھروں میں آباد کیا جہاں اللہ تعالیٰ کی آیتیں اور حکمت پڑھی جاتی ہے اور اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اپنے لطف و کرم سے نوازا۔ نیز رب تعالیٰ تمہارے متعلق پوری طرح باخبر ہے کیونکہ اس نے اپنے محبوب رسول ﷺ کی زوجیت کا شرف تمہیں عطا کیا ہے۔ حکمت سے مراد منت ہے۔ (تفسیر طبری زیر آیت لہذا)

اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے امہات المؤمنین سلام اللہ علیہن کو قرآن و سنت کے علوم یاد کرنے کی تلقین بھی فرمائی کیونکہ یہ خلوت گاہ نبوت کی رازدار تھیں۔ حضور کے گھر کے احوال و اطوار کو ان سے بہتر کون بیان کر سکتا تھا۔ ازواج مطہرات نے اس حکم پر ایسا عمل کیا کہ وہ لوگوں کی بہترین راہنما اور معلمات بن گئیں اور بعض نے تو علوم قرآن، روایت حدیث اور فقہ میں نمایاں خدمات انجام دیں۔

خصوصاً ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے تلامذہ حدیث کی تعداد دو سو بیان ہوئی ہے جبکہ بکثرت صحابہ کرام آپ سے دینی مسائل میں استفادہ کرتے

تھے۔ صلابِ فتاویٰ صحابیات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے علاوہ امہات المؤمنین میں سے حضرت ام سلمہ، حضرت ام حبیبہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہن کے نام بھی مشہور ہیں۔

10 - وَادِّ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ لَمَرِّبِنَّمِ إِنَّ اللَّهَ الصُّطْفَكَ وَظَهَرَ كِ وَالصُّطْفَكَ عَلِي نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ (آل عمران: ۴۲)

”اور جب فرشتوں نے کہا، اے مریم! بیشک اللہ نے تجھے چن لیا اور خوب سٹھرا کیا اور آج سارے جہاں کی عورتوں سے تجھے پسند کیا۔“ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکہ میں حضرت مریم علیہا السلام کی فضیلت اور ان کا اُسوقت میں سارے جہاں کی عورتوں سے افضل ہونا بیان ہوا ہے۔ اس کا سبب کثرتِ عبادت اور عفت و پاکیزگی کے علاوہ ایک نبی سے نسبت کا ہونا ہے۔ یعنی آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں۔ اسی طرح ازواجِ مطہرات کو دیگر جہاں کی عورتوں پر یہ فضیلت حاصل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب رسول ﷺ سے زوجیت کی نسبت رکھتی ہیں۔

اب امہات المؤمنین سلام اللہ علیہن کے مختصر احوال پیش کیے جا رہے ہیں۔

1۔ اُم المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا:

رسول کریم ﷺ نے سب سے پہلا نکاح بچپن میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا جبکہ ان کی عمر چالیس سال تھی اور وہ قریش کی ایک بیوہ خاتون تھیں۔ قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے انہیں نکاح کے پیغام بھیجے لیکن انہوں نے سب ٹھکرادیے اور نبی کریم ﷺ کے لیے انہوں نے خود نکاح کی خواہش ظاہر کی۔

سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ پہلی عورت ہیں جنہوں نے حضور ﷺ کی نبوت کی تصدیق فرمائی۔ آپ نے اپنا تمام مال حضور کی رضا کے لیے خرچ کیا۔ آقا و مولیٰ ﷺ کی تمام اولاد آپ ہی سے پیدا ہوئی سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو سیدہ ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا سے پیدا ہوئے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے کہ مجھے خدیجہ کی محبت عطا کی گئی ہے۔

حضور ﷺ کو آپ سے اس قدر محبت تھی کہ آپ کی حیات مبارکہ میں حضور نے دوسری شادی نہیں فرمائی۔ آپ کا وصال بعثت کے دسویں سال ماہ رمضان میں ہوا۔ آپ کی فضیلت میں یہ بات ہی کافی ہے کہ آپ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی بارگاہ میں حضرت جبرئیل علیہ السلام حاضر ہو کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ ﷺ! برتن میں سالن اور کھانا لیکر خدیجہ آرہی ہیں۔ جب آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں تو انہیں اُن کے رب کا اور میرا سلام کہیے گا اور انہیں جنت میں موتی کے محل کی بشارت دیجیے گا جس میں کوئی شور یا تکلیف نہیں ہے۔ (بخاری، مسلم)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، مجھے نبی کریم ﷺ کی کسی زوجہ پر اتنا رشک نہیں آتا جتنا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پر، حالانکہ میں نے انہیں دیکھا نہیں ہے لیکن آقا و مولیٰ ﷺ اکثر ان کا ذکر فرماتے رہتے ہیں۔ (بخاری کتاب المناقب)

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا، اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین مریم بنت عمران علیہا السلام تھیں اور اپنے زمانے کی عورتوں میں بہترین خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا ہیں۔ (بخاری کتاب المناقب)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا، تمام جہاں کی عورتوں میں سے مریم بنت عمران، خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد ﷺ اور فرعون کی بیوی آسیہ کی فضیلت جاننا کافی ہے۔ (بخاری کتاب المناقب)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ احمد مختار ﷺ نے فرمایا، اہل جنت کی تمام عورتوں میں سے افضل ترین چار ہیں۔ خدیجہ بنت خویلد، فاطمہ بنت محمد ﷺ، فرعون کی بیوی آسیہ اور مریم بنت عمران۔ (بخاری کتاب المناقب)



## 2- اُم المؤمنین سیدہ سودہ بنت زمعہ رضی اللہ عنہا:

سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا قبیلہ قریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی تھیں۔ بعثت نبوی کے اوائل میں اسلام لائیں اور اپنے شوہر کے ہمراہ حبشہ ہجرت کی۔ آپ جب حبشہ سے واپس مکہ مکرمہ آئیں تو خواب دیکھا کہ نبی کریم ﷺ ان کے پاس تشریف لائے ہیں اور قدم اقدس ان کی گردن پر رکھا ہے۔ آپ نے یہ خواب اپنے شوہر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا، اگر تم سچ کہتی ہو تو پھر تعبیر یہ ہے کہ میرا انتقال جلد ہوگا اور میرے بعد حضور ﷺ تمہیں چاہیں گے۔ چنانچہ اسی طرح ہو اور حضور ﷺ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کے بعد آپ سے نکاح فرمایا۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ”میں نے کسی عورت کو حسد سے خالی نہیں دیکھا سوائے حضرت سودہ کے“۔ سخاوت و ایثار میں بھی آپ نمایاں مقام رکھتی تھیں۔ جب آپ پر بڑھا پے نے غلبہ کیا تو آپ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! مجھے آپ سے کسی چیز کی خواہش نہیں ہے۔ میری تمنا صرف یہ ہے کہ کل قیامت میں میرا حشر آپ کی ازواجِ مطہرات میں ہو، اس لیے میں اپنی باری کا دن عائشہ کو سونپتی ہوں۔ حضور ﷺ نے آپ کی خواہش منظور فرمائی۔ آپ سے پانچ احادیث مروی ہیں۔

## 3- اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا:

آپ کا نام عائشہ اور لقب حمیرا اور صدیقہ ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ کی صاحبزادی ہیں۔ بچپن ہی سے ذہین اور دلیر تھیں۔ آپ غزوہ احد میں مشک اٹھا کر زخمیوں کو پانی پلاتیں۔ غزوہ خندق میں خیمہ سے باہر نکل کر جنگ کا نقشہ دیکھا کرتیں۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب نبی کریم ﷺ نے ان سے نکاح فرمایا تو وہ چھ سال کی تھیں اور انکی رخصتی ہوئی تو وہ نو سال کی تھیں۔ (بخاری کتاب النکاح)

اس پر بعض مستشرقین نے نو سالہ لڑکی کو بیوی بنانے کے حوالے سے اعتراض کیا جس کے جواب میں بعض علماء نے تحقیق کے بعد مذکورہ روایت کو بعض دیگر روایات کے متعارض قرار دیا۔ ان علماء کی تحقیق کا خلاصہ حسب ذیل ہے:-

یوسف بن ماہک ﷺ کہتے ہیں کہ اُم المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، جب یہ آیت (سورۃ القمر کی آیت ۳۶) حضور ﷺ پر مکہ میں نازل ہوئی تو ان دنوں میں ایک نو عمر لڑکی تھی اور کھیل کرتی تھی۔ (بخاری کتاب التفسیر)

مفسرین کرام کے مطابق یہ سورت سال ۵ نبوی میں نازل ہوئی۔ اسی سال سیدنا ابو بکر ﷺ جبیر بن مطعم کے گھر تشریف لے گئے جن سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی پہلی منگنی ہو چکی تھی، تاکہ انکے گھر والوں کو ان سے نکاح چرراضی کیا جائے۔ وہ راضی نہ ہوئے اس پر یہ منگنی ختم ہو گئی۔ (تاریخ طبری ج ۱: ۳۹۳، طبقات ابن سعد ج ۸: ۳۹)

ان حوالوں سے معلوم ہوا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت آٹھ نو سال تو ہوگی اسی لیے سیدنا ابو بکر ﷺ آپ کی شادی کرنے پر آمادہ تھے۔ بخاری کی مذکورہ حدیث سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کی عمر آٹھ نو سال ہوگی، انسی لجاریہ (میں نو عمر لڑکی تھی) کے الفاظ سے یہی اندازہ ہوتا ہے۔ بخاری ہی کی ایک روایت اور ملاحظہ کیجیے۔

عروہ بن زبیر ﷺ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، ”جب میں نے ہوش سنبالا تو اپنے والدین کو دین کی آغوش میں دیکھا۔ کوئی دن ایسا نہ گزرتا جب حضور ﷺ ہمارے گھر صبح و شام تشریف نہ لاتے ہوں۔ جب مسلمان آزمائشوں میں مبتلا ہوئے تو ابو بکر ﷺ حبشہ ہجرت کے ارادے سے نکلے۔“ بچے کس عمر میں ہوش سنبالتے ہیں؟ کم از کم چار پانچ سال عمر تو لازمی ہے۔ نبوت کے پانچویں سال ہجرت حبشہ نیز نبوت کے تیرھویں سال مدینہ ہجرت کا واقعہ ہوا۔ گویا ہجرت حبشہ سے بھی کئی سال پہلے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا چار پانچ سال کی تھیں تو لامحالہ ہجرت حبشہ کے وقت سال ۵ نبوی میں آپ کی عمر آٹھ

نوسال ہی ہوگی جیسا کہ پہلے مذکور ہوا اور ہجرت مدینہ کے وقت سولہ سترہ سال ہوگی۔

سیرت ابن ہشام میں السابقون الاولون کے عنوان سے پہلے اسلام لانے والوں کی جو فہرست تحریر ہے اس میں بیسویں نمبر پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا اسم گرامی موجود ہے۔ یعنی نبوت کے پہلے سال آپ اسلام لائیں اس وقت کم از کم آپ کی عمر چار پانچ سال تو ضرور ہوگی کہ اسلام لانے کے لیے باہوش ہونا ضروری ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی نوسال میں رخصتی والی جس روایت کی بناء پر مستشرقین اور اسلام دشمن آقا و مولیٰ ﷺ پر اعتراض کرتے ہیں، وہ روایت مذکورہ روایات کے متعارض اور روایت کے بھی خلاف ہے کہ نوسال کی بچیوں کی رخصتی نہیں کی جاتی۔ ان دلائل کی بناء پر ایک خیال یہ ہے کہ ۲ھ میں رخصتی کے وقت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر کم و بیش سترہ اٹھارہ سال ہوگی۔

بہر حال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی عمر سے قطع نظر یہ ضرور ثابت ہے کہ نکاح سے قبل حضور ﷺ کو آپ خواب میں دکھادی گئی تھیں اور یہ بتا دیا گیا تھا کہ یہ آپ کی زوجہ ہوگی۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے فرمایا تم مسلسل تین راتیں مجھے خواب میں دکھائی گئیں۔ ایک فرشتہ ربیسی کپڑے پر تمہاری تصویر لیکر آیا اور کہا، یہ آپ کی زوجہ ہیں، ان کا چہرہ دیکھے۔ میں نے وہ کپڑا کھولا تو وہ تم تھیں۔ (متفق علیہ)

رسول کریم ﷺ کی رضا جوئی کے لیے لوگ اس دن تحفے بھیجتے تھے جس دن آپ کی باری ہوتی تھی۔ ازواج مطہرات نے عرض کی، حضور ﷺ لوگوں کو حکم دیں کہ وہ ہدیے پیش کیا کریں خواہ حضور کسی زوجہ کے گھر ہوں۔ آپ نے فرمایا، مجھے عائشہ کے بارے میں ایذا نہ دو۔ بلاشبہ مجھے کسی زوجہ کے بستر میں وحی نہیں آتی سوائے عائشہ کے۔

ایک مرتبہ حضور ﷺ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، اے بیٹی! کیا تم اس سے محبت نہیں کرتیں جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ سیدہ نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر تم عائشہ سے محبت رکھو۔ (مسلم)

رسول کریم ﷺ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ، عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے شہید کی فضیلت تمام کھانوں پر۔ (بخاری کتاب الناقب)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ مرض الوصال میں پوچھا کرتے کہ کل میں کہاں ہوں گا؟ کل میں کہاں ہوں گا؟ یعنی مراد یہ تھی کہ حضرت عائشہ کی باری کب آئے گی۔ اس پر ازواج مطہرات نے آپ کو اجازت دے دی کہ آپ جہاں چاہیں جلوہ افروز رہیں۔ چنانچہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ اقدس میں رہے یہاں تک کہ ان کے پاس ہی وصال فرمایا۔ (بخاری)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کا ہار گم ہو گیا تو حضور ﷺ نے اسے تلاش کرنے کے لیے بعض صحابہ کو بھیجا۔ پھر نماز کا وقت آ گیا تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے انہوں نے بغیر وضو کے نماز پڑھ لی۔ جب بارگاہ نبوی میں یہ معاملہ عرض کیا تو رب تعالیٰ نے تنیم کی آیت نازل فرمائی۔ اس پر حضرت اُسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، آپ پر جب بھی کوئی مصیبت نازل ہوئی تو رب تعالیٰ نے آپ کو اس سے نجات دی اور مسلمانوں کے لیے اس میں برکت رکھ دی۔ (متفق علیہ)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! یہ جبرئیل ہیں جو تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے کہا، وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پھر کہا، میرے آقا! آپ وہ کچھ دیکھتے ہیں جو میں نہیں دیکھتی۔ (بخاری)

آپ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی سات صفات عطا کی ہیں جو کسی اور کو نہیں ملیں۔ (۱) فرشتہ میری تصویر لیکر نازل ہوا۔ (۲) حضور نے مجھ سے سات سال کی عمر میں نکاح کیا، نوسال کی عمر میں میری رخصتی ہوئی اور آپ کے نکاح میں صرف میں کنواری تھی۔ (۳) میرے بستر میں حضور پر وحی نازل ہوتی تھی۔ (۴)

میں سب سے زیادہ حضور کو محبوب تھی اور میں اس کی بیٹی ہوں جو حضور کو سب سے زیادہ محبوب تھا۔ (۵) میری وجہ سے قرآن میں ان امور میں آیات نازل ہوئیں جن میں امت ہلاک ہو رہی تھی (مثلاً تنیم اور حد قذف کے مسائل)۔ (۶) میرے سوا کسی زوجہ مطہرہ نے جبریل کو نہ دیکھا۔ (۷) میرے حجرے میں حضور کا وصال ہوا، اس وقت میرے اور فرشتے کے سوا کوئی آپ کے قریب نہ تھا۔ (طبرانی فی الکبیر، معجم الروايد)

آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ کی برأت اور طہارت میں قرآن مجید کی آیات نازل ہوئیں۔ آپ سے دو ہزار دو سو حدیثیں مروی ہیں۔ ۵۸ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

#### 4۔ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا:

سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی ہیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے تو انہیں پیام میں آپ بھی اسلام لائیں۔ پہلے حضرت حمیس رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں جو اصحاب بدر میں سے تھے۔

ان کے انتقال کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان سے نکاح کے لیے کہا، انہوں نے کہا، میں ابھی نکاح نہیں کرنا چاہتا۔ پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نکاح کی پیشکش کی تو وہ خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر سب حالات عرض کیے۔ حضور ﷺ نے فرمایا، حفصہ کی شادی اس سے ہوگی جو عثمان سے بہتر ہے اور عثمان کی شادی اس سے ہوگی جو حفصہ سے بہتر ہے۔ چنانچہ چند دن بعد سیدہ حفصہ کو نبی کریم ﷺ نے نکاح کے لیے قبول فرمایا اور اپنی صاحبزادی سیدہ ام کلثوم کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔

اسکے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے طے اور فرمایا ہم نے مجھ سے حفصہ کے نکاح کی خواہش ظاہر کی تو میں اس لیے خاموش رہا کہ میں جانتا تھا، حضور ﷺ نے حفصہ سے نکاح کے متعلق فرمایا ہے اور میں ان کی بات قبل از وقت نہیں بتانا چاہتا تھا۔

ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام نے بارگاہ نبوی میں سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کے متعلق عرض کی، وہ راتوں کو بہت عبادت کرنے والی اور روزے رکھنے والی ہیں اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہیں۔

علم و فضل کے اعتبار سے بھی آپ کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ آپ سے ساٹھ حدیثیں مروی ہیں۔ کثیر صحابیہ اور تابعیہ خواتین آپ کے حلقہ تلامذہ میں داخل ہیں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کا جو نسخہ تیار کر لیا تھا وہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد آپ ہی کی تحویل میں رہا۔ ۴۵ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

#### 5۔ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا:

سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا قبیلہ بنو عامر سے تعلق رکھتی تھیں۔ نہایت عبادت گزار اور سخی دل خاتون تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں مساکین پر بحد شفقت کرنے اور انہیں کھانا کھلانے کے باعث لوگ آپ کو اُمُّ الْمَسَاكِين کہتے تھے۔ آپ کا پہلا نکاح حضور ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی حضرت عبد اللہ بن جحش رضی اللہ عنہ سے ہوا جو غزوہ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ مشہور ہے کہ انہوں نے جنگ سے پہلے یہ دعا مانگی،

”اے خالق و مالک! مجھے ایسا مقابل عطا کر جو نہایت بہادر اور غضبناک ہو، میں تیری راہ میں لڑتا ہوں اور اراجاؤں اور وہ میرے ہونٹ، ناک اور کان کاٹ ڈالے پھر جب میں تیرے پاس آؤں اور تو پوچھے، اے عبد اللہ! تیرے ہونٹ، ناک، کان کیوں کاٹے گئے تو میں عرض کروں، اے اللہ تیرے اور تیرے رسول کے لیے۔“

ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہیں غیب سے شہادت کی بشارت ہوئی۔ وہ اس قدر بے جگری سے لڑے کہ انکی تلوار ٹوٹ گئی۔ احمد مختار رضی اللہ عنہ نے انہیں کھجور کی چھڑی عطا فرمائی جو انکے ہاتھ میں تلوار بن گئی اور اس سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔

اسی سال حضور ﷺ نے سیدہ زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا۔ آپ بہت کم مدت حضور کی خدمت میں حیات رہیں۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ

دوسری زوجہ مبارکہ ہیں جن کا حضور ﷺ کی حیات ظاہری میں وصال ہوا۔ امہات المؤمنین میں صرف آپ کو یہ اعزاز حاصل ہوا کہ رسول کریم ﷺ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن فرمایا۔ ماہ ربیع الثانی ۳ھ میں آپ کا وصال ہوا۔

6- اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

آپ کا اصل نام ہند اور کنیت اُمِّ سَلَمَةَ ہے۔ آپ کا پہلا نکاح حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے ہوا جو حضور ﷺ کے پھوپھی زاد بھائی تھے۔ آپ نے دونوں مرتبہ حبشہ کی طرف ہجرت کی، پھر حبشہ سے مدینہ آئیں۔ آپ پہلی صحابیہ ہیں جنہوں نے مدینہ ہجرت فرمائی۔

آپ نے نبی کریم ﷺ سے سن رکھا تھا کہ جس مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچے وہ یہ دعا مانگے، اَللّٰهُمَّ اجْزِنِيْ فِيْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلُفْ لِيْ خَيْرًا مِنْهَا۔ اے اللہ! اس مصیبت میں مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس سے بہتر بدل عطا فرما۔ اس دعا کے پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ، جو نقصان ہوا، اس سے بہتر نعم البدل عطا فرمائے گا۔

آپ فرماتی ہیں، حضرت ابوسلمہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد میں اس دعا کو پڑھتی اور اپنے دل میں کہتی، ابوسلمہ سے بہتر مسلمانوں میں کون ہو سکتا ہے۔ لیکن حضور ﷺ کے ارشاد کی تعمیل میں یہ دعا پڑھتی رہی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ابوسلمہ رضی اللہ عنہ سے بہتر شوہر یعنی نبی کریم ﷺ عطا فرمائے۔

آقا و ولی ﷺ سے محبت کا یہ عالم تھا کہ آپ نے حضور ﷺ کے چند مومنین مبارک چاندی کی ڈبیاں محفوظ کیے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو وہ ایک پیالہ پانی لے کر آتے، آپ اس پانی میں حضور ﷺ کے مومنین مبارک ڈبوتیوں۔ ان کی برکت سے مریض کو شفا ہو جاتی۔ (بخاری)

آپ صاحبِ فتاویٰ صحابیات میں سے ہیں۔ علم و فضل کے اعتبار سے امہات المؤمنین میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ کا درجہ ہے۔ آپ سے تین سو اٹھتر (۳۷۸) احادیث مروی ہیں۔ کثیر صحابیات اور تابعین نے آپ سے استفادہ کیا۔

آپ نے چوراسی سال عمر پائی اور سب امہات المؤمنین کے آخر میں امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد ۶۲ھ میں وصال فرمایا۔

7- اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا:

آپ نبی کریم ﷺ کی پھوپھی زاد ہیں۔ آپ کا نام پہلے بڑھ تھا، حضور ﷺ نے تبدیل فرما کر زینب رکھا۔ آپ پہلے اسلام لانے اور ہجرت کرنے والی خواتین میں سے ہیں۔

پہلے آپ حضور ﷺ کے آزاد کردہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ انہوں نے طلاق دیدی تو عدت کے بعد حضور ﷺ نے انہی کے ذریعہ آپ کو پیغام بھیجا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں زینب کے پاس گیا تو وہ میری آنکھوں میں ایسی بزرگ معلوم ہوئیں کہ میں انکی طرف نظر نہ اٹھا سکا۔ آپ نے کہا، میں اس وقت تک کوئی جواب نہیں دوں گی جب تک اپنے رب سے مشورہ نہ کر لوں۔

پھر آپ مصلے پر گئیں اور دو رکعت پڑھ کر سجدے میں دعا کی، اَللّٰهُمَّ! تیرے نبی نے مجھے پیغام بھیجا ہے اگر میں انکے لائق ہوں تو مجھے ان کی زوجیت میں دیدے۔ اسی وقت آپ کی دعا قبول ہوئی اور یہ آیت نازل ہوئی،

”پھر جب زید کی غرض اس سے نکل گئی تو ہم نے وہ تمہارے نکاح میں دیدی کہ مسلمانوں پر کچھ حرج نہ رہے ان کے لے پالکوں (منہ بولے بیٹوں) کی بیبیوں میں، جب ان سے ان کا کام ختم ہو جائے۔“ (الاحزاب: ۳۷، کنز الایمان)

اس وحی کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا، کون ہے جو زینب کے پاس جائے اور یہ بشارت دے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے میری زوجیت میں دے دیا ہے۔ حضور ﷺ کی خادمہ سلمیٰ رضی اللہ عنہا دوڑیں اور یہ خوشخبری سنائی۔ اس پر آپ نے اپنے زیورات اتار کر اس خادمہ کو دیدیے اور سجدہ شکر ادا کیا اور نذرمانی کہ دو ماہ کے روزے رکھوں گی۔

آپ دیگر ازواج کے سامنے اس بات پر فخر کیا کرتیں کہ تمہارا نکاح حضور ﷺ سے تمہارے والدین نے کیا ہے اور میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس کے کواہ جریں ہیں۔ آپ ہی کی وجہ سے جناب کا حکم نازل ہوا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا تم میں سے مجھ سے پہلے وہ ملے گی جس کے ہاتھ لمبے ہیں۔ اس پر ہم اپنے ہاتھ ناپے لگیں۔ (جسمانی طور پر سیدہ سودہ رضی اللہ عنہا کے ہاتھ زیادہ لمبے تھے لیکن جب سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا وصال پہلے ہوا تو معلوم ہوا کہ لمبے ہاتھوں سے مراد زیادہ صدقہ دینا ہے لہذا) سب سے لمبے ہاتھ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کے تھے کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں سے کام کاج کیا کرتیں اور صدقہ و خیرات زیادہ کرتیں۔ (مسلم)

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے زیادہ کسی عورت کو بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والی، زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی، صلہ رحمی کرنے والی اور اپنے نفس کو عبادت میں مشغول رکھنے والی نہ دیکھا۔ آپ سے گیارہ احادیث مروی ہیں۔ آپ کا وصال ۵۳ برس کی عمر میں ۲۰ھ میں ہوا۔

## 8۔ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ جَوِيْرِيَّةِ بِنْتُ حَارِثَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

آپ کا اصل نام بھی برہ تھا جو حضور ﷺ نے تبدیل فرما کر جویریہ رکھا۔ آپ کا پہلا نکاح آپ کے عم زاد سے ہوا تھا۔ آپ کے شوہر اور والد دونوں اسلام کے سخت دشمن تھے۔ آپ کے والد قبیلہ بنو مصطلق کے سردار تھے۔ انہوں نے مدینہ پر حملہ کی تیاری شروع کی تو حضور کو خبر ہو گئی۔ اسلامی فوج مدینہ سے روانہ ہوئی اور شعبان ۵ھ میں مدینہ میں منقرض ہوئی کے بعد فتح ہوئی۔

فتح کے بعد حضور ﷺ ایک جگہ تشریف فرما تھے کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہا آئیں اور عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں مسلمان ہو کر حاضر ہوئی ہوں۔ میں اس قبیلہ کے سردار حارث کی بیٹی ہوں، اب قیدی کے طور پر ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کے حصہ میں آ گئی ہوں۔ وہ اس پر راضی ہیں کہ اتنے مال کے عوض مجھے چھوڑ دیں گے لیکن میں اس قدر مال ادا نہیں کر سکتی لہذا آپ میری مدد فرمائیں۔ آپ نے فرمایا، میں وہ رقم ادا کروں گا اور تمہارے ساتھ اس سے بھی بہتر سلوک کروں گا۔ عرض کی، اس سے بہتر کیا ہوگا؟ فرمایا، تمہیں اپنی زوجیت کا شرف بخشوں گا۔ اس پر آپ خوش ہو گئیں۔

سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور ﷺ جب بنو مصطلق جہاد کے لیے تشریف لائے اس سے چند روز قبل میں نے خواب دیکھا کہ مدینہ سے چاند چلنا آرہا ہے یہاں تک کہ وہ میری آغوش میں اتر آیا۔ میں نے یہ خواب کسی سے بیان نہ کیا۔ البتہ میں نے اپنے خواب کی خود ہی تعبیر لی تھی جو پوری ہو گئی۔

سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا کے حرم نبوی میں داخل ہوتے ہی صحابہ کرام نے باہم کہا، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ آقا و مولیٰ ﷺ کی زوجہ مطہرہ کے رشتہ داروں کو قید میں رکھیں۔ چنانچہ ان کے قبیلے کے سو سے زائد قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔

سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ازواج مطہرات میں سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ اپنی قوم کے لیے خیر و برکت والی کوئی اور نہیں دیکھی۔

آپ ہی کا ایک اور ارشاد ہے کہ سیدہ جویریہ رضی اللہ عنہا بڑی شیریں اور نہایت حسین و جمیل تھیں، جو کوئی ان کو دیکھتا وہ ان کو اپنے دل میں جگہ دینے پر مجبور ہو جاتا۔

آپ بڑی عبادت گزار اور ذاکرہ تھیں۔ آقا و مولیٰ ﷺ جب گھر تشریف لاتے تو آپ کو اکثر عبادت میں مشغول پاتے۔ آپ سے سات احادیث مروی ہیں۔

آپ کا وصال ۶۵ سال کی عمر میں ۵۰ھ میں ہوا۔

## 9۔ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ اُمِّ حَبِيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا:

آپ حضرت ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی سگی بہن اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پھوپھی زاد بہن ہیں۔ آپ ابتدا ہی میں اسلام لائیں

اور حبشہ کی جانب ہجرت ثانیہ کی۔ آپ کا پہلا شوہر عبید اللہ بن جحش مرتد ہو کر نصرانی ہو گیا اور حبشہ میں فوت ہوا۔ اور آپ اسلام پر مضبوطی سے قائم رہیں۔ آپ فرماتی ہیں، ”میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مجھے ”یا اُم المؤمنین“ کہہ رہا ہے۔ میں نے اس سے یہ تعبیر لی کہ رسول کریم ﷺ مجھ سے نکاح فرمائیں گے۔“ چنانچہ حضور ﷺ نے عمرو بن امیہ ضمریؓ کو نجاشی کے پاس بھیجا کہ وہ حضرت اُم حبیبہ رضی اللہ عنہا کو آپ کے لیے نکاح کا پیغام دیں اور نکاح کر دیں۔ یہ پیغام ملنے پر آپ بہت خوش ہوئیں اور آپ نے خالد بن سعید بن العاصؓ کو اپنا وکیل بنایا۔ نجاشی نے آپ کے نکاح کا خطبہ پڑھا اور سب شرکاء کو کھانا کھلایا۔

حضرت ابوسفیانؓ قبول اسلام سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ منورہ آئے تو آپ سے ملنے آئے۔ جب انہوں نے نبی کریم ﷺ کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو آپ نے وہ بستر لپیٹ دیا اور اپنے والد سے کہا، یہ بستر ظاہر و مطہر ہے اور تم نجاستِ شرک سے آلودہ ہو اس لیے اس پر نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ آپ کی آقا و مولیٰ ﷺ سے محبت کی دلیل ہے۔

آپ نے اپنے وصال سے قبل سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے اُن امور میں معاف کر دو جو ایک شوہر کی بیویوں کے درمیان ہو جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا، رب تعالیٰ تمہیں معاف کرے، ہم نے بھی معاف کیا۔ آپ نے کہا، اللہ تعالیٰ تمہیں خوش رکھے، تم نے مجھے خوش کر دیا۔

آپ پاکیزہ ذات، حمیدہ صفات، جوادوخی اور عالی ہمت خاتون تھیں۔ اسلام کی خاطر طویل سفر کی صعوبت اور تنگی و غربت کو ذندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ آپ آقا و مولیٰ ﷺ کے ارشادات پر پابندی سے عمل پیرا ہوتیں۔ آپ سے بیسٹھ (۶۵) احادیث مروی ہیں۔ ۳۳ھ میں مدینہ منورہ میں آپ کا وصال ہوا۔

## 10- اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سیدہ صفیہ بنت حنی رضی اللہ عنہا:

آپ بنی اسرائیل سے قبیلہ بنو نضیر سے ہیں۔ ان کا شوہر کمانہ غزوہ خیبر میں قتل ہوا اور یہ اسیران جنگ کے ساتھ قبضے میں آئیں۔ حضور ﷺ نے ان سے فرمایا، اے صفیہ! تمہارے باپ نے میرے ساتھ ہمیشہ دشمنی وعداوت رکھی یہاں تک کہ وہ قتل ہو گیا۔ انہوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ کسی بندے کے گناہ کے بدلے کسی دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ حضور ﷺ نے انہیں اختیار دیا کہ چاہیں تو آزاد ہو کر اپنی قوم سے مل جائیں یا اسلام لاکر حضور ﷺ کے نکاح میں آجائیں۔ انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں اسلام کی آرزو رکھتی تھی اور میں نے آپ کی رسالت کی تصدیق آپ کے دعوت دینے سے پہلے کی ہے۔ اب جبکہ میں نے آپ کے دربار گھر بار میں حاضر ہونے کا شرف پایا ہے تو مجھے کفر و اسلام کے درمیان اختیار دیا جا رہا ہے۔ خدا کی قسم! مجھے اپنی آزادی اور اپنی قوم کے ساتھ ملنے سے اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ محبوب ہے۔

ممکن ہے کہ اس طرح حضور ﷺ کو ان کے حال کا امتحان لینا اور ان کی صداقت جانچنا مقصود ہو۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے انہیں آزاد کر کے ان سے نکاح فرمایا۔ دوسرے دن حضور ﷺ نے صحابہ سے فرمایا، جس کے پاس جو چیز ہو وہ لے آئے۔ لوگوں نے کھجور، پیاز اور گھی لاکر دسترخوان پر رکھ دیے۔ پھر ان چیزوں سے ملیدہ (ہیس) تیار کیا گیا۔ حضور ﷺ کی برکت سے سب لوگ شکم سیر ہو گئے۔ آپ کا ولیمہ حضور اکرم ﷺ کے نزدیک بڑی عزت و شان والا تھا۔ اس نکاح سے قبل سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے بھی خواب دیکھا تھا کہ ان کی کوئی چاند آ رہا ہے۔ حضور ﷺ اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ دونوں کے نکاح اور سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا کے حسن و جمال کی شہرت سن کر ازواج مطہرات اور مدینے کی خواتین انہیں دیکھنے آئیں۔ جب دیکھ کر جانے لگیں تو نبی کریم ﷺ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے پیچھے آئے اور پوچھا تم نے صفیہ کو کیسا پایا؟ جواب دیا، یہودیہ ہے۔ آپ نے فرمایا، یوں نہ کہو، وہ اسلام قبول کر چکی ہیں اور ان کا قبول اسلام اچھا اور بہتر ہے۔

ایک دن حضور ﷺ آپ کے پاس تشریف لائے تو آپ کو روتے ہوئے پایا۔ رونے کا سبب پوچھا تو عرض کی، عائشہ اور حفصہ کہتی ہیں کہ ہم صفیہ سے بہتر ہیں کیونکہ ہمیں رسول کریم ﷺ کے نسب کی شرافت حاصل ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تم نے کیوں نہ کہا کہ تم کیسے بہتر ہو جبکہ میرے باپ ہارون علیہ السلام اور چچا موسیٰ علیہ السلام ہیں۔

حضور ﷺ کے زمانہ علالت میں سب امہات المؤمنین جمع تھیں۔ سیدہ صفیہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، خدا کی قسم! میں محبوب رکھتی ہوں کہ آپ کا یہ مرض مجھے ہو جائے۔ اس پر ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے اس بات کو بناوٹ جان کر انکی طرف دیکھا تو حضور ﷺ نے فرمایا، خدا کی قسم! صفیہ سچی ہے یعنی ان کا اظہار عقیدت بناوٹی اور نمائشی نہیں بلکہ وہ سچے دل سے یہی چاہتی ہے۔

آپ سے دس احادیث مروی ہیں۔ ساٹھ سال کی عمر میں سن ۵۰ھ میں آپ کا وصال ہوا۔ جنت البقیع میں دفن ہوئیں۔

## 11- اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا:

حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ رضی اللہ عنہا کا بھی پہلا نام بڑھ تھا، حضور ﷺ نے تبدیل فرما کر میمونہ رکھا۔ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی والدہ ایسے بے شغل داماد رکھتی ہیں جو کسی اور عورت کو میسر نہیں۔ ایک داماد تو رسول کریم ﷺ ہیں دوسرے داماد حضرت عباس رضی اللہ عنہ ہیں جو کہ آپ کی بہن اُمُّ الْفَضْلِ رضی اللہ عنہا کے شوہر ہیں۔ آپ کی دوسری بہن لبابہ بنت حارث رضی اللہ عنہا، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی والدہ ہیں۔

ام میمونہ کے پہلے شوہر سے دو بیٹیاں تھیں ایک اسماء بنت عمیس رضی اللہ عنہا جو پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نکاح میں آئیں پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔ دوسری بیٹی زینب (یا سلمیٰ) بنت عمیس رضی اللہ عنہا ہیں جو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں تھیں۔ ان کی شہادت کے بعد شداد بن الہاد رضی اللہ عنہ کی زوجیت میں آئیں۔

سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ۷ھ میں بیوہ ہوئیں تو انکے بہنوئی حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! آپ میمونہ سے نکاح فرمائیں۔ چنانچہ حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ سے دو میل کے فاصلے پر مقام سرف میں آپ سے نکاح فرمایا۔ آپ حضور ﷺ کی آخری زوجہ مبارکہ ہیں، آپ کے بعد حضور ﷺ نے کسی سے نکاح نہ فرمایا۔

جب حضور ﷺ کا نکاح کا پیغام سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا کو پہنچا تو وہ اپنے اونٹ پر سوار تھیں۔ پیغام سن کر آپ نے کہا، ”یہ اونٹ اور جو کچھ اس اونٹ پر ہے سب اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔“ مراد یہ ہے کہ آپ نے خود کو حضور ﷺ کے لیے بہہ کر دیا تھا اور یہ بات حضور ﷺ کے خصائص میں سے ہے۔

اُمّ المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہا ہم میں سب سے زیادہ خدا سے ڈرنے والی اور رشتہ داروں کا خیال رکھنے والی تھیں۔ کثرت سے نمازیں پڑھتیں اور لوگوں کو حکمت کے ساتھ دینی مسائل سکھاتیں۔ آپ سے چھ ہتر (۷۶) احادیث مروی ہیں۔

جہاں آپ کا نکاح ہوا تھا وہیں ۵۱ھ میں آپ کا وصال ہوا اور آپ کو وہیں دفن کیا گیا۔ جب جنازہ اٹھانے لگے تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ نبی کریم ﷺ کی زوجہ مبارکہ ہیں، جنازہ جھٹکے کے ساتھ نہ اٹھاؤ اور ہلا ہلا کر نہ چلو بلکہ ادب سے آہستہ آہستہ چلو۔ (ماخوذ از

مواہب الدنیہ، مدارج النبوت)

تعداد زواج کی حقیقت:

نبی کریم ﷺ نے ایسے معاشرے میں پرورش پائی جہاں خواہشات نفسانی کی آزادانہ تسکین کوئی عیب نہ سمجھی جاتی تھی۔ اس کے باوجود آپ پچیس سال کی عمر مبارک تک کسی عورت کی طرف مائل نہ ہوئے۔ آپ اپنے پاکیزہ کردار اور اعلیٰ اخلاق کی بناء پر صادق و امین کے القاب سے پکارے جاتے تھے۔

آپ کو پچیس سال کی عمر میں آپ سے پندرہ سال بڑی عمر کی خاتون نے شادی کا پیغام دیا جو صاحب اولاد بیوہ تھیں اور جن کے دو شوہر فوت ہو چکے تھے۔ آپ نے عمر کے اس واضح فرق کے باوجود ان دو بار بیوہ ہونے والی خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ پچاس سال کی عمر مبارک ہونے تک وہ تنہا آپ کی زوجہ رہیں۔ یعنی آپ نے عین شباب کا عرصہ پچیس سال اس معمر بیوہ خاتون کے ساتھ گزارے اور وہ بھی اس طرح کہ ایک ایک ماہ گھر چھوڑ کر غار میں عبادت میں مشغول رہتے تھے۔

جس مقدس ہستی نے اپنی جوانی کے پچیس سال ایک معمر بیوہ خاتون کے ساتھ اس طرح گزارے ہوں کہ کسی دشمن کو بھی انکے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع نہ ملا ہو، اور اپنی اس زوجہ سے ایسی محبت کی ہو کہ اس کے وصال کے بعد بھی اسے فراموش نہ کیا ہو، کیا اس مقدس ہستی کے متعلق کوئی یہ گمان کر سکتا ہے کہ ان کی کسی شادی کی وجہ خواہش نفس ہو سکتی ہے؟ کوئی منصف مزاج ایسا سوچ بھی نہیں سکتا۔

اُمّ المؤمنین سیدہ خدیجہ کے انتقال کے کچھ عرصہ بعد سیدہ سوہہ جو کہ ایک بیوہ خاتون تھیں، آپ نے ان سے نکاح کر کے انہیں تحفظ اور سہارا دیا۔ سن ۲ھ میں سیدہ عائشہ کی رخصتی عمل میں آئی جبکہ اس وقت آپ کی عمر پچھن (۵۳) سال ہو چکی تھی۔ اس عمر میں پہلی بار آپ کی دو ازواج جمع ہوئیں۔ اس کے ایک سال بعد سیدہ حفصہ پھر کچھ ماہ بعد سیدہ زینب بنت خزیمہ آپ کی زوجیت میں آئیں۔ سیدہ زینب بنت خزیمہ یا آٹھ ماہ آپ کی زوجیت میں رہ کر فوت ہو گئیں۔ رضی اللہ عنہا

۳ھ میں سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا اور ۵ھ میں سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا آپ کی زوجیت میں آئیں جبکہ آپ کی عمر مبارک ستاون (۵۷) سال ہو چکی تھی۔

سیدہ اُم سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد اتنی بڑی عمر میں آ کر آپ کی چار بیویاں جمع ہوئیں۔ جبکہ آپ اس سے قبل بھی چار نکاح کر سکتے تھے جس وقت امت کو چار ازواج کی اجازت ملی تھی لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا حالانکہ آپ کے خصائص میں سے ہے کہ آپ جتنے چاہیں، نکاح فرمائیں۔



۶ھ میں سیدہ جویریہ اور ۷ھ میں سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ اور سیدہ میمونہ رضی اللہ عنہن آپ کی زوجیت میں آئیں۔ انکے حالات پہلے تحریر ہو چکے ہیں۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ آپ کی ازواج مطہرات میں سوائے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے سب بیوہ تھیں۔ نیز آپ کے اکثر نکاح بچپن (۵۵) سال سے اُنسٹھ (۵۹) سال کی عمر میں ہوئے ہیں اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ کے نبی جو کرتے ہیں وہ حق تعالیٰ ہی کی مرضی سے کرتے ہیں۔ یہ پانچ سالہ عرصہ آپ کے پیغمبرانہ مشن کا اہم ترین دور تھا۔ ایک طرف آپ غزوات میں اسلامی فوج کی قیادت فرما رہے تھے تو دوسری طرف اسلامی قوانین کی تشکیل و تعلیم اور مسلمانوں کی تربیت میں مصروف عمل تھے۔

اسی تعلیم و تبلیغ کی دینی ضرورت کے پیش نظر آتا مولیٰ ﷺ کے لیے تعدد ازواج ایک ضروری امر تھا۔ چونکہ انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس میں رسول کریم ﷺ کی راہنمائی کی ضرورت نہ ہو خصوصاً بیویوں سے تعلقات اور ان میں حد، اپنی اولاد اور سوتیلی اولاد کی تربیت و پرورش، جنابت و طہارت کے مسائل وغیرہ، اس طرح کے بیشمار معاملات میں امت کو ازواج مطہرات ہی کے ذریعے راہنمائی ملی ہے۔

ازواج مطہرات کی بعض دینی خدمات کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔ دینی تعلیم و تدریس میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کا مقام رسول کریم ﷺ نے خود بیان فرمایا ہے۔ ارشاد ہوا، ”تم اپنے دو تہائی دین کو عائشہ صدیقہ سے حاصل کرو“۔

حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، میں کسی کو معافی قرآن، احکام حلال و حرام، اشعار عرب اور علم الانساب میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے زیادہ عالم نہیں دیکھا۔ آپ نے وصال نبوی کے بعد اڑتالیس (۳۸) سال تک دین پھیلایا۔

تعدد ازواج سے قبائلی عصبیت کا خاتمہ ہوا، معاشرتی استحکام میں مدد ملی، غیر اسلامی رسوم کی بیخ کنی ہوئی اور سیاسی فوائد حاصل ہوئے، ان نکات کی تفصیل کو ہم نے طوالت کے خوف سے چھوڑ دیا ہے۔

خلافت راشدہ قرآن کی روشنی میں:

1 - وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ مَّ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ○ (النور: ۵۵)

” اللہ نے وعدہ دیا اُن کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضرور انکے لیے جمادے گا اُن کا وہ دین جو انکے لیے پسند فرمایا ہے اور ضرور انکے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا، میری عبادت کریں، میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں اور جو اسکے بعد ناشکری کرتے وہی لوگ بے حکم ہیں۔“ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکہ میں پانچ باتیں بیان ہوئی ہیں:-

(۱)..... اس آیت کے نزول کے وقت موجود مسلمانوں میں سے کچھ لوگ غلیفہ بنائے جائیں گے۔

(۲)..... یہ لوگ متقی اور عبادت گزار ہونگے۔

(۳)..... رب تعالیٰ پسندیدہ دین مستحکم بنا دے گا۔

(۴)..... ان کے خوف کو امن سے بدل دے گا۔

(۵)..... ان متقی بندوں کا غلیفہ ہونا عظیم نعمت ہے اور اس نعمت کی ناشکری کرنے والے فاسق ہیں۔

مفسرین صحابہ کرام میں سے سب سے پہلے جس نے اس آیت کو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ پر منطبق کیا اور اس وعدہ کا دور فاروقی میں پورا ہونا سمجھا، وہ باب

مدینہ العظمیٰ سیدنا علیؑ کرم اللہ وجہہ ہیں۔ جب اسلامی لشکر ایران میں کسرئی کی افواج سے برسر پیکار تھا اور اس دوران کسرئی کے خود اپنی افواج کی قیادت کرنے کی خبر ملی تو سیدنا عمرؓ نے صحابہ کرام سے لشکر اسلام کی قیادت کے لیے بنفس نفیس جانے کے متعلق مشورہ کیا۔ حضرت علیؑ نے یہی آیت پیش کر کے حضرت عمرؓ کو فتح کا یقین دلایا اور محاذ پر نہ جانے کا مشورہ دیا۔ سیدنا علیؑ کا ارشاد شیعہ حضرات کی مشہور کتاب نہج البلاغہ کے حوالے سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے فرمایا،

”اس دین کو فتح کثرت لشکر سے نہیں ملی اور نہ قلیل تعداد اس کی ناکامی کی وجہ بنی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے جس کو اسی نے غالب کیا اور یہ اسی کا لشکر ہے جس کو اس نے خود تیار کیا ہے اور اس کی مدد فرمائی ہے یہاں تک کہ دین اس قدر پھیل گیا۔ ہم لوگوں سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے (یہاں اسی آیت کی طرف اشارہ ہے) اور اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ ضرور پورا فرمائے گا اور اپنے لشکر کو ضرور فتح دے گا۔“

(نہج البلاغہ ج: ۱، ۲۸۳، مطبوعہ مصر)

سیدنا علیؑ کے اس ارشاد گرامی سے واضح ہو گیا کہ وہ سیدنا عمرؓ کے لشکر کو اللہ تعالیٰ کا لشکر اور ان کی خلافت کو برحق سمجھتے تھے اسی لیے انہوں نے فرمایا کہ آیت مذکورہ میں کیا گیا وعدہ الہی خلافت فاروقی میں پورا ہوگا تمام مفسرین نے اس آیت مبارکہ سے خلفائے راشدین ہی کی خلافت ہفتہ مراد لی ہے۔ پس ثابت ہوا کہ خلفائے راشدین مومن و صالح ہیں کیونکہ خلافت کا وعدہ مومن و صالح امتیوں سے تھا۔

حدیث پاک سے یہ بھی ثابت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے خلافت صدیقی و فاروقی کی فتوحات کو اپنی فتوحات قرار دیکر ان پر خوشی کا اظہار فرمایا ہے۔ حضرت براء بن عازبؓ سے روایت ہے کہ غزوہ احزاب میں جب آقا و مولیٰ ﷺ نے خندق کھودنے کا حکم دیا تو راہ میں ایک سخت چٹان حاصل ہو گئی۔ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کی تو محبوب کبریا ﷺ نے کدال لیکر اس چٹان پر بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو اس کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر! مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا ہوئیں اور میں یہاں سے شام کے سرخ محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر بسم اللہ کہہ کر آپ نے دوسری بار کدال ماری تو دو تہائی چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اکبر! مجھے ایران کی کنجیاں عطا ہوئیں اور میں یہاں سے فارس کے سفید محل دیکھ رہا ہوں۔ پھر آپ نے بسم اللہ کہہ کر تیسری بار کدال ماری تو باقی چٹان بھی ٹوٹ گئی اور آپ نے فرمایا، اللہ اکبر! مجھے یمن کی کنجیاں عنایت ہوئیں۔ خدا کی قسم! میں یہاں سے صنعاء کے دروازے دیکھ رہا ہوں۔

(از لفظ الخصاص ج: ۱، ۳۶، نسائی، احمد)

یہ روایت شیعہ حضرات کے امام کلینی کی کتاب فروع کافی کتاب الروضہ ص ۱۰۲ مطبوعہ لکھنؤ میں بھی موجود ہے اور وہاں یہ الفاظ موجود ہیں، لقد فتح علی فی ضربتی ہذہ کنوز قیصر و کسری۔ ”میری اس ضرب سے قیصر و کسری کے خزانے میرے لیے فتح کر دیے گئے۔“ یہ فتوحات سیدنا ابو بکرؓ و عمرؓ رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں ہوئیں۔ اگر روافض کے بقول حضرات شیخین غاصب و ظالم ہیں (سبحان اللہ) تو ان کے دور خلافت کی فتوحات کو رسول کریم ﷺ نے اپنی فتوحات کیوں فرمایا؟ اور کیا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو زمین میں خلافت عطا فرمادی جبکہ اس نے مومن و متقی لوگوں کو زمین میں خلافت دینے کا وعدہ فرمایا ہے۔ پس اگر کوئی شخص خلفائے راشدین خصوصاً سیدنا ابو بکرؓ و عمرؓ رضی اللہ عنہما کی خلافت کو برحق نہیں مانتا اور ان کے بارے میں بد کوئی کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اور رسول کریم ﷺ کے ارشادات ہی کا منکر نہیں بلکہ سیدنا علیؑ کے اس ارشاد کا بھی منکر ہے جو اوپر مذکور ہوا۔

2- اَلدِّیْنِ اٰخِرُ حِوَا مِنْ دِیَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ یَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ وَلَوْ لَا دَفَعَ اللّٰهُ النَّاسَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ لَّهَدَمَتْ صَوَامِعُ وَبَعٍ وَ مَسْجِدٌ یُّذَكَّرُ فِیْهَا اسْمُ اللّٰهِ کَثِیْرًا وَ لَیَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ یَنْصُرُهٗ اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِیٌّ عَزِیْزٌ ۝ اَلدِّیْنِ اِنْ مَنَّکُمْ فِی الْاَرْضِ وَ اَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنۡوَا الزَّکٰوةَ وَ اَمَرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَ نَهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ وَ لِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْاُمُوْر ۝ (الحج: ۴۰، ۴۱)

”وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادی جاتیں خافق ہیں اور گرجا اور کلیسے اور مسجدیں، جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے، اور بے شک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اُس کی جو اسکے دین کی

مدد کرے گا بیشک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔ وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لیے سب کاموں کا انجام۔ (کنز الایمان)

ان آیات میں پیشگوئی کی گئی ہے کہ مہاجرین صحابہ کو زمین میں اقتدار دیا جائے گا اور یہ لوگ اپنے اقتدار میں اقامتِ دین کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ اس قرآنی پیش گوئی کا مصداق خلفائے راشدین رضی اللہ عنہم ہوئے۔

شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں، اِنَّمَا كُنْتُمْ فِي الْاَرْضِ حَتَّىٰ تَخْرُجُوا مِنْهَا فَيُخْرِجَكُم بِهَا الْكٰفِرِيْنَ اِلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُوْنَ (یعنی اقامتِ دین) کو دوسرے جزو (یعنی حکمیں) پر معلق کیا ہے کیونکہ خلافتِ شرعی اُس حکم میں فی الارض کا نام ہے جو اقامتِ دین کے ساتھ ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں کو اگر زمین میں حکمیں ملے گی تو ضرور وہ حکمیں، اقامتِ دین کے ساتھ ہوگی اور خلافتِ راشدہ کا یہی مطلب ہے۔ پس خلفائے راشدین جو کہ مہاجرین اولین میں سے تھے، جن کی نسبت يُخْرِجُونَ اور اُخْرِجُوا آیا ہے اور جن کے لیے اِذْنٌ جِهَادٍ قَطْعِيٌّ ثَبُوْتُ ہے، اُن کو زمین میں حکمیں ملنا بھی یقینی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ وہ حضرات خلفائے راشدین تھے کیونکہ خلافتِ راشدہ انہی دو اجزاء (یعنی حکمیں فی الارض اور اقامتِ دین) کا نام ہے۔ (ازالۃ الخفاء ج: ۱، ص: ۸۹)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ ہمارے بارے میں نازل ہوئی۔ ہمیں اس لیے ہجرت کرنی پڑی کہ ہم نے کہا، ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اقتدار بخشا تو ہم نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، نیکی کا حکم دیا اور برائی سے منع کیا۔ پس یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں (سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) کے بارے میں نازل ہوئی۔ (تفسیر ابن کثیر، تفسیر الدر المنثور)

علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے عطیہ عوفی رحمۃ اللہ علیہ کا قول کیا ہے کہ یہ آیت اس آیت کی طرح ہے، وَعَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ..... الخ۔

(تفسیر ابن کثیر)

3- يَآٰئِيهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يٰٓتِي اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَہٗ اٰذِلَّةٌ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٌ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةً لَّاۤ اِنَّمَا لِلَّذِيْنَ يُوْتِيْہٖ مِنْ يَّسَّاءٍ وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ (المائدہ: ۵۴)

”اے ایمان والو! تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسے لوگ لائے گا کہ وہ اللہ کے پیارے اور اللہ اُن کا پیارا (ہوگا)، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت (ہو گئے)، اللہ کی راہ میں لڑیں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اندیشہ نہ کریں گے، یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے دے، اور اللہ وسعت والے علم والا ہے۔“ (کنز الایمان)

اس آیت مبارکہ میں یہ پیش گوئی کی گئی ہے کہ بعض لوگ مرتد ہو جائیں گے اور پھر یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ رب تعالیٰ ان مرتدین کے مقابلے کے لیے ایسے لوگ لائے گا جن میں مندرجہ ذیل صفات ہوگی:-

- (۱) ..... وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہو گئے۔
- (۲) ..... اللہ تعالیٰ ان کو محبوب ہوگا۔
- (۳) ..... مسلمانوں پر نرم ہو گئے۔
- (۴) ..... کافروں کے لیے سخت ہو گئے۔
- (۵) ..... رضائے الہی کے لیے اسکی راہ میں لڑیں گے۔
- (۶) ..... کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خیال نہ کریں گے۔
- (۷) ..... ان پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہوگا۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اہم مختار ﷺ کے آخری زمانے میں عرب کے تین گروہ مرتد ہو گئے تھے۔ ان میں بڑا فتنہ مسلیمہ کذاب کا تھا۔ علاوہ ازیں سرکارِ دو عالم ﷺ کے وصال کی خبر ملتے ہی کئی قبائل نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ سیدنا ابو بکر ﷺ نے ان منکرین زکوٰۃ سے قتال کا فیصلہ کر لیا۔ اس پر سیدنا عمرؓ اور بعض دیگر صحابہ نے قتال جیسے انتہائی اقدام سے منع کیا۔

سیدنا ابو بکر ﷺ نے فرمایا، اللہ کی قسم! میں ان سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ خدا کی قسم! اگر وہ زکوٰۃ میں ایک رسی یا بکری کا بچہ دینے سے بھی انکار کریں گے جو وہ رسول کریم ﷺ کو دیا کرتے تھے، تو میں ان سے قتال کروں گا۔ یہ سن کر سیدنا عمر و دیگر صحابہ کرام ﷺ بھی آپ سے متفق ہو گئے۔ یوں سیدنا ابو بکر ﷺ نے جرأتِ ایمانی اور حسن تدبیر سے فتنہ ارتد اوپر قابو پا لیا۔

اس پر اہلسنت اور اہل تشیع دونوں کا اتفاق ہے کہ مرتدین کے خلاف سب سے پہلے حضرت ابو بکر ﷺ اور ان کے ساتھیوں نے جہاد کیا۔ آپ نے مختلف سمتوں میں کئی لشکر روانہ کیے۔ سب سے بڑا معرکہ کذاب سے ہوا جس میں کذاب اور اسکے ساتھی قتل کیے گئے۔ اس لیے مفسرین کے نزدیک اس آیت کا مصداق سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ اور ان کے رفقاء ہیں۔ لامحالہ مذکورہ آیت میں جو سات صفات بیان ہوئیں، ان کا مصداق بھی آپ اور آپ کے تابعین ہی ہیں۔

ان صفات پر غور کرنے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہونا نیز جہاد کا اعلان و انتظام کرنا ایسی صفات ہیں جن سے متصف ہونے کے لیے برسرِ اقتدار ہونا ضروری ہے۔ لہذا اس آیت میں اشارہ ہے کہ مرتدوں سے جہاد کرنے والے لوگ برسرِ اقتدار ہونگے اور ان کا برسرِ اقتدار ہونا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہوگا۔ پس سیدنا ابو بکر صدیق ﷺ کا خلیفہ و امیر المؤمنین ہونا رب تعالیٰ کے نزدیک محبوب ہے۔

4- قُلْ لِّلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سُدْعُونَ إِلَىٰ قَوْمِ أُولَئِي نَأْسٍ شَدِيدٍ فَتَآتُوهُمْ فَمَنْ شِئْتُمْ فَلَانِ تَطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِن تَوَلَّوْا سَكَمًا تَوَلَّيْتُمْ مَن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ○ (الفتح: ۱۶)

”ان پیچھے رہ گئے ہوئے گنواروں سے فرماؤ! عنقریب تم ایک سخت لڑائی والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے کہ ان سے لڑو یا وہ مسلمان ہو جائیں۔ پھر اگر تم فرمان مانو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا ثواب دے گا اور اگر پھر جاؤ گے جیسے پہلے پھر گئے تو تمہیں دردناک عذاب دے گا۔“ (کنز الایمان)

اس آیت کے پہلے حصے میں دو باتیں نمایاں ہیں۔ اول: یہ کہ جن کفار سے لڑائی کے لیے بلایا جائے گا وہ ’اُولَئِي نَأْسٍ شَدِيدٍ‘، یعنی تمام سابقہ جنگوں کے فریقین سے زیادہ قوت و شوکت والے ہونگے۔ دوم: یہ بلانا ایسے جہاد کے لیے ہوگا جس کے نتیجے میں یا تو کفار قتل کر دیے جائیں گے یا وہ مسلمان ہو جائیں گے۔

غزوہ موت، غزوہ حنین، فتح مکہ، غزوہ تبوک وغیرہ کا تجزیہ کرنے پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ان میں سے کوئی بھی اس آیت میں مذکور جنگ کا مصداق نہیں ہو سکتی کیونکہ ان میں مذکورہ بالا دونوں شرائط نہیں پائی جاتیں۔

کفر و اسلام کا وہ عظیم خونریز معرکہ جو اس آیت کا مصداق ہو سکتا ہے وہ جنگِ یمامہ ہے جو خلافتِ صدیقی میں مسلیمہ کذاب سے لڑی گئی، جس میں ہزاروں صحابہ کرام شہید ہوئے، ہزاروں کفار قتل ہوئے اور باقیوں نے ہتھیار ڈال دیے۔

بعض مفسرین کے نزدیک اس جنگ جو قوم سے مراد اہل فارس و روم ہیں جن سے خلافتِ فاروقی و خلافتِ عثمانی میں جنگ ہوئی اور مسلمانوں نے فتح پائی۔ یہ ماننے میں بھی مضائقہ نہیں کیونکہ سیدنا عمر و سیدنا عثمان رضی اللہ عنہما کی خلافت کا حق ہونا سیدنا ابو بکر ﷺ ہی کی خلافت کے حق ہونے کی فرغ ہے۔

صدرُ الافاضل رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ”یہ آیت شیخین جلیلین حضرت ابو بکر صدیق و حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما کی صحتِ خلافت کی دلیل ہے کہ ان کی اطاعت پر جنت کا اور ان کی مخالفت پر جہنم کا وعدہ دیا گیا۔“ (خزائن العرفان)

آیت مذکورہ کے آخری حصے پر غور کیجئے۔ اس میں بھی دو باتیں واضح ہیں۔

اول: - بدوؤں کو جہاد کی دعوت دینے والے خلفاء کی اطاعت کا حکم دیا اور اس پر اجر و ثواب کا وعدہ کیا۔

دوم: - ان خلفاء کی نافرمانی پر درناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جن خلفاء کی اطاعت کو واجب قرار دیا اور ان کی نافرمانی پر عذاب کی وعید سنائی، ان کی خلافت حق ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کا اولین مصداق خلیفہ بلا فصل سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں جیسا کہ حضرت نافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، ”اللہ کی قسم! پہلے ہم یہ آیت پڑھتے تھے مگر ہمیں یہ علم نہ تھا کہ وہ جنگجو قوم کون سی ہے جس سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا لیکن جب سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہمیں بنو خنیفہ کے ساتھ جنگ کے لیے بلایا تو ہم نے جان لیا کہ یہی وہ قوم ہے جس کا اس آیت میں ذکر ہے۔“

اکثر اہل تفسیر کا یہی قول ہے۔ (تفسیر مظہری)

5- لِّلْمُفْضَرِّاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ

” (مال غنیمت) اُن فقیر ہجرت کرنے والوں کے لیے جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اس کی رضا چاہتے اور اللہ ورسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔“ (الحشر: ۸، کنز الایمان)

اس آیت کریمہ میں رب کریم نے مہاجرین صحابہ کرام کے صادقین اور سچے ہونے کی خبر دی ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مہاجرین صحابہ کرام ہی نے خلیفہ بنایا تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو انصار نے کہا، ایک خلیفہ ہم میں سے ہو اور ایک مہاجرین میں سے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے گروہ انصار! کیا تم نہیں جانتے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ لوگوں کے امام بنیں (اور انہیں نماز پڑھائیں) پس تم میں سے کون اس بات کو کوارا کرے گا کہ وہ ابو بکر کا امام بنے۔ انصار نے کہا، ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں اس بات سے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیشوا بنیں۔ (پھر سب نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی) (مصنف ابن ابی شیبہ ہنسائی، مستدرک، از لایۃ الخلفاء ج: ۱، ص: ۲۸۵)

اب دو باتیں ثابت ہوئیں۔

اول: مہاجرین صحابہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بنایا اور اس آیت کی رو سے مہاجرین صحابہ چھوٹے نہیں ہو سکتے۔ لہذا مہاجرین صحابہ کرام کا سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ برحق کہنا حق ہے۔ پس حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل بھی حق ہے۔

دوم: مذکورہ آیت میں تمام مہاجرین صحابہ کرام کو صادق و سچا فرمایا گیا ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی مہاجر صحابی ہیں۔ اگر بقول روافض کے وہ خلیفہ برحق نہ ہوں بلکہ غاصب، جابر اور کاذب ہوں تو یہ قرآن کے خلاف ہوگا کیونکہ اس آیت کی رو سے تمام مہاجرین صحابہ بشمول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ صادق ہیں۔ آپ کے صادق ہونے کے لیے لازم ہے کہ آپ کی خلافت برحق ہو۔

مزید یہ کہ آپ نے بوقت وصال، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ نامزد کیا جس کی مہاجرین و انصار سب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے تائید کی۔ پس اس آیت کی رو سے سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت کا برحق ہونا ثابت ہو گیا۔

خطیب رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہونا قرآن کریم سے ثابت ہے۔ پھر یہی آیت تلاوت کر کے فرمایا، اللہ تعالیٰ جن کو صادق فرمائے وہ کبھی کاذب نہیں ہو سکتے۔ اور صحابہ کرام نے جنہیں قرآن نے صادقوں فرمایا ہے، ہمیشہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ رسول کہہ کر مخاطب فرمایا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں، یہ استدلال بہت قوی اور احسن ہے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۲۹)

6- مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكُوعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِمْ مِنْ أَثَرِ السُّجُودِ ذَٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي الْإِنْجِيلِ كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطَنَهُ فَآرَزَهُ فَاسْتَعْلَطَ فَاسْتَوَىٰ عَلٰی

شَوْقِهِ يَعْجَبُ الزُّرَّاعَ لِيَعْظُبَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَّ اللَّهُ الْآلِدِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ○ (فتح: ۲۹)

”محمد ﷺ اللہ کے رسول ہیں اور انکے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں اور آپس میں نرم دل، تو انہیں دیکھے گا رکوع کرتے، بحرے میں گرتے، اللہ کا فضل و رضا چاہتے۔ ان کی علامت انکے چہروں میں ہے بحرہوں کے نشان سے، یہ انکی صفت توریت میں ہے اور انکی صفت انجیل میں، جیسے ایک کھیتی، اس نے اپنا پٹھا نکالا پھر اسے طاقت دی پھر دبیز ہوئی پھر اپنی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی، کسانوں کو بھلی لگتی ہے (یعنی ابتدا میں اسلام کے ماننے والے کم تھے رب کریم نے صحابہ کے ذریعے اسے طاقت دی اور اللہ و رسول ﷺ کو صحابہ کرام پیارے بھلے لگتے ہیں) تاکہ ان سے کافروں کے دل چلیں، اللہ نے وعدہ کیا ان سے جو ان میں ایمان اور ایچھے کاموں والے ہیں، بخشش اور بڑے ثواب کا۔“ (کنز الایمان)

اس آیت میں دین اسلام کی مثال ایک کھیتی سے دی گئی ہے اور کوئیل پھوٹنے سے لیکر درخت کے تنے پر کھڑا ہو جانے تک چار مراحل کا ذکر کیا گیا ہے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ ان چار مراحل کے متعلق رقمطراز ہیں،

نبی کریم ﷺ نے مکہ میں جب مشرکوں کو اسلام کی دعوت دی تو کويا ”أَخْرَجَ شَطْنَهُ“ (کوئیل پھوٹنے) کا مرتبہ ظاہر ہو گیا۔ پھر حضور نے ہجرت فرمائی اور جہاد کیے یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا تو ”فَأُرْزِقَ“ (اسے طاقت دینے) کا درجہ حاصل ہوا۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کے وصال کے بعد حضراتِ شیخین رضی اللہ عنہما کے زمانے میں قیصر و کسریٰ سے جہاد کر کے ان کا نشان مٹا دیا اور دین طاقتور ہو کر پھیل گیا، اب ”فَأَسْتَعْلَظُ“ (مضبوط ہو جانے) کا درجہ حاصل ہوا۔

پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دیگر چھوٹی فتوحات کا سلسلہ جاری رہا پھر اسلام مفتوحہ علاقوں میں پھیل گیا اور محدثین و فقہاء نے دین کی اشاعت کی، اب ”فَأَسْتَوَىٰ عَالِي سَوْقِهِ“ (تنے پر کھڑے ہو جانے) کا درجہ بھی حاصل ہو گیا۔

اس آیت سے خلفائے راشدین کی عظمت اور تائید اسلام میں ان کا رُخ القدم ہونا بھی معلوم ہوا، اور یہ بھی کہ ان کے ذریعہ دشمنانِ خدا پر جہاد اور کلمہ طیبہ کی بلندی اس طرح واقع ہوگی کہ بارگاہِ انبی میں مقبول ہوگی اور عمدہ تعریف کی مستحق قرار پائے گی اسی لیے ”يَعْجَبُ الزُّرَّاعَ“ فرمایا گیا یعنی اسلام کی کھیتی کا کاشتکار، رب تعالیٰ صحابہ کرام سے خوب راضی ہے۔ (ازلہ الخفاء ج: ۱۲۴، ملخصاً)

7- وَإِذْ أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَرْوَاحِهِ حَيْدِينَ فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ مِ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ ○ (التحریم: ۳)

”اور جب نبی نے اپنی ایک بی بی سے ایک راز کی بات فرمائی، پھر جب وہ اس کا ذکر کر بیٹھی اور اللہ نے اسے نبی پر ظاہر کر دیا تو نبی نے اسے کچھ بتایا اور کچھ سے چشم پوشی فرمائی۔ پھر جب نبی نے اسے اس کی خبر دی تو بولی، حضور کو کس نے بتایا؟ فرمایا، مجھے علم والے خبر دار نے بتایا۔“ (کنز الایمان)

سید عالم ﷺ ائمہ المؤمنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے مکان میں رونق افروز ہوئے۔ وہ حضور ﷺ کی اجازت سے اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئیں۔ حضور ﷺ نے حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کو سرفراز خدمت کیا۔ یہ سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا پر گراں گزرا۔ حضور ﷺ نے ان کی دلجوئی کے لیے فرمایا، میں نے ماریہ کو اپنے لیے حرام کیا اور میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد امور امت کے مالک ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے۔ آپ نے یہ بات کسی کو بتانے سے منع فرمایا۔ وہ اس سے بچد خوش ہوئیں اور نہایت خوشی میں انہوں نے یہ گفتگو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو سنائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

آپ ﷺ نے تحریم ماریہ کے متعلق بتا دیا اور خلافتِ شیخین کے متعلق ذکر نہ فرمایا۔ یہ آپ کی شانِ کریمی تھی کہ دوسری بات پر گرفت نہ فرمائی۔ (خزائن العرفان)

امام طبرانی رحمہ اللہ نے معجم الکبیر جلد ۲ صفحہ ۷۱ پر اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ یہ روایت کتب شیعہ میں بھی ہے۔ چنانچہ تفسیر قمی اور تفسیر مجمع البیان دونوں میں سورۃ التحریم کی مذکورہ آیات کی تفسیر میں منقول ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ”بیشک میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور ان کے بعد تمہارے والد (یعنی عمر) خلیفہ ہوں گے۔“

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہا کرتے تھے، ”اللہ کی قسم! ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کی خلافت اللہ کی کتاب میں مذکور ہے۔“ اور پھر آپ مذکورہ آیت تلاوت کر کے یہی حدیث بیان فرماتے۔ (تفسیر بغوی، تفسیر مظہری، از لئمة الخفاء ج: ۱۱۹)

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، ”تیرے والد اور عائشہ کے والد میرے بعد لوگوں کے ولی یعنی امیر ہونگے مگر تم کسی کو نہ بتانا۔“ اس حدیث کی کئی سندیں ہیں۔ حضرت علی، سعید بن جبیر، میمون بن مہران، حبیب بن ثابت، ضحاک اور مجاہد رضی اللہ عنہم سے بھی یہی مروی ہے۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راز کی بات کہی تھی کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہونگے۔ (تفسیر مظہری)

خلفائے راشدین، احادیث کی روشنی میں:

صحابہ کرام نے سب لوگوں سے بہتر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھا اس لیے ان کی بیعت کر لی۔ اور صحابہ کرام کا اجماع کبھی بھی خطا و غلطی پر نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ”جو کام مسلمان اچھا جائیں وہ اللہ کے نزدیک بھی اچھا ہے۔“ چونکہ تمام صحابہ کرام نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کو احسن اور پسندیدہ سمجھا ہے اس لیے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی احسن ہے۔

اب چند احادیث ملاحظہ فرمائیں جن میں خلفائے راشدین کی اسی ترتیب کے ساتھ خلافت کے متعلق واضح اشارے موجود ہیں۔

1- حضرت ابن ابی ملیکہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا گیا، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ بناتے تو کسے بناتے؟ جواب دیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو۔ پھر ان سے پوچھا گیا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بعد کسے خلیفہ بناتے؟ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو۔ پھر سوال ہوا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد کسے خلیفہ بناتے؟ فرمایا، حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو۔ (مسلم باب فضائل ابی بکر)

2- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کو ایک دوسرے پر فضیلت دیتے تھے۔ سب سے افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو مانتے تھے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو۔ (بخاری باب فضائل اصحاب النبی)

مذکورہ ترتیب کے مطابق صحابہ کرام نے ہر بار افضل ترین، سستی کو خلیفہ منتخب کیا۔

3- حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کسی کام کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ نے اسے فرمایا، پھر آنا۔ اس نے عرض کی، اگر میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں تو؟ اسکا مطلب یہ تھا کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو کس کے پاس آؤں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو مجھے نہ پائے تو ابو بکر کے پاس آنا۔ (بخاری، مسلم)

آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں واضح طور پر اشارہ فرما دیا ہے کہ میرے بعد خلیفہ بلا فصل ابو بکر رضی اللہ عنہ ہونگے۔

4- حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الوصال میں مجھ سے فرمایا، اپنے والد ابو بکر کو اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہے گا کہ میں خلافت کا زیادہ حق دار ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی اور کو (خلیفہ) نہیں مانیں گے۔ (مسلم باب فضائل ابی بکر رضی اللہ عنہ)

اس حدیث میں غیب بتانے والے آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ خبر دی ہے کہ خلافت کے معاملے میں لوگوں کا اختلاف ہو گا مگر تمام مسلمان حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر متفق ہو جائیں گے کیونکہ یہی رب تعالیٰ کی مرضی ہے۔ حدیث قرطاس کے حوالے سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے جبکہ ہمارا یہ موقف یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت لکھوانا چاہتے تھے اور اس کی دلیل یہی حدیث ہے۔

5- آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو بکر کی کھڑکی کے علاوہ (مسجد کی طرف کھلنے والی) سب کھڑکیاں بند کر دی جائیں۔ (صحیح مسلم کتاب فضائل الصحابة)

6- دوسری روایت میں یہ ہے کہ آئندہ مسجد میں ابو بکر کے دروازے کے سوا کسی کا دروازہ کھلا نہ رکھا جائے۔ (صحیح بخاری کتاب السناقب)

حضور ﷺ نے اپنے وصال سے دو تین دن قبل یہ بات ارشاد فرمائی۔ اس بناء پر شارحین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی طرف اشارہ ہے اور دوسروں کی خلافت سے متعلق گفتگو کا دروازہ بند کر دیا گیا ہے۔ (اشعۃ المصباحات)

7- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میں سو رہا تھا کہ میں نے اپنے آپ کو ایک کنوئیں کے پاس دیکھا جس پر ڈول رکھا ہوا تھا میں نے اس ڈول سے پانی نکالا جتنا اللہ نے چاہا۔ پھر اس کنوئیں سے ابن ابی قحافہ (ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ) نے دو ڈول نکالے۔ اللہ ان کی مغفرت کرے، اُن کے ڈول نکالنے میں کچھ ضعف تھا۔ پھر وہ ڈول بڑا ہو گیا اور پھر عمر بن خطاب نے اس سے پانی نکالا۔ میں نے کسی ماہر شخص کو نہیں دیکھا جو عمر کی طرح پانی نکالتا ہو یہاں تک کہ لوگوں کو سیراب کر دیا۔ (بخاری کتاب المناقب، مسلم کتاب الفضائل)

اس حدیث میں اشارہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی مدت دو سال ہے یعنی کم ہے اس لیے زیادہ لوگ ان سے استفادہ نہیں کر سکیں گے۔ اسے ضعف سے تعبیر کیا گیا جبکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں لوگ زیادہ عرصہ فیضیاب ہوں گے۔

8- حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مولیٰ ﷺ نے فرمایا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا کہ میں تم میں کتنے دن اور رہوں گا پس تم ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا جو میرے بعد ہوں گے۔ (ترمذی ابواب المناقب، مشکوٰۃ)

اس حدیث پاک میں بھی یہ غیبی خبر دی گئی ہے کہ حضور ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔

9- ایک شخص نے نبی کریم ﷺ کی خدمت میں عرض کیا، میرے آقا! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک ترازو آسمان سے اتر رہا ہے جس میں آپ کا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا وزن کیا گیا تو آپ کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر ابو بکر اور عمر کا وزن کیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری رہا۔ پھر عمر اور عثمان کا وزن کیا گیا تو عمر رضی اللہ عنہ کا پلڑا بھاری رہا۔

پھر وہ ترازو اٹھایا گیا۔ حضور ﷺ اس خواب سے غمگین ہو گئے اور فرمایا، یہ خلافت نبوت ہے پھر اللہ تعالیٰ جسے چاہے گا، حکومت عطا فرمائے گا۔

(ترمذی ابواب المناقب، ابوداؤد کتاب السنۃ)

اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے بعد بالترتیب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔ ترازو اٹھا لینے کا مطلب موازنہ ترک کر دینا ہے یعنی اس کے بعد خلافت کا معاملہ کمزور ہو جائے گا۔

10- حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی حیات ظاہری میں صحابہ کہا کرتے تھے کہ حضور ﷺ کے بعد ابو بکر افضل ہیں پھر عمر پھر عثمان رضی اللہ عنہ۔

(ترمذی، ابوداؤد کتاب السنۃ)

11- حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، آج رات خواب میں ایک صالح شخص کو دکھایا گیا کہ گویا ابو بکر کو رسول اللہ ﷺ سے وابستہ کر دیا گیا اور عمر کو ابو بکر کے ساتھ اور عثمان کو عمر کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہے۔ جب ہم وہاں سے اٹھے تو ہم نے کہا، صالح و نیک شخص تو خود رسول کریم ﷺ ہیں اور ایک کو دوسرے سے وابستہ کرنے سے مراد اسی دین کی خلافت ہے جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مبعوث فرمایا ہے۔ (ابوداؤد ابواب فی الخلفاء)

اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ یہ حضرات دین و شریعت کے احکام جاری کرنے میں اسی ترتیب کے ساتھ خلیفہ ہوں گے۔

12- حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت علی رضی اللہ عنہ) سے سوال کیا، نبی کریم ﷺ کے بعد لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ میں نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ مجھے اندیشہ ہوا کہ اب پوچھوں گا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام لیں گے۔ اس لئے میں نے عرض کی، ابا جان پھر آپ؟ فرمایا، میں تو مسلمانوں میں سے ایک فرد ہوں۔



(بخاری کتاب المناقب، ابوداؤد کتاب السنۃ)

13 - حضرت علیؑ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے اپنے عہد خلافت میں منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، اس امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ۔ اگر میں تیسرے کا نام لینا چاہوں تو لے سکتا ہوں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ منبر سے اترتے ہوئے فرمایا، پھر عثمان پھر عثمانؓ۔

(البدایۃ والنہایۃ ج ۸: ۱۳، از لئۃ الخفاء ج ۱: ۶۸)

یہ احادیث اس بات کی واضح دلیل ہیں کہ حضرت علیؑ کے نزدیک بھی حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ، تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں۔  
14 - حضرت سفیانؓ فرماتے ہیں کہ جو یہ گمان رکھے اور کہے کہ حضرت علیؑ، حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ، نبیؐ سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے تو اس نے حضرت ابو بکرؓ، حضرت عمرؓ اور تمام مہاجرین و انصار صحابہ کرامؓ کو قصور وار ٹھہرایا۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کہنے والے کا کوئی عمل بھی قبول ہوگا۔ (ابوداؤد کتاب السنۃ)

15 - حضرت ابو ہریرہؓ سے مروی ہے کہ ایک آدمی بارگاہ نبویؐ میں عرض گزار ہوا، "میں نے خواب میں ایک بادل کا ٹکڑا دیکھا ہے جس سے گھی اور شہد ٹپک رہا تھا۔ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے ہاتھ پھیلا کر اس سے کم یا زیادہ لے رہے تھے۔ پھر میں نے ایک رسی آسمان سے زمین تک لٹکتی دیکھی۔ یا رسول اللہؐ! میں نے دیکھا کہ آپ اس رسی کو پکڑ کر اوپر چڑھ گئے پھر ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ رسی پکڑ کر اوپر چڑھ گیا۔ پھر دوسرے شخص کو دیکھا کہ وہ بھی اوپر چڑھ گیا پھر تیسرے شخص نے رسی کو پکڑا تو وہ ٹوٹ گئی مگر پھر چڑگی تو وہ بھی اوپر چڑھ گیا۔"

یہ سن کر حضرت ابو بکرؓ نے عرض کی، میرے آقا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی تعبیر بیان کروں۔ فرمایا، بیان کرو۔

عرض کی، بادل کا ٹکڑا تو اسلام ہے اور جو گھی اور شہد اس سے ٹپک رہا ہے وہ قرآن مجید کی نرمی اور عداوت ہے۔ اور جو زیادہ اور کم لینے والے ہیں وہ قرآن کریم سے زیادہ اور کم فیض لینے والے ہیں۔ جو رسی آسمان سے زمین تک لٹکی ہوئی تھی وہ وہی حق ہے جس پر آپ ہیں، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کا رتبہ بلند فرمائے گا۔

پھر آپ کے بعد ایک اور شخص اسے پکڑے گا اور وہ بھی اس کے سبب بلند مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر دوسرا شخص اسے پکڑے گا اور وہ بھی بلند مرتبہ ہو جائے گا۔ پھر تیسرا شخص اسے پکڑے گا تو وہ دسین حق منقطع ہو جائے گا مگر پھر اس کے لیے جوڑ دیا جائے گا اور وہ بھی اس کے سبب بلند مرتبہ ہو جائے گا۔ یا رسول اللہؐ! فرمائیے کہ میں نے صحیح تعبیر بیان کی یا غلط؟ ارشاد ہوا، کچھ صحیح اور کچھ غیر صحیح۔

عرض کی، یا رسول اللہؐ! میں قسم دیتا ہوں کہ آپ ضرور بیان فرمائیں کہ میں نے کیا غلطی کی؟ فرمایا، قسم نہ دو۔ (ابوداؤد کتاب السنۃ)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ جانتے تھے کہ حضورؐ کے بعد خلافت بالترتیب تین آدمیوں کو حاصل ہوگی اور وہ تینوں حضور اکرمؐ کے طریقوں پر ہوں گے اور اسی حال میں دنیا سے گزر جائیں گے۔ باقی رہی یہ بات جب حضرت ابو بکر صدیقؓ کی تعبیر کے موافق سب کچھ واقع بھی ہوا تو پھر تعبیر میں غلطی کس طرح ہوئی؟۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں،

”ان خلفاء کا نام نہ لینا باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ ان تینوں خلفاء کے نام جانتے تھے ظاہری طور پر خطا کی طرف نسبت کیا گیا۔ (از لئۃ الخفاء ج ۱: ۲۱۹)

16 - حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰؐ نے فرمایا، ہر نبی کے لئے دو وزیر آسمان والوں میں سے اور دو وزیر زمین والوں میں سے ہوتے ہیں۔ میرے آسمانی وزیر حضرت جبرائیل اور میکائیل (علیہما السلام) ہیں اور زمین والوں میں سے حضرت ابو بکرؓ و حضرت عمرؓ (رضی اللہ عنہما) ہیں۔ (ترمذی ابواب

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو حکومتی معاملات میں نبی کریم ﷺ کا خاص قرب حاصل تھا۔

17 - حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم ﷺ کی خدمت میں ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ ﷺ! میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان سے ایک ڈول لٹکا یا گیا ہے۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور اس کو کناروں سے پکڑ کر کمزوری کے ساتھ بیا، پھر عمر رضی اللہ عنہ آئے اور اسے کناروں کی طرف سے پکڑ کر بیا یہاں تک کہ شکم سیر ہو گئے پھر عثمان رضی اللہ عنہ آئے اور اس کے کناروں سے پکڑ کر سیر ہو کر بیا پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ آئے اور انھوں نے اسے کناروں سے پکڑا تو وہ مل گیا اور اس میں سے کچھ پانی ان کے اوپر گر گیا۔ (ابوداؤد کتاب السنۃ)

اس حدیث میں چاروں خلفاء راشدین کی خلافتوں کی طرف اشارہ ہے۔

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کمزور طریقے سے پینے سے مراد یہ ہے کہ ان کی مدتِ خلافت کم ہونے کی وجہ سے ان کے بعض کام پورے نہ ہو سکیں گے جبکہ حضرت عمرو عثمان رضی اللہ عنہما کا زمانہ خلافت طویل ہوگا اور اس میں کئی فتوحات ہوں گی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لئے ڈول کے ہلنے سے پانی کے گرنے کا مفہوم یہ ہے کہ ان کے دورِ خلافت میں فتنے رونما ہوں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

18 - حضرت سفینہ رضی اللہ عنہا اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ جب مسجد نبوی کی بنیاد رکھی گئی تو سب سے پہلے نبی کریم ﷺ نے ایک پتھر رکھا پھر آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو اس پتھر کے ساتھ پتھر رکھنے کا حکم دیا پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پتھر کے ساتھ ایک پتھر رکھیں پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پتھر کے ساتھ ایک پتھر رکھیں۔ پھر ارشاد فرمایا، یہی لوگ میرے بعد خلیفہ ہوں گے۔ (ازلۃ الخفاء ج: ۱، ۱۱۱، حاکم)

19 - حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز میں بارگاہِ نبوی میں حاضر تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے۔ حضور ﷺ کے سامنے سات کنکریاں پڑی ہوئیں تھیں آپ نے وہ کنکریاں اپنی مبارک ہتھیلی پر رکھیں تو وہ تسبیح پڑھنے لگیں، میں نے ان کی آواز شہد کی مکھی کی آواز کی شکل سنی۔ پھر آپ نے وہ کنکریاں زمین پر رکھ دیں تو وہ خاموش ہو گئیں۔

پھر آپ نے وہ کنکریاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیں تو وہ پھر تسبیح پڑھنے لگیں حتیٰ کہ میں نے ان کی آواز سنی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ پھر حضور ﷺ نے وہ کنکریاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھیں تو وہ پھر تسبیح پڑھنے لگیں حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں رکھ دیا۔ پھر حضور ﷺ نے وہ کنکریاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر رکھ دیں تو وہ پھر تسبیح پڑھنے لگیں یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے انہیں زمین پر رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔

رسول کریم ﷺ نے فرمایا، ”ہذہ خلافة نبوة“ یہ خلافتِ نبوت کی علامت ہے۔

یعنی جو معاملہ نبی ﷺ کے ساتھ ہوا کہ ان کے ہاتھ میں کنکریاں تسبیح پڑھنے لگیں وہی معاملہ ان تینوں حضرات کے ساتھ ہوا۔ گویا یہ تینوں حضرات نبی کریم ﷺ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ (ازلۃ الخفاء ج: ۱، ۱۱۲، بزار، طبرانی، بیہقی)

20 - حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے قبیلہ بنی مصطلق کے لوگوں نے بارگاہِ نبوی میں یہ دریافت کرنے کے لئے بھیجا کہ اگر آپ کا وصال ہو جائے تو ہم زکوٰۃ کس کو دیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا، ابو بکر کو۔ میں نے ان لوگوں کو یہ بات بتادی۔

انہوں نے مجھے پھر دریافت کرنے کو کہا کہ اگر ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی انتقال فرما جائیں تو ہم کس کو زکوٰۃ دیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا، عمر کو۔ پھر انہوں نے مجھے پوچھنے کو کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے بعد زکوٰۃ کس کو دیں؟ تو غیب بتانے والے آقا ﷺ نے فرمایا، پھر وہ اپنی زکوٰۃ عثمان کو ادا کریں۔ (ازلۃ الخفاء ج: ۱، ۱۱۳، حاکم)

21, 22 - اس مضمون کی احادیث حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں۔ (یہاں: ۱۱۵) ان احادیث میں واضح اشارہ موجود ہے کہ حضور ﷺ کے بعد بالترتیب حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوں گے۔

23 - حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں بہت سے لوگوں کی گندگی پر سے گزر رہا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگوں کے لیے ایک راستہ مقرر کرو گے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، میں نے اپنے سینے پر دو نشان بھی دیکھے ہیں۔ فرمایا، وہ دو سال ہیں (جو تمہاری خلافت کی مدت ہوگی)۔

(تاریخ الخلفاء: ۱۲۷، طبقات ابن سعد)

24 - حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ نے اپنی علالت کے یام میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امام بنایا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں! میں نے نہیں بنایا تھا بلکہ اللہ تعالیٰ نے بنایا تھا (یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں امام بنایا تھا)۔

(تاریخ الخلفاء: ۱۲۶، ابن عساکر)

25 - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تین بار تمہارے بارے میں سوال کیا کہ تم کو امام بناؤں مگر وہاں سے انکار ہوا اور ابو بکر ہی کے لیے امامت کا حکم ہوا۔

(تاریخ الخلفاء: ۱۲۶، دارقطنی، خطیب، ابن عساکر)

26 - بخاری و مسلم میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز پڑھانے کا حکم دیا تو انہوں نے نماز پڑھائی۔

27 - ابن زبیر سے مروی حدیث میں ہے کہ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب لوگوں کو حکم دیا کہ ابو بکر سے کہو، وہ نماز پڑھاؤ۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ موجود نہ تھے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تاکہ نماز پڑھا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں! نہیں! نہیں!!! اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے سوا کسی اور کو قبول نہیں کریں گے، صرف ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھایا کریں۔

(تاریخ الخلفاء: ۱۲۵، الصواعق المحرقة: ۳۷)

28 - حضرت ابن عمر سے مروی حدیث میں ہے، جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تکبیر تحریمہ کہی تو چونکہ آپ بلند آواز تھے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سن لی اور سر مبارک ناگواری کے ساتھ اٹھا کر فرمایا، ابن ابی قحافہ (ابو بکر) کہاں ہیں؟

اس حدیث کے بارے میں علماء نے کہا ہے کہ یہ حدیث اس بات کی واضح دلیل ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ سے افضل ہیں اور خلافت کے سب سے زیادہ حقدار اور امامت میں سب سے اولیٰ ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۳۸)

29 - حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے وصال فرمانے سے قبل مجھے یہ خبر دیدی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کے والی ہوں گے پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے امیر ہوں گے اور پھر میری طرف رجوع کیا جائے گا مگر میری خلافت پر سب لوگوں کا اتفاق نہ ہوگا۔

اس حدیث کی بعض سندیں ریاض المصنوعہ اور بعض غنیۃ الطالبین میں مذکور ہیں۔ (ازالۃ الخفاء ج: ۱۱۸)

30 - حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی شب میں نے عرش پر یہ تحریر دیکھی۔

”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق عثمان ذوالنورین“۔

31 - حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے شب معراج میں عرش پر ایک بزرگ کاموتی دیکھا جس پر سفید نور سے تحریر تھا،

”لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ابو بکر الصدیق عمر الفاروق“۔

(ایضاً: ۱۳۳، دارقطنی، خطیب، ابن عساکر)

خلفائے راشدین، سابقہ آسمانی کتب میں:

1- حضرت کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام سے قبل ملک شام میں تجارت کیا کرتے تھے۔ انہوں نے وہاں ایک خواب دیکھا تو بخیرا راہب سے بیان کیا۔ بخیرا نے خواب سن کر پوچھا تم کہاں کے رہنے والے ہو؟

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بتایا، میں مکہ کا رہنے والا ہوں۔ پوچھا، کس خاندان کے ہو؟ فرمایا قریش سے۔ پوچھا، پیشہ کیا ہے؟ فرمایا تجارت۔

بخیرا نے کہا، اللہ نے تمہیں سچا خواب دکھایا ہے۔ ایک نبی تمہاری قوم میں مبعوث ہوں گے۔ ان کی زندگی میں تم ان کے وزیر رہو گے اور ان کے وصال کے بعد ان کے خلیفہ ہو گے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس بات کو پوشیدہ رکھا یہاں تک کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حاضر ہو کر عرض کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم! آپ جو دعویٰ کرتے ہیں اس پر دلیل کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی خواب جو تم نے شام میں دیکھا تھا۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاف کیا اور آپ کی پیشانی مبارک پر بوسہ دیا اور کہا، میں کو اہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ (از لئذ الخفاء ج: ۱، ۲۲۰، ابن عساکر)

اس سے معلوم ہوا کہ سابقہ آسمانی کتب میں خلیفہ اول سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی علامات موجود تھیں نیز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اپنے خلیفہ ہونے کا پہلے سے علم تھا۔

2- حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے مؤذن اقرع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک پادری اُسقف کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تمہاری کتاب میں میرا ذکر موجود ہے؟ اس نے کہا، ہاں! میں آپ کو قُرْنِ پاتا ہوں۔

فرمایا، قُرْنِ کیا؟ عرض کی، قُرْنِ سے مراد ہے مضبوط، امانت دار اور سخت مزاج۔ فرمایا، میرے بعد جو خلیفہ ہوگا اسے کیسا پاتے ہو؟ عرض کی، میں اسے ایک نیک خلیفہ پاتا ہوں، وہ اپنے قرابت داروں پر بہت ایثار کریں گے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تین بار فرمایا، اللہ تعالیٰ عثمان رضی اللہ عنہ پر رحم فرمائے۔

پھر پوچھا، اُن کے بعد جو خلیفہ ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ اس نے عرض کی، لوپے سے لگا ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، آہ کبھی خواری ہوگی۔

اس نے عرض کی، اے امیر المؤمنین! (یہ نہ کہیے) وہ خلیفہ بھی نیک شخص ہوگا لیکن وہ ایسے وقت میں خلیفہ بنایا جائے گا جب تلوار کھنچی ہوئی ہوگی اور خون بہ رہا ہوگا۔

(ابوداؤد کتاب السنۃ)

اس حدیث سے بھی واضح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلیفہ ہونے کا علم تھا اسی لئے آپ نے ان کے لئے دعا فرمائی۔ نیز یہ کہ خلفائے راشدین کا ذکر سابقہ کتب آسمانی میں بھی موجود تھا۔

اس بارے میں مزید ایک روایت ملاحظہ فرمائیں۔

3- ابن عساکر نے ابو الطیب سے روایت کیا ہے کہ جب شہر عمور یہ فتح ہوا تو لوگوں نے اس کے ایک گرجا پر آب زر سے یہ عبارت لکھی دیکھی،

”وہ بہت ہی برے خلف ہیں جو سلف کو برا کہیں اور ایک شخص سلف میں سے ہزار خلف سے بہتر ہے۔“

اے صاحب غار! تم نے قابلِ فخر بزرگی پائی کہ تمہاری تعریف بادشاہ جبار نے کی جیسا کہ وہ اپنی کتاب میں فرماتا ہے، ”ثانی الثمین اذھانی الغار“۔

اے عمر! تم والی نہ تھے بلکہ رعایا پر والد کی طرح مہربان تھے۔

اے عثمان! تم کو لوگوں نے ظلم کے ساتھ قتل کر دیا اور تم کو مدفون بھی نہ دیکھ سکے۔

اے علی! تم ابرار کے پیشوا اور رسول اللہ کے سامنے سے کافروں کو ہٹانے والے ہو۔

پس وہ (ابوبکر) صلابت غار ہیں اور وہ (عمر) نیلوں میں سے ایک ہیں اور وہ (عثمان) ملکوں کے فریادرس ہیں اور وہ (علی) اہل رے کے پیشوا ہیں۔  
جو شخص ان کو برا کہے اس پر جبار کی لعنت۔“

راوی نے اس گرجا کے بوڑھے خادم سے پوچھا، یہ تحریر تمہارے گرجا کے دروازے پر کب سے ہے؟ اس نے کہا، تمہارے نبی کی بعثت کے دو ہزار سال پہلے  
- سے

☆☆☆☆



مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ :

نبی کریم ﷺ اندر خیم کے مقام پر حضرت علیؑ کا ہاتھ پکڑ کر صحابہ کرام سے فرمایا،

مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ۔ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَاٰلَاہُ وَعَاَدِ مَنْ عَاَدَاہُ۔

”اے اللہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں، اے اللہ اس سے محبت فرما جو اس سے محبت کرے اور اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی رکھے۔“ یہ حدیث صحیح ہے اور اسے امام احمد بن حنبل اور امام طبرانی نے تیس صحابہ کرام سے روایت کیا ہے جبکہ صحاح ستہ سے امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے اسے روایت کیا ہے۔ رم اللہ تعالیٰ

شیعہ اس حدیث سے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہاں مولیٰ کا معنی اولیٰ بالتصرف ہونا ہے اور جو اولیٰ بالتصرف ہو اس کی اطاعت فرض ہوتی ہے۔ لہذا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور ﷺ نے حضرت علیؑ کو اپنا جانشین اور امام و خلیفہ نامزد فرمایا۔ اس لئے صحابہ کرام حضرت ابو بکرؓ سے بیعت کرنے کے سبب ایمان سے پھر گئے (معاذ اللہ) حضرت ابو بکر صدیقؓ کی خلافت حقہ پر ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں تفصیلی گفتگو کر چکے ہیں اس لئے یہاں صرف اس حدیث کی رو سے مذکورہ باطل استدلال کے چند جوہرات تحریر کرتے ہیں۔

1۔ اہل لغت کے نزدیک مولیٰ کے معنی اولیٰ لینا درست نہیں ہے کیونکہ لفظ ولی سے ماخوذ ہے اور اس کے مندرجہ ذیل معانی ہیں۔ محبت، دوست، مددگار، حاکم، مالک، عبد، آزاد کرنے والا، آزاد شدہ، قریب، مہمان، شریک، عصبہ، رب، منعم، تابع، سسرالی رشتہ دار، بھانجیہ۔ (تاج العروس: ج ۱۰، ص ۳۹۸، ص ۳۹۹)

2۔ اگر بالفرض مان لیا جائے کہ اس حدیث میں مولا بمعنی اولیٰ ہے تو اس پر لازم نہیں آتا کہ یہ اولیٰ بالامتہ اور اولیٰ بالتصرف کے معنی میں ہو اور اس سے حضرت علیؑ کا خلیفہ بلا فصل ہونا مراد ہو بلکہ یہ اولیٰ بالتقرب کے معنی میں ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے،

إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِأَهْلِ بَيْتِهِمُ لِلْيَدِينِ أَتَبَعُوهُ وَهَذَا النَّبِيُّ وَالْيَدِينِ آمَنُوا۔

”بے شک سب لوگوں سے اہل بیت کے زیادہ حق دار وہ تھے جو ان کے پیرو ہوئے یہ نبی اور ایمان والے۔“ (ال عمران)

اس آیت میں بھی لفظ اولیٰ ارشاد ہوا لیکن اس کا مطلب اولیٰ بالتصرف نہیں بلکہ اولیٰ بالمحبت یا اولیٰ بالتقرب ہے یعنی نبی کریم ﷺ اور ایمان والے حضرت اہل بیت علیہم السلام کے قریب ہیں یا محبت کے زیادہ حق دار ہیں۔

3۔ حدیث پاک سے ظاہر ہے کہ حضور ﷺ کی ولایت اور حضرت علیؑ کی ولایت دونوں ایک ہی زمانے میں مجتمع ہیں۔ حدیث شریف میں کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ حضرت علیؑ حضور ﷺ کے بعد ولایت کے حق دار ہوں گے۔ اگر ولایت سے مراد خلافت ہو تو ایک ہی وقت میں دو افراد کا حاکم اور اولیٰ بالتصرف ہونا عقلاً منع ہے۔ جبکہ اگر ولایت سے محبت مراد ہو تو دونوں ولایتوں کا ایک ہی وقت جمع ہونا منع نہیں کیونکہ ایک ہی وقت میں دونوں سے محبت کرنا جائز ہے۔

4۔ اگر بالفرض اس سے مراد اولیٰ بالامتہ ہو تب بھی حدیث کا یہ معنی نہیں ہوگا کہ اس وقت حضرت علیؑ خلیفہ ہیں بلکہ مفہوم یہ ہی ہوگا کہ آپ خلیفہ بنیں گے یعنی جب حضرت علیؑ کی خلافت کا وقت آئے گا۔ اس وقت وہی اولیٰ بالامتہ اور خلیفہ ہوں گے۔ اہلسنت بھی اس کے قائل ہیں۔

5۔ مذکورہ بالا توجیہ کے تحت اگر حضرت علیؑ کا بعد میں خلیفہ بنا مراد ہو تو اس پر اعتراض کیا جاسکتا ہے کہ پھر حضرت علیؑ کی تخصیص کیوں کی گئی؟

اس کا جواب یہ ہے کہ محبوب کبریا عالم ماکان و مایکون ﷺ کو رب کریم نے یہ غیبی خبریں دے دیں تھیں کہ حضرت علیؑ کن حالات میں خلیفہ بنیں گے اور کئی لوگ ان کی بد کوئی کریں گے۔ اس لئے آپ نے امت کو تائید فرمادی کہ وہ علیؑ سے محبت کریں اور جب علیؑ خلیفہ بنیں تو تسلیم کریں اور دل میں بغض نہ رکھیں۔ اس پر دیگر کئی احادیث شاہد ہیں جو کہ پہلے مذکور ہو چکی ہیں۔

6- حضرت علیؑ نے خلفائے ثلاثہ کے ہاتھوں پر بیعت کی اور کبھی بھی اس حدیث سے اپنی خلافت پر استدلال نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ کرام نے اور حضرت علیؑ نے اس حدیث پاک کو اپنی خلافت پر نص نہیں سمجھا۔

اس بارے میں اہل بیت کرام کے عقیدہ کی وضاحت کے لئے یہ روایت ملاحظہ فرمائیں جسے ابو نعیم نے حضرت حسن ثانی ابن حسن الرطہؑ سے نقل کیا ہے۔ کسی شخص نے آپ سے دریافت کیا، حدیث من کنت مولاہ فعلی مولاہ کیا حضرت علیؑ کی خلافت پر نص ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا، اگر آقا و مولیٰ ﷺ اس سے ان کی خلافت کا ارادہ فرماتے تو واضح طور پر ارشاد فرماتے جس سے تمام مسلمان سمجھ جاتے کیونکہ حضور اکرم ﷺ سب لوگوں سے زیادہ فصیح کلام فرمانے والے تھے۔ یقیناً آپ یوں ارشاد فرماتے، يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَذَا وَلِيُّ أَمْرِي وَالْقَائِمُ عَلَيْكُمْ بَعْدِي فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا۔ ”اے لوگو یہ (علیؑ) میرے تمام امور کے ولی ہوں گے اور میرے بعد تمہارے حاکم ہوں گے تم ان کی بات سننا اور اطاعت کرنا۔“ پھر فرمایا، اگر اللہ اور اس کے رسول نے حضرت علیؑ کو اس کام کے لئے چنا ہوتا تو ان پر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت لازم ہوتی اور ان کا اس کام سے پیچھے رہنا (یعنی خلافت کا طلب نہ کرنا) اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی ہوتا، جو کہ بہت بڑا گناہ ہے۔

اس سے معلوم ہوا کہ مذکورہ حدیث میں ”مولیٰ“ سے مراد خلافت نہیں ہے۔

7- حدیث میں مذکورہ میں لفظ ”مولیٰ“ سے مراد دوست اور محبت ہے۔ جیسا کہ اسی حدیث پاک کے آخری حصہ میں حضور ﷺ کی یہ دعا ہے۔ اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ وَالَاةَ وَعَادَ مَنْ عَادَاہُ یعنی ”اے اللہ! اس سے محبت کر جو اس سے محبت کرے اور اس سے عداوت کر جو اس سے عداوت رکھے۔“ اگر یہاں لفظ مولیٰ سے اولیٰ بالتصرف ہونا مراد ہوتا تو یوں ارشاد ہوتا،

اَللّٰهُمَّ وَالِ مَنْ تَكَانَ فِيْ تَصَرُّفِهِ وَعَادَ مَنْ لَّمْ يَكُنْ كَمَا لِيْكَ۔

”اے اللہ تو اس سے محبت کر جو حضرت علیؑ کی ولایت کے تصرف میں ہو اور اس سے عداوت رکھ جو ان کی ولایت کے تصرف میں نہ ہو۔“ چونکہ آپ نے ایسا نہیں فرمایا اس لئے حدیث کا مفہوم یہی ہے کہ جس طرح حضور ﷺ کی محبت ہر مومن پر لازم ہے اسی طرح حضرت علیؑ کی محبت بھی لازم ہے اور جس طرح آقا و مولیٰ ﷺ کی عداوت حرام ہے اسی طرح سیدنا علیؑ کی عداوت حرام ہے۔ مزید تفصیل کے لئے علامہ مفتی عبدالرزاق بھٹو الودعیؒ کی تفسیر نجوم الفرقان جلد دوم ملاحظہ فرمائیں۔

سیدنا علیؑ کی ہارون العلیؑ سے تشبیہ:

غزوہ تبوک کے موقع پر رسول کریم ﷺ نے حضرت علیؑ کو مدینہ منورہ میں چھوڑتے ہوئے فرمایا، اَمَّا تَرَضِيْ اَنْ تَكُوْنَ مِّنِّيْ بِمَنْزِلَةِ هٰرُوْنَ مِنْ مُّوْسٰى غَيْرَ اَنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ۔ ”کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ تم میرے لئے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لئے حضرت ہارون تھے البتہ میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا۔“

(صحیح مسلم باب فضائل علی ابن ابی طالب)

شیعہ اس حدیث سے حضرت علیؑ کی خلافت بلا فصل پر استدلال کرتے ہیں۔ ان کے بقول رسول کریم ﷺ نے اس حدیث میں حضرت علیؑ کے لئے خلافت کی وصیت فرمادی تھی۔ اس استدلال کے باطل ہونے پر چند دلائل پیش خدمت ہیں۔



1- امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں، ”اس حدیث میں سیدنا علیؑ کی ایک فضیلت بیان ہوئی ہے مگر اس میں خلفاء ثلاثہ کے ان سے افضل ہونے کی نفی نہیں ہے اور نہ ہی اس میں حضرت علیؑ کے خلیفہ ہونے کی دلیل ہے۔ کیونکہ سرکارِ دو عالم ﷺ نے انہیں غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے خلیفہ بنایا تھا نہ کہ اپنے وصالِ ظاہری کے وقت تمام عالم اسلام کا خلیفہ بنایا تھا۔“

2- اس خلافت سے مراد وقتی خلافت ہے اور اس پر حضرت علیؑ کا ارشاد ”یا رسول اللہ ﷺ! آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑے جا رہے ہیں“ دلیل ہے کیونکہ اگر اس خلافت سے مراد حضور ﷺ کی مستقل جانشینی ہوتی تو حضرت علیؑ یہ نہ فرماتے کیونکہ اس صورت میں تو آپ کو تمام مردوں، عورتوں اور بچوں کی ولایت و خلافت حاصل ہوتی۔ لہذا آپ کا مذکورہ ارشاد اس کی دلیل ہے کہ آپ خود بھی یہ بات جانتے تھے کہ رسول کریم ﷺ کی غیر موجودگی کے زمانے میں آپ عارضی خلیفہ ہیں۔

3- مذکورہ حدیث پاک میں حضرت علیؑ کو حضرت ہارونؑ سے تشبیہ دی گئی ہے یہ بھی آپ کے عارضی خلیفہ ہونے کی دلیل ہے کیونکہ ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے صرف کوہ طور پر جانے کے زمانے میں خلیفہ تھے۔ جب حضرت موسیٰؑ واپس آگئے تو ان کے خلیفہ ہونے کی ضرورت ختم ہوگئی۔ اسی طرح حضرت علیؑ بھی حضور ﷺ کے غزوہ تبوک پر جانے کے زمانے میں خلیفہ تھے، جب حضور ﷺ واپس آگئے تو حضرت علیؑ کے خلیفہ ہونے کی ضرورت ختم ہوگئی۔

4- امام نووی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے بعد خلیفہ نہیں بنے بلکہ حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے وصال سے 40 سال قبل انتقال فرما گئے تھے۔ ان سے تشبیہ دینے میں حکمت یہ بھی ہے کہ جس طرح حضرت ہارونؑ حضرت موسیٰؑ کے بعد ان کے خلیفہ نہیں تھے اسی طرح حضرت علیؑ بھی حضور ﷺ کے بعد ان کے خلیفہ بلا فضل نہیں ہوں گے۔

اگر یہ ثابت کیا جائے کہ یہ سیدنا علیؑ کی خلافت کا بیان ہے تو بھی اس سے ان کی خلافت بلا فضل ہرگز ثابت نہیں ہو سکتی۔ اور اس بات کے تو ہم بھی قائل ہیں کہ سیدنا علیؑ کو آقا و مولیٰ ﷺ کے بعد چوتھے نمبر پر خلافت کا حاصل ہونا برحق ہے۔

حدیث قرطاس:

حضرت عبد اللہ بن عباسؓ سے روایت ہے کہ جب نبی کریم ﷺ کا مرض شدید ہو گیا تو فرمایا، ”لکھنے کا سامان لاؤ تا کہ میں ایسی تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو سکو۔“ حضرت عمرؓ نے کہا، نبی کریم ﷺ پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن کریم موجود ہے جو ہمیں کافی ہے۔ اس پر حاضرین میں اختلاف ہو گیا جب باتیں بڑھیں تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا، میرے پاس سے اٹھو میرے پاس تنازعہ مناسب نہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباسؓ یہ کہتے ہوئے اٹھے کہ ”بیشک مصیبت اور بڑی مصیبت جو نبی کریم ﷺ اور آپ کی تحریر کے درمیان حائل ہوگئی (وہ لوگوں کا اختلاف اور تنازع تھا)۔“ (صحیح بخاری کتاب العلم)

یہ حدیث صحیح بخاری میں اس کے علاوہ سات جگہ وارد ہے اور حدیث قرطاس کے عنوان سے مشہور ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وصال سے چار دن قبل نبی کریم ﷺ نے کچھ لکھنے کے لئے حاضرین سے قلم و دوات منگوایا۔ آپ کے مرض کی شدت کے پیش نظر حضرت عمرؓ نے فرمایا، ”ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے۔“ اس پر اختلاف ہوا، کچھ کہتے تھے کہ لکھنے کا سامان لاؤ اور کچھ کہتے تھے کہ نہ لاؤ۔ ان کی باہم نگرار کو حضور ﷺ نے پسند نہیں فرمایا اور ارشاد فرمایا، ”میرے پاس سے اٹھ جاؤ۔“

اس حدیث کی بناء پر و افض اعتراف کرتے ہیں کہ حضرت عمرؓ نے حضور اکرم ﷺ کا حکم نہ مان کر وحی خدا کو رد کر دیا۔ (معاذ اللہ)  
اس اعتراف کے جواب میں چند باتیں مندرجہ ذیل ہیں۔

1- شارح بخاری علامہ بدرالدین عینی رحمہ فرماتے ہیں، مسند امام احمد میں ہے کہ یہ خطاب عام لوگوں سے نہ تھا بلکہ خاص حضرت علیؑ سے فرمایا تھا کہ لکھنے کا سامان لاؤ۔ (عمدة القاری: ج ۲، ص ۱۷۱)

ایک روایت دوسری کی تفسیر ہوتی ہے۔ ثابت ہوا کہ ان روایات میں خطاب اگرچہ عام ہے مگر یہاں بھی مخاطب حضرت علیؑ ہی ہیں اس لئے رسول اکرم ﷺ کے اس ارشاد کی تعمیل حضرت علیؑ کے ذمے تھی نہ کہ حضرت عمرؓ کے۔

2- اگر کوئی بیمار بزرگ کسی مصلحت کے باعث مشقت برداشت کرنے چاہے تو اس کے عزیز و اقارب اور خدام اسے منع کر دیتے ہیں، یہ منع کرنا اوب اور شفقت و محبت ہی کے باعث ہوتا ہے۔ حضرت عمرؓ نے بھی حضور اکرم ﷺ کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے آپ کے آرام کی خاطر منع کیا جو یقیناً لائق تحسین ہے اس کی دلیل ان کے الفاظ ہیں، "إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ غَلَبَهُ الْوَجَعُ وَعِنْدَنَا كِتَابُ اللَّهِ حَسْبُنَا"۔ نبی کریم ﷺ پر بیماری کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب موجود ہے جو ہمارے لئے کافی ہے۔"

3- حضرت عمرؓ اپنی باطنی فراست اور قوت اجتناب سے سمجھ گئے تھے کہ حضور اکرم ﷺ کا ارشاد حکم کے طور پر نہیں اور حضور ﷺ اپنی تکلیف کے باوجود محض کمال شفقت و رحمت سے تحریر لکھنا چاہتے ہیں اس لئے آپ نے صحابہ سے فرمایا، حضور ﷺ کو زحمت نہ دو، ان پر بیماری کا غلبہ ہے۔ محبت کی وجہ سے بعض امور سے انکار مستحسن و پسندیدہ ہے۔

بخاری و مسلم میں ہے کہ مشرکین نے صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح نامے میں تحریر الفاظ "رسول اللہ ﷺ" پر اعتراض کیا اور اس کے بجائے محمد بن عبد اللہ لکھنے کا مطالبہ کیا۔ نبی کریم ﷺ نے حضرت علیؑ کو حکم دیا کہ اس تحریر سے "رسول اللہ ﷺ" کے الفاظ نکال دو۔ حضرت علیؑ نے کہا، "لَا أَصْحَوْكَ أَهْلًا"۔ میں یہ الفاظ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔ یہاں تک کہ وہ الفاظ خود رسول کریم ﷺ نے مٹائے۔

اس حدیث کی بناء پر کوئی یہ کہے کہ حضرت علیؑ نے رسول کریم ﷺ کے حکم کو تسلیم نہیں کیا بلکہ انکار کیا لہذا انہوں نے رسول کا حکم نہ مان کر وحی خدا کو رد کر دیا (معاذ اللہ) تو ایسا شخص کم عقل، گمراہ اور بد مذہب ہے۔ حضرت علیؑ کا مقصد یہ تھا کہ جب میں آپ کو دل و جان سے رسول مانتا ہوں تو پھر میں اپنے ہاتھوں سے رسول اللہ کے الفاظ کیونکر مٹا سکتا ہوں۔ حقیقت یہی ہے کہ جس طرح حضرت علیؑ نے رسول کریم ﷺ سے کمال محبت کی وجہ سے انکار کیا، اسی طرح حضرت عمرؓ نے بھی رسول کریم ﷺ سے کمال محبت اور ہمدردی ہی کی بناء پر انکار کیا۔

4- اگر مذکورہ ارشاد کو حکم مان لیا جائے تو جب حضرت عمرؓ نے عرض کیا "ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے" اور حضور ﷺ نے دوبارہ لکھنے کا سامان طلب نہیں فرمایا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت عمرؓ کی بات مقبول ہوگئی اور اب وہ حکم باقی نہیں رہا، ورنہ یقیناً حضور ﷺ دوبارہ وہی ارشاد فرماتے۔

روافض کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمرؓ کے انکار کی وجہ سے دین کا ایک اہم حکم تحریر ہونے سے رہ گیا۔ اس کے جواب میں چند باتیں پیش ہیں:

(1) سرکارِ دو عالم ﷺ جو لکھنا چاہتے تھے ان میں تین باتیں ممکن ہیں:

اول یہ کہ آپ جتنے احکام بیان فرما چکے تھے اس میں اضافہ فرمانا چاہتے تھے۔

دوم یہ کہ سابقہ احکام کو منسوخ کرنا چاہتے تھے۔

سوم یہ کہ سابقہ احکام ہی کا تکرار فرمانا چاہتے تھے۔

چونکہ اس واقعہ سے تین ماہ قبل دین اسلام کی تکمیل کے حوالے سے یہ آیت نازل ہو چکی تھی، "الْيَوْمَ اكْتَمَلَتْ لَكُمْ دِينُكُمْ وَ اَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَ رَضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِينًا"۔ یعنی "آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پسند کیا"۔ (المائدہ: ۳)

اب نیا حکم نازل ہونے سے یا کوئی پہلا حکم منسوخ ہونے سے اس آیت کی تکذیب لازم آتی اس لئے پہلے دونوں احتمال تو ممکن ہی نہیں۔ یعنی بات یہ ہے کہ

آپ سابقہ احکام ہی میں سے کسی کی تائید فرمانا چاہتے تھے۔ اس حقیقت کو سمجھتے ہوئے حضرت عمرؓ نے ”عِنْدَنَا كِتَابُ اللّٰهِ حَسْبُنَا“ عرض کیا۔

(2) صحیح بخاری کتاب الجہاد باب جواز الوفود کی روایت سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جب لوگوں میں تکرار ہوئی تو سرکارِ دو عالم ﷺ نے فرمایا، ”مجھے چھوڑ دو میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو“ یعنی میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوں اور تم مجھے اپنے اختلافات طے کرنے کی طرف بلاتے ہو تم جاؤ مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ پھر آپ نے زبانی تین باتوں کی وصیت فرمائی۔

آپ نے فرمایا، ”مشرکین کو جزیرہ عرب سے نکال دینا، وفود کو اسی طرح عطیات دینا جس طرح میں دیتا تھا“۔ تیسری وصیت راوی کو بھول گئی۔

محدثین کرام نے بیان کیا ہے کہ تیسری وصیت یہ تھی کہ اسامہ کے لشکر کو لڑائی کے لئے بھیج دینا اور میری قبر کو بجرہ گاہ نہ بنانا۔

اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ جو باتیں آپ لکھنا چاہتے تھے وہ آپ نے بیان فرمادیں۔ یہ باتیں آپ پہلے بھی فرما چکے تھے، اب دوبارہ فرمانا تائید کے طور پر تھا۔ اس حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ لکھنے کا سامان منگوانے کا ارشاد حکم نہ تھا بلکہ مشورے کے طور پر تھا ورنہ آپ فرماتے، ضرور لاؤ۔ اگر آپ لکھنا ہی چاہتے تو آپ کو کون روک سکتا تھا۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ حضور ﷺ کی زبان وحی الہی کی ترجمان ہے اس لئے جب لکھنے کا سامان کاغذ قلم لانے کو ارشاد فرمایا تو اسے موقوف کیوں کیا۔ جواب یہ ہے کہ اگر حضور ﷺ کا لکھنے کا ارادہ فرمانا اللہ کی جانب سے تھا تو اس ارادے کا تبدیل فرمانا بھی یقیناً اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے تھا۔ اس لئے حضور ﷺ نے جو لکھنا تھا وہ لکھنے کی بجائے زبانی ارشاد فرمادیا۔

(3)۔ روافض کہتے ہیں کہ حضور ﷺ حضرت علیؓ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے جو بعض صحابہ کرام نے لکھنے نہیں دی۔ مگر اس دعوے کی انکے پاس کوئی دلیل نہیں۔ جبکہ ہم اہلسنت کہتے ہیں کہ آقا و مولیٰ ﷺ حضرت ابو بکرؓ کی خلافت لکھنا چاہتے تھے اور اس کی دلیل صحیح مسلم کی یہ مشہور حدیث ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے مرض میں مجھ سے فرمایا، ”اپنے ابا جان ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ تا کہ میں ایک تحریر لکھ دوں۔ مجھے ڈر ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کہنے والا کہے گا کہ وہ میں ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ اور مسلمان نہیں مانیں گے مگر ابو بکر کو“۔ (مسلم)

(4)۔ ان دلائل کے باوجود اگر کوئی یہ کہے کہ رسول کریم ﷺ نے جو لکھنا تھا وہ حضرت عمرؓ کے ڈر سے زبانی بیان نہیں فرمایا (معاذ اللہ) تو یہ شانِ رسالت میں کھلی گستاخی ہے۔ نیز اس طرح لازم آئے گا کہ حضور اکرم ﷺ نے دینی احکام امت تک نہیں پہنچائے۔ پھر یہ بھی لازم آئے گا کہ مذکورہ آیت قرآنی کے برخلاف دین مکمل نہ ہو سکا اور ناقص رہ گیا (معاذ اللہ)۔

یہ بات بھی قابل غور ہے کہ یہ واقعہ جمعرات کا ہے اس کے بعد چار دن حضور ﷺ ظاہری حیات کے ساتھ رہے اور اس دوران یقیناً ہلمیت اطہار کے ساتھ علیحدہ بھی رہے لیکن آپ نے پھر لکھنے کا ارادہ نہیں فرمایا اور نہ ہی زبانی کوئی وصیت فرمائی۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جو وصیت لکھنا تھی وہ زبانی فرمادی اور آپ کو یہ اطمینان بھی ہو گیا کہ صحابہ کرام قرآن کریم اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے اس لیے مزید کچھ لکھ کر دینے کی ضرورت ہی نہ رہی۔

روافض کا ایک اعتراض یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے نبی کریم ﷺ کے کلام کو ہدیان سے تعبیر کر کے شانِ رسالت میں گستاخی کی ہے۔ جواب میں دو باتیں عرض ہیں:

اول یہ کہ حضرت عمرؓ کی طرف ایسا بیان منسوب کرنا بہتان اور جھوٹ ہے۔ جس لفظ پر اعتراض ہے وہ حضرت عمرؓ نے کہا ہی نہیں۔ اس حوالے سے عتشی بھی روایتیں ہیں سب میں پہلے یہی ہے، قَالَ عُمَرُ يَا قَالِ لِعِنِّي ”حضرت عمر نے کہا“، اور پھر دوسرے قول سے پہلے ہے، قَالُوا ”لوگوں نے کہا یا بعض نے کہا“۔ اگر یہ قول حضرت عمرؓ کا ہوتا تو ابن عباسؓ اس کو بھی قَالَ عُمَرُ کہہ کر بیان فرماتے۔

دوسری اہم بات یہ ہے کہ جس لفظ پر اعتراض ہے وہ ”ہَجَرَ“ ہے اس کے مشہور معنی ہڈیان کے ہیں یا چھوڑنے کے۔ اگر بالفرض یہ لفظ کسی نے توہین کے لئے بولا تھا تو توہین کا لفظ سننے والے اور سن کر خاموش رہنے والے دونوں کافر ہو جاتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت علی شیر خدا، حضرت عمر فاروق، حضرت عباس اور دیگر جید صحابہ رضی اللہ عنہم کے سامنے گستاخی اور توہین کی گئی ہو اور یہ حضرات سن کر خاموش رہے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ثابت ہوا کہ یہ لفظ توہین کے لئے نہیں تھا۔

حدیث کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، نبی کریم ﷺ شدید بیمار ہیں اس لئے ان کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے جو ہمیں کافی ہے تو بعض صحابہ آپ کے ہمنوا ہو گئے اور بعض کہنے لگے کہ تلم دوات اور کاغذ لایا جائے تاکہ حضور ﷺ لکھ دیں۔ انہی حضرات نے استفہام انکاری کے طور پر یہ کلام کیا۔

امام نووی رضی اللہ عنہ شرح صحیح مسلم میں اس کی شرح میں لکھتے ہیں، ”قاضی عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حدیث میں اَنْهَجَرَ زَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جو صحیح مسلم وغیرہ میں آیا ہے وہ استفہام کے طور پر ہے۔ یعنی جو لوگ اس کے قائل تھے کہ حضور ﷺ کے ارشاد پر عمل کر کے لکھنے کا سامان لایا جائے اور حضور ﷺ لکھوا لیا جائے، وہ استفہام انکاری کے طور پر کہتے ہیں، کیا نبی کریم ﷺ ہڈیان میں مبتلا ہو سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ لہذا جب آپ سے ہڈیان سرزد نہیں ہو سکتا تو ہمیں آپ کے ارشاد پر عمل کر کے لکھوانا چاہئے۔“

اگر ہَجَرَ کے معنی چھوڑنے کے لئے جائیں تو مفہوم یہ ہوگا کہ جب حضور ﷺ نے کاغذ تلم منگولیا تو حاضرین نے سمجھ لیا کہ یہ جدائی کی طرف اشارہ ہے وہ بے قرار ہو کر کہنے لگے، ”سرکار سے دریافت کرو، کیا حضور ﷺ نے ہمیں چھوڑ دیا کہ ایسا ارشاد فرما رہے ہیں۔“ مستقبل قریب میں جس کا ظہور ہونا ہو، اسے ماضی سے تعبیر کرنا عام بات ہے اس لئے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا۔ (ترجمہ القاری: ج ۱ ص ۲۷۵)

### خلیفہ بلا فصل کون؟

روافض کہتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا وصی بنا لیا تھا یعنی یہ وصیت کی تھی کہ میرے بعد یہ خلیفہ ہو گئے۔ اس خود ساختہ بات کی صحابہ کرام اور خود حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی پر زور تردید فرمائی۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا، کیا رسول اللہ ﷺ نے آپ کے لیے کوئی عہد فرمایا ہے جو دوسروں سے نہیں فرمایا ہے؟ فرمایا، نہیں، قسم ہے اُس ذات کی جس نے دانہ پیدا کیا اور بچہ تخلیق کیا! ہمارے پاس سوائے اللہ کی کتاب اور اس صحیفے کے کچھ نہیں۔

صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت حنیفہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا، اس صحیفہ میں کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وصیت اور قیدیوں کے چھڑانے کے احکام اور یہ کہ کافر کے عوض مسلمان نہیں قتل کیا جائے گا۔

اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس لوگوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ وصی تھے؟ اُمّ المؤمنین نے فرمایا، حضور ﷺ نے کب اُن کے بارے میں وصیت کی؟ میں حضور ﷺ کو اپنے سینے سے سہارا دیے ہوئے تھی۔ حضور ﷺ نے پانی کا طشت طلب فرمایا اور میری کودہی میں وصال فرما گئے۔ پس حضور ﷺ نے کب اُن کے بارے میں وصیت کی۔ (صحیح بخاری کتاب الوصایا)

خلاصہ یہ ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کوئی وصیت نہیں فرمائی۔ اس کی تائید میں ایک اور اہم دلیل ملاحظہ فرمائیے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، قسم ہے اس ذات کی جس نے دانے کو پھاڑا اور جان کو پیدا کیا ہے! اگر رسول کریم نے میرے لیے کوئی عہد کیا ہوتا (کہ خلافت مجھے ملے گی) تو خواہ میرے پاس اس چادر کے سوا کچھ نہ ہوتا، میں اس کے لیے ضرور کوشش کرتا اور ابو قحافہ کے بیٹے (ابوبکر رضی اللہ عنہ) کو نمبر پر ایک بیڑھی بھی نہ چڑھنے دیتا لیکن رسول کریم ﷺ نے میرے اور ان کے مقام کو دیکھا اور انہیں کہا، ”لوگوں کو نماز پڑھاؤ“ اور مجھے چھوڑ دیا۔ پس ہم اُن سے اپنی دنیا کے لیے اس

طرح راضی ہو گئے جیسے رسول کریم ﷺ اُن سے ہمارے دین کے لیے راضی ہوئے۔ (الصواعق الخرقہ: ۹۳)

ہمارے دعوے کی تائید میں صحیح بخاری کی یہ حدیث بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول کریم ﷺ کے مرض وصال میں حضور ﷺ کے پاس سے باہر نکلے تو لوگوں نے پوچھا، حضور کیسے ہیں؟ فرمایا، بحمد اللہ! ابھی ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا،

تم تین دن بعد غیروں کے تابع ہو گے۔ بخدا میں دیکھ رہا ہوں کہ رسول کریم ﷺ اس بیماری میں وصال فرمائیں گے۔ بے شک میں خاندان عبدالمطلب کے چہرے پہچان لیتا ہوں کہ موت کے وقت کیسے ہوتے ہیں۔ تم ہمیں نبی کریم ﷺ کے پاس لے چلو تا کہ حضور ﷺ سے پوچھیں کہ امر خلافت کس کے پاس ہوگا۔ اگر آپ نے ہمارے متعلق فرمایا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا اور اگر آپ نے کسی اور کے متعلق فرمایا تو وہ بھی ہمیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم عرض کریں گے کہ آپ ہمارے لئے وصیت فرمادیں۔

یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ”خدا کی قسم! اگر ہم نے رسول اللہ ﷺ سے اس کا سوال کیا اور حضور ﷺ نے منع فرمایا تو لوگ ہمیں کبھی خلافت نہیں دیں گے۔ خدا کی قسم! ہم رسول اللہ ﷺ سے اس کا سوال نہیں کریں گے۔“

(بخاری باب مرض النبی ﷺ، بخاری کتاب الاستیذان باب المعافقہ)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ رسول کریم ﷺ نے کسی کو اپنا جانشین اور خلیفہ نہیں بتایا تھا بلکہ خلیفہ کے انتخاب کا حق اپنے صحابہ کو دیا تھا۔

اس حدیث سے روافض کے باطل دعوؤں کی نفی بھی ثابت ہو رہی ہے جو کہتے ہیں نبی کریم ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بلا فصل بنا دیا تھا اور آپ کی خلافت کے لیے وصیت فرمادی تھی لیکن (معاذ اللہ) صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انھیں محروم کر دیا۔

اگر حدیث قرطاس سے اور حدیث ”من كنت مولاه فعلمی مولاہ“ سے مراد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت بلا فصل ہوتی تو آپ یہ نہ فرماتے، فَمَنْعْنَا هَذَا لَا يُعْطِيَانَا النَّاسُ۔ ”اگر حضور ﷺ نے منع فرمایا تو لوگ ہمیں کبھی خلافت کا حق نہیں دیں گے“ بلکہ آپ فرماتے، ”حضور ﷺ تو مجھے کئی مرتبہ اپنا خلیفہ بلا فصل بنا چکے ہیں اس لیے حضور ﷺ سے اس معاملے کی دوبارہ توثیق کرا لیتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں“ لیکن انھوں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی کیونکہ وہ آقا و مولیٰ ﷺ کے ارشاد استیعالیہ کو زیادہ سمجھنے والے ہیں۔

حق یہ ہے کہ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ اندیشہ بیان فرما رہے ہیں کہ حضور ﷺ ہمیں خلافت کا امر دینے سے منع بھی فرما سکتے ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ باب مدینۃ العلم یہ جان چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ، رسول کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلافت کے منصب پر فائز دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سمجھنا اس لیے بھی دشوار نہیں تھا کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے مرض وصال میں نمازوں کی امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو مقرر فرما کے گویا انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا تھا۔

اگر خلفائے راشدین کے معاملے میں غور کیا جائے تو یہ بات بھی بالکل واضح ہوتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلیفہ بلا فصل منتخب ہونے کی صورت میں خلفائے ثلاثہ رسول کریم ﷺ کی خلافت و نیابت کے منصب پر فائز ہی نہ ہو پاتے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت ہی میں وصال پا جاتے۔

چونکہ رب تعالیٰ اور اسکے رسول ﷺ کی رضا اس میں تھی کہ وہ تینوں حضرات خلیفہ رسول ﷺ ہونے کی نعمت سے سرفراز ہوں اس لیے رب کریم نے صحابہ کرام کے دلوں میں یہ بات ڈال دی کہ وہ اسی ترتیب سے خلیفہ کا انتخاب کریں جس ترتیب سے وہ دنیا سے وصال فرمانے والے ہیں تا کہ وہ تینوں حضرات بھی محبوب خدا ﷺ کے خلیفہ و نائب ہونے کا شرف حاصل کر لیں۔

مسئلہ فدک کی حقیقت:

مسلمانوں کو جو اموال و املاک کفار سے لڑائی کے بعد حاصل ہوتے ہیں انہیں مال غنیمت کہتے ہیں اور جو بغیر لڑائی کے حاصل ہوں انہیں مال فتنے کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے احکام سورۃ الانفال کی آیت ۳۱ میں یوں بیان ہوئے ہیں،

وَاعْمَلُوا انَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ ۚ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا ۚ ”اور جان لو کہ جو کچھ غنیمت لوٹو اس کا پانچواں حصہ خاص اللہ اور رسول اور قرابت والوں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کا ہے اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اس پر جو ہم نے اپنے بندے پر اتارا۔“ (کنز الایمان)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت کے پانچ حصے کیے جائیں جس میں سے چار حصے لڑنے والے مجاہدین میں تقسیم کر دیے جائیں اور پانچواں حصہ اس آیت میں مذکور مصارف کے لیے وقف کر دیا جائے۔

مال فتنے کے احکام سورۃ الاحقر کی آیت ۷ میں بیان ہوئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا،

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۚ

”جو غنیمت دلائی اللہ نے اپنے رسول کو شہر والوں سے وہ اللہ اور رسول کی ہے اور رشتہ داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے۔“ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مال فتنے کسی کی شخصی ملکیت نہیں ہوتا بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ، اسکے رسول، حضور کے رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کا حق ہے۔

فدک، مدینہ منورہ سے تین منزل کے فاصلے پر ایک علاقہ تھا جس میں کھجور کے باغات، زرعی زمینیں اور چشمے تھے۔ فدک، خیبر اور بنو نضیر کے بعض علاقے اموال فتنے میں سے تھے اور آقا موملی ﷺ نے ان کی آمدن کو اپنی، اہل بیت کی اور دیگر مسلمانوں کی ضروریات کے لیے وقف فرما دیا تھا جیسا کہ بخاری و مسلم اور دیگر کتب احادیث سے ثابت ہے۔

یہ امر مسلمہ ہے کہ جو چیز وقف ہو وہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہوتی، نہ وہ کسی کو ہبہ کی جاسکتی ہے اور نہ ہی اس میں وراثت جاری ہو سکتی ہے۔ سرکارِ دو عالم ﷺ کی آمدن کو جن مصارف میں خرچ فرماتے تھے سیدنا صدیق اکبر ﷺ اور دیگر خلفائے راشدین نے بھی اس آمدن کو انہی مصارف میں خرچ کیا۔ شیعہ حضرات کا کہنا یہ ہے کہ باغ فدک کی وارث صرف سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا تھیں اور سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فدک کی وراثت سے محروم کر کے بڑا ظلم کیا (العیاذ باللہ)۔

اولیٰیہ بات ثابت شدہ ہے کہ فدک اموال فتنے میں سے تھا اس لیے اس پر وراثت کا حکم نافذ نہیں ہو سکتا تھا۔

ثانیاً یہ کہ بالفرض فدک اگر حضور ﷺ کی میراث ہوتا تو پھر وراثت کا حق صرف حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی کا نہ ہوتا بلکہ امہات المؤمنین، حضرت عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر ورثاء بھی حصہ دار ہوتے۔ پس صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو وراثت کا حقدار قرار دینا اور دیگر ورثاء کو محروم کر دینا قرآنی آیات کی صریح خلاف ورزی ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس کسی کے ذریعہ پیغام بھیجا اور حضور کی میراث کا مطالبہ کیا جو مدینے اور فدک میں بطور نفے اور خیبر کے خمس میں سے حضور ﷺ کو ملا تھا۔ اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ، لَا نُورَثُ مَا تَرَكَنَا صَدَقَةٌ، إِنَّمَا يَأْكُلُ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي هَذَا الْمَالِ وَإِنِّي وَاللَّهِ لَا أُخَيِّرُ شَيْئًا مِنْ صَدَقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ خَالِهَا النَّبِيِّ كَانَتْ عَلَيْهَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. وَلَا عَمَلَنَّ فِيهَا بِمَا عَمِلَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ.

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد ہے، ہم کسی کو وارث نہیں بناتے، جو مال ہم چھوڑیں وہ صدقہ ہے۔ البتہ آل رسول ﷺ اس مال میں سے کھاتے رہیں گے۔ (پھر فرمایا) خدا کی قسم! میں حضور کے صدقہ (خرچ کرنے کے طریقے) میں کوئی تبدیلی نہیں کروں گا۔ جس طرح وہ عہد نبوت میں خرچ ہوتا تھا اسی طرح اب بھی خرچ ہوگا اور میں ان اموال میں ایسا ہی کروں گا جس طرح رسول کریم ﷺ کیا کرتے تھے۔“

(صحیح بخاری کتاب الجہاد، صحیح مسلم کتاب الجہاد)

آپ غور فرمائیے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ؓ سے فدک کا مطالبہ ہوا تو آپ نے حدیث رسول سنائی اور یہ بھی فرمایا کہ اس کی آمدن آل رسول ؓ پر صرف ہوگی اور جس طرح میرے آقا و مولیٰ ؐ اسے خرچ فرماتے تھے، میں اُن کی اتباع میں اسی طرح خرچ کروں گا۔ کیا اس میں کوئی قابل اعتراض بات ہے؟ یقیناً ہرگز نہیں۔

بعض منکرین اندھے تعصب میں یہ افترا کرتے ہیں کہ یہ حدیث حضرت ابو بکر ؓ نے اہلیت کا حق غصب کرنے کے لیے خود سے گھڑ لی (معاذ اللہ)۔ حق یہ ہے کہ یہ حدیث متعدد اکابر صحابہ کرام سے مروی ہے۔

حضرت مالک بن اوس ؓ سے مروی ہے کہ حضرت عمر ؓ کے پاس حضرت عثمان، عبدالرحمن بن عوف، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص آئے، پھر حضرت علی اور حضرت عباس بھی آگئے۔ آپ نے پہلے اول الذکر صحابہ سے دریافت کیا، ”کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ رسول اللہ ؐ نے یہ فرمایا تھا کہ ”ہمارا کوئی وارث نہیں ہوتا، ہم جو کچھ چھوڑیں وہ صدقہ ہے“۔ سب نے کہا، ہاں رسول اللہ ؐ نے یہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر ؓ نے حضرت علی و حضرت عباس رضی اللہ عنہما سے مخاطب ہو کر فرمایا، میں آپ دونوں کو اللہ کی قسم دیتا ہوں، کیا آپ دونوں جانتے ہیں کہ رسول اللہ ؐ نے یہ بات فرمائی ہے؟ ان دونوں حضرات نے اقرار کیا، بیشک رسول اللہ ؐ نے یہ فرمایا ہے۔ (صحیح بخاری کتاب الجہاد، صحیح مسلم کتاب الجہاد)

صحیح بخاری کتاب الفرائض میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی یہ حدیث مروی ہے۔ امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں حضرت عمر، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت سعد، حضرت عائشہ اور حضرت ابو ہریرہ ؓ سے بھی روایات مذکور ہیں۔ (ترمذی ابواب امیر) اس طرح اس حدیث کے مندرجہ ذیل راوی ہوئے۔

1- حضرت ابو بکر، 2- حضرت عمر، 3- حضرت عثمان، 4- حضرت علی، 5- حضرت عباس، 6- حضرت عائشہ، 7- حضرت طلحہ، 8- حضرت زبیر، 9- حضرت عبدالرحمن بن عوف، 10- حضرت سعد بن ابی وقاص، 11- حضرت ابو ہریرہ ؓ۔

ان میں سے آٹھ صحابہ کرام عشرہ مبشرہ ہیں۔ اب خاندان اہلیت کی ایک اہم گواہی ملاحظہ کیجیے۔ حضرت زبیر بن علی بن حسین بن علی ؓ نے فرمایا، اگر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی جگہ ہوتا تو میں بھی فدک کے متعلق وہی فیصلہ کرتا جو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا تھا۔ (سنن اکبریٰ للبیہقی ج ۲: ۳۰۴)

شیعہ حضرات کی مشہور و معتبر کتاب اصول کافی میں امام جعفر صادق ؓ نے بھی اس حدیث کو روایت کیا ہے کہ حضور ؐ نے فرمایا، ”علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ بیشک انبیاء کسی کو درہم و دینار (یعنی مال) کا وارث نہیں بناتے بلکہ علم کا وارث بناتے ہیں“۔

(اصول کافی صفحہ ۱۸)

کیا سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہوئیں؟

شیعہ حضرات بخاری کی ایک روایت سے یہ سو سوہ اندازی کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا فدک نہ ملنے پر سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ سے ناراض ہو گئی تھیں اور زندگی بھر ان سے قطع تعلق کیے رکھا۔ یہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کے اسوۂ جمیلہ پر عظیم بہتان ہے۔

رسول کریم ؐ نے تین دن سے زیادہ قطع تعلق کرنے کو حرام کیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا دنیاوی مال نہ ملنے کے غم میں چھ ماہ تک حضرت ابو بکر ؓ سے ناراض رہی ہوں، جبکہ حضرت ابو بکر ؓ نے فدک کی آمدن دینے سے قطعاً انکار نہیں کیا بلکہ حدیث رسول ؐ سنا کر یہ فرمایا کہ اس کی آمدن آل رسول ؐ پر خرچ کی جائے گی۔ کوئی مومن یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ حدیث رسول ؐ سن کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا ناراض ہوئی ہوں۔

اب ہم اس روایت کے الفاظ پر غور کرتے ہیں۔ فَوَجَدَتْ فَاطِمَةَ عَالِي أَبِي بَكْرٍ فِي ذَلِكَ فَهَجَرَتْهُ فَلَمْ تَكَلِّمَهُ حَتَّى تُوَفِّيَتْ۔

”حضرت فاطمہ اس پر حضرت ابو بکر سے ناراض ہو گئیں اور ان سے اس کے متعلق کلام نہ کیا یہاں تک کہ انتقال کر گئیں۔“

دوسری روایت کے الفاظ ہیں، فغضببت فاطمة و هجرت ابابکر۔ ”پس ناراض ہوئیں فاطمہ اور ابو بکر سے اس معاملے میں بات کرنا چھوڑ دی۔“

یہ بات قابل غور ہے کہ قَوَّ جَدَّتْ بِهَا فَعَضَبَتْ کے الفاظ تینوں حضرات فاطمہ، رضی اللہ عنہا کے ہیں اور نہ ہی حضرت عائشہ صدیقہ، رضی اللہ عنہا کے بلکہ یہ بعد کے راویوں میں سے کسی کی قیاس آرائی ہے۔ راوی نے ظاہری واقعہ سے جو نتیجہ اخذ کیا وہ اس نے بیان کر دیا۔ راوی کا عادل اور ثقہ ہونا اپنی جگہ لیکن نتیجہ اخذ کرنا غلط نہیں پڑتی ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے حدیث رسول سن کر حضرت فاطمہ، رضی اللہ عنہا کا خاموش ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ حدیث رسول ﷺ سن کر مطمئن ہو گئیں۔ اور ترکیب کلام کی حقیقت یہ ہے کہ سیدہ فاطمہ، رضی اللہ عنہا نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اس مال کے بارے میں پھر گفتگو نہ کی۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو عمر و بن شیبہ سے مروی ہے،

فلم تكلمه في ذلك المال - حضرت سیدہ، رضی اللہ عنہا نے اس مال کے بارے میں پھر کبھی کوئی گفتگو نہ کی۔ (زہد القاری ج ۳ ص ۱۹۰)

ویسے بھی سیدہ فاطمہ، رضی اللہ عنہا کو کون سے بہت کم میل جول رکھتیں اور نبی کریم ﷺ کے وصال کے بعد ان کی جدائی کے غم میں تو آپ علی علیہ السلام اور کوشہ نشین ہو گئی تھیں۔ حضرت فاطمہ، رضی اللہ عنہا جب بیمار ہوئیں تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور انکی رضامندی چاہتے ہوئے فرمایا،

میرا تمام مال اور میری تمام اولاد سب اللہ تعالیٰ، اس کے رسول ﷺ اور اہلبیت کی رضا کے لیے وقف ہے۔ یہ سن کر حضرت فاطمہ، رضی اللہ عنہا راضی ہو گئیں۔ امام بیہقی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی سند صحیح ہے۔ (سنن الکبریٰ ج ۶ ص ۳۱۰)

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا حضرت سیدہ فاطمہ، رضی اللہ عنہا کی رضامندی چاہنا بالکل ویسے ہی ہے جیسے کوئی کسی جاں بہ لب مریض سے معافی کا خواستگار ہو کر اس کی رضا مندی اور دلجوئی چاہتا ہے اور مریض اپنے راضی ہونے کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ واقعی حقیقت میں کوئی ناراضگی تھی۔ فدک کے مسئلہ میں حضرت فاطمہ، رضی اللہ عنہا کا حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے راضی رہنا تو شیعہ حضرات کی کتب سے بھی ثابت ہے۔

شیعہ عالم کمال الدین عیثم البحرانی لکھتے ہیں، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جب یہ فرمایا، ”میں اللہ کو گواہ بنا کر عہد کرتا ہوں کہ فدک کے معاملے میں وہی کچھ کروں گا جس طرح رسول کریم ﷺ کیا کرتے تھے“، یہ سن کر حضرت سیدہ راضی ہو گئیں اور اس بات پر عمل پیرا رہنے کا پختہ وعدہ کر لیا۔ (شرح نوح البلاغہ جلد ۵ ص ۱۰۷)

ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہے کہ جب حضرت فاطمہ، رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خبر نہ دی۔ اس کی وجہ شارحین نے یہ لکھی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی زوجہ حضرت اسماء، رضی اللہ عنہا حضرت فاطمہ، رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کے لیے پہلے ہی سے وہاں موجود تھیں بلکہ انہیں غسل و کفن بھی آپ ہی نے دیا۔ اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اطلاع نہیں دی کہ حضرت اسماء، رضی اللہ عنہا نے اطلاع کر دی ہوگی۔ بلکہ بعض روایات سے یہ بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہی حضرت سیدہ، رضی اللہ عنہا کی نماز جنازہ پڑھائی۔

طبقات ابن سعد میں امام شعی اور امام ابو نعیم شعی بہما سے دو روایتیں موجود ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کی نماز جنازہ حضرت ابو بکر نے پڑھائی۔ الحمد للہ! ان دلائل سے ثابت ہو گیا کہ حضرت فاطمہ، رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے درمیان کسی قسم کی ناراضگی نہیں تھی اور وہ رحمۃً بینہم کے مظہر تھے۔

اب آخر میں ایک دلچسپ واقعہ پیش خدمت ہے جسے امام نووی رحمہ اللہ نے شرح صحیح مسلم میں تحریر کیا ہے۔

جب بنو عباس کا پہلا خلیفہ سفاح پہلا خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہوا تو ایک شخص قرآن پاک گلے میں لٹکائے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، اے خلیفہ! میرے اور میرے دشمن کے درمیان اس قرآن کے مطابق فیصلہ کر۔ خلیفہ نے پوچھا، تیرا دشمن کون ہے؟ وہ بولا، میرا دشمن ابو بکر ہے جس نے اہلبیت کو فدک نہیں دیا۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا ابو بکر نے تجھ پر ظلم کیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر پوچھا، کیا اسکے بعد والوں نے بھی ظلم کیا؟ اس نے کہا، ہاں۔ خلیفہ نے پوچھا، کیا عثمان نے



بھی؟ کہا، ہاں۔ پوچھا، کیا علی نے بھی ظلم کیا؟ اب اس پر سکتہ طاری ہو گیا اور وہ کوئی جواب نہ دے سکا۔

حق یہ ہے کہ جس طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہم نے فدک کی آمدن کو صرف کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے دور خلافت میں انہی کی پیروی

کی اور ازراہ وراثت کسی کو اس میں سے کچھ نہ دیا۔ اگر فدک وراثت ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ پر اس کی تقسیم فرض تھی لیکن سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور بعد کے ائمہ اہلبیت نے سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ عنہم کے طریقے کی پیروی کر کے یہ ثابت کر دیا کہ حدیث ”لا نورث ما ترکنا صدقۃ“ حق ہے۔

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کب بیعت ہوئے؟

امام بخاری اور امام مسلم نے ابن شہاب زہری کی سند سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چھ ماہ تک حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت نہیں کی۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا وصال ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر سے بیعت کر لی۔

اسی روایت میں مذکور ہے کہ ”حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر فرمایا، اے ابو بکر! ہم آپ کی فضیلت کو پہچانتے ہیں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے (یعنی خلافت و مرتبہ) اسے بھی جانتے ہیں اور اسے آپ سے چھیننا نہیں چاہتے لیکن آپ نے خود ہی یہ (حکومت) حاصل کر لی (یعنی ہمیں مشورہ میں شریک نہیں کیا) حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت کی بنا پر ہم بھی اس (مشورے) میں اپنا حق سمجھتے تھے۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا مجھے اپنے قرابت داروں سے زیادہ محبوب ہے اور جن اموال کی وجہ سے میرے اور تمہارے درمیان اختلاف ہوا ہے، میں نے ان میں سے کسی حق کو ترک نہیں کیا۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو کام کرتے ہوئے دیکھا میں نے انہیں ترک نہیں کیا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا، میں دو پہر کے بعد بیعت کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ ظہر کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے منبر پر کلمہ شہادت پڑھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بیعت میں تاخیر کرنے کا ذکر بیان کیا۔

پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ شہادت پڑھ کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے حق کی عظمت بیان کی اور یہ بتایا کہ انکی تاخیر کا سبب یہ نہیں کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے خلاف خلافت میں رغبت رکھتے تھے اور نہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی اس فضیلت کا انکار کرتے تھے جو رب تعالیٰ نے انہیں دی ہے بلکہ ہم یہ سمجھتے تھے کہ اس حکومت (کے مشورے) میں ہمارا بھی کچھ حق ہے جس سے انہوں نے ہمیں محروم کر دیا (یعنی ہمارے مشورے کے بغیر خلیفہ کا انتخاب کر لیا) اس سے ہمیں دکھ پہنچا۔

اس بیان سے مسلمان خوش ہو گئے اور سب نے کہا، آپ نے درست فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب اس معروف کام کو اختیار کر لیا تو مسلمان پھر ان کی طرف مائل ہو گئے۔ (صحیح بخاری کتاب الجہاد، صحیح مسلم کتاب الجہاد)

امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے متعلق اپنی تحقیق یوں بیان کی ہے، ”زہری کی یہ روایت منقطع ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے وصال تک حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت نہیں کی تھی۔ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت صحیح ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بھی عام بیعت کے وقت ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی تھی۔

مذکورہ روایت سے شاید زہری کی مراد یہ ہو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیعت کرنے کے بعد چھ ماہ تک گھر میں (حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری میں) مصروف رہے اور اس کے بعد دوبارہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور بیعت کے تقاضے پورے کیے۔“

امام بیہقی رحمہ اللہ نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی جس روایت کا ذکر کیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہے، آپ نے فرمایا،

جب رسول کریم ﷺ کا وصال ہوا تو انصار میں سے ایک شخص نے کہا، اے مہاجرین! جب رسول اللہ ﷺ تم میں سے کسی شخص کو کہیں کا عامل بناتے تو ہم میں سے بھی ایک شخص کو اس کے ساتھ عامل بناتے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خلافت کے لیے بھی دو شخص مقرر کیے جائیں، ایک تم میں سے ہو اور ایک ہم میں سے۔ پھر دوسرے انصاری مقررین نے بھی اسی طرح کی تقاریر کیں۔ ان کے بعد حضرت زید بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور فرمایا،

رسول اللہ ﷺ مہاجرین میں سے تھے لہذا ان کا خلیفہ بھی مہاجرین میں سے ہونا چاہیے اور جس طرح ہم رسول کریم ﷺ کے انصار تھے اس طرح ہم ان کے خلیفہ کے بھی انصار و مددگار رہیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، یہ تمہارے صاحب اور امیر ہیں، ان سے بیعت کر لو۔ پھر سب نے بیعت کر لی۔

جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منبر پر بیٹھ گئے اور لوگوں پر نظر ڈالی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نظر نہیں آئے۔ آپ نے ان کے متعلق دریافت کیا۔ بعض انصاری انہیں بلا کر لائے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے رسول اللہ ﷺ کے چچا زاد اور داماد! کیا آپ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ! مجھے ملامت نہ کریں۔ پھر انہوں نے بیعت کر لی۔

پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مجمع میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کو نہ پایا تو لوگ انہیں بھی بلا کر لائے۔ آپ نے ان سے بھی فرمایا، اے رسول اللہ ﷺ کے چھوٹے زاد اور آپ کے مددگار! کیا آپ مسلمانوں کے اتحاد کو توڑنا چاہتے ہیں؟

انہوں نے بھی کہا، اے رسول اللہ ﷺ کے خلیفہ! مجھے ملامت نہ کریں۔ پھر انہوں نے بھی سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی۔

امام حاکم رحمہ اللہ نے اس حدیث کو روایت کر کے فرمایا، یہ حدیث امام بخاری و امام مسلم جہاد کی شرط کے مطابق صحیح ہے۔ (المستدرک ج ۳ ص ۷۶)

امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، شرح بخاری میں فرماتے ہیں، امام ابن حبان اور دیگر محدثین نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ وغیرہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شروع ہی میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بیعت کر لی تھی اور یہ روایت بخاری و مسلم کی اس روایت سے زیادہ صحیح اور اس پر راجح ہے۔ اگر بخاری و مسلم کی مذکورہ روایت کو تسلیم کیا جائے تو اس سے مراد یہ ہوگی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری میں مشغول رہنے کی وجہ سے چونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اکثر وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی مجلس سے غیر حاضر رہے تھے اس لیے لوگوں کے اطمینان کی خاطر آپ نے دوبارہ آ کر بیعت کی تجدید کی۔ (فتح الباری ج ۷ ص ۳۹۵)

سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو خلافت کا اصل حقدار جانتے تھے، یہ بات متعدد روایات سے ثابت ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کہا، ہمیں اس بات سے تکلیف پہنچی کہ ہمیں خلافت کے مشورے میں شریک نہیں کیا گیا حالانکہ ہم خوب جانتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے سب سے زیادہ حقدار ہیں کیونکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے یارِ غار ہیں، ہم ان کے شرف و بزرگی کو بچپانتے ہیں، رسول اللہ ﷺ نے اپنی حیاتِ ظاہری میں آپ کو نمازوں کی امامت کا حکم فرمایا تھا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۳۳، حاکم)

اس بات کی تائید سیدنا امام حسن رضی اللہ عنہ کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا،

”جب نبی کریم ﷺ کا وصال ہوا تو ہم نے خلافت کے متعلق غور کیا۔ ہم نے دیکھا کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نمازوں کے لیے ہم سب کا امام بنایا تھا۔ پس ہم اپنی دنیا یعنی خلافت کے معاملے میں اس شخص سے راضی ہو گئے جس پر ہمارے آقا و ولی ﷺ ہمارے دین کے معاملے میں راضی تھے۔“

(طبقات ابن سعد ج ۳: ۱۸۳)

چند شہادت کا ازالہ:

روافض یہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نو ہجری میں پہلے حضرت ابو بکر ﷺ کو حج کا امیر بنایا تھا پھر آپ کو معزول کر کے حضرت علی ﷺ کو امیر حج مقرر فرما دیا۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ دراصل اس وقت تک کعبہ میں مشرکین برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ اس لیے نبی کریم ﷺ نے حضرت ابو بکر ﷺ کو امیر حج بنا کر بھیجا اور انہیں حج کے تحریری احکام بھی عطا فرمائے۔ پھر ان کے بعد حضرت علی ﷺ کو بھیجا تا کہ وہ مشرکین کو سورتوں کی ابتدائی آیات پڑھ کر سنا دیں۔

جب سیدنا علی ﷺ سیدنا ابو بکر ﷺ کے قریب پہنچے تو آپ نے پوچھا، امیر بن کر آئے ہو یا مامور؟ حضرت علی ﷺ نے عرض کی، میں مامور ہوں۔ آٹھ ذوالحجہ کو سیدنا ابو بکر ﷺ نے حج کا خطبہ دیا اور لوگوں کو حج کے مسائل سکھائے۔ دس ذوالحجہ کو سیدنا علی ﷺ نے لوگوں کو سورتوں کی آیات سنائیں اور حضور ﷺ کے احکام پہنچائے۔ (تفسیر روح المعانی)

عربوں میں معروف رواج تھا کہ جب کوئی معاہدہ کرنا یا توڑنا ہوتا تو یہ کام یا تو صلح معاملہ خود کرنا یا اس کا کوئی قریبی رشتہ دار بنا کہ شک و شبہ نہ رہے۔ اسی لیے نبی کریم ﷺ نے مشرکوں سے برأت کا اعلان کرنے کے لیے حضرت علی ﷺ کو بھیجا۔

یہ بھی ذہن نشین رہے کہ یہ اعلان کرنے میں حضرت علی ﷺ تنہا نہیں تھے۔ بخاری و مسلم میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ﷺ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابو بکر ﷺ نے ایک جماعت کے ساتھ یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا کہ اس سال کے بعد کوئی مشرک حج نہ کرے اور نہ کوئی برہنہ طواف کرے۔

ترندی و حاکم و بیہقی کی روایت میں ہے کہ حضرت علی ﷺ یہ اعلان کرتے اور جب وہ تھک جاتے تو حضرت ابو بکر ﷺ یہ اعلان کرتے۔ ان دلائل سے معلوم ہوا کہ اس سال امیر حج سیدنا ابو بکر ﷺ ہی تھے اور سیدنا علی ﷺ عربوں کے مذکورہ رواج کو پورا کرنے آئے تھے۔ اس کی دلیل یہ بھی ہے کہ سیدنا ابو بکر ﷺ نے اپنے مقرر کردہ اعلان کرنے والوں کو معزول نہیں کیا بلکہ ان کو سیدنا علی ﷺ کا شریک کار بنا دیا۔

روافض کا دوسرا شبہ یہ ہے کہ حضور ﷺ نے مرض الوصال میں حضرت ابو بکر ﷺ کو پہلے امام مقرر فرمایا تھا مگر بعد میں امامت سے معزول کر دیا تھا۔ لعنة اللہ علی الکاذبین۔

صحیح بخاری میں حضرت انس ﷺ سے مروی ہے کہ پیر کے دن حضرت ابو بکر ﷺ صحابہ کو نماز فجر پڑھا رہے تھے کہ اچانک رسول کریم ﷺ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کا پردہ اٹھا کر لوگوں کو صفیں باندھے دیکھا تو تبسم فرمایا۔

حضرت ابو بکر ﷺ اس خیال سے پیچھے ہٹنے لگے کہ شاید آقا و مولیٰ ﷺ نماز میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ اس پر حضور ﷺ نے ہاتھ مبارک کے اشارے سے فرمایا، اپنی نماز پوری کرو۔ پھر آپ نے حجرے کا پردہ گرا دیا۔ اور اسی روز چاشت کے وقت آپ کا وصال ہو گیا۔

اس حدیث پاک سے ثابت ہو گیا کہ سیدنا ابو بکر ﷺ حضور ﷺ کے وصال ظاہری تک امامت فرماتے رہے اور اس بارے میں کسی نے بھی اختلاف نہیں کیا اور اسی بات کو سیدنا علی ﷺ نے آپ کی خلافت کی دلیل سمجھ کر آپ سے بیعت کی جیسا کہ پہلے مذکور ہو چکا۔ ایک روایت کے مطابق آپ ﷺ کی بیماری کے ایام میں سیدنا ابو بکر ﷺ نے مترہ (۱۷) نمازوں کی امامت فرمائی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ آقا و مولیٰ ﷺ نے اپنی امت میں سے سوائے حضرت ابو بکر ﷺ کے کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی البتہ ایک سفر میں حضرت عبدالرحمن بن عوف ﷺ کے پیچھے ایک رکعت ادا فرمائی ہے۔ یہ سیدنا ابو بکر ﷺ کا ایسا اعزاز ہے جو دیگر خلفائے راشدین میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوا۔

روافض یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی ﷺ اور ائمہ اہلبیت ﷺ نے سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کی جو تعریف کی ہے وہ محض تقیہ کے طور پر ہے۔ یعنی جو وہ لوگوں سے کہتے تھے، انکے دل میں اس کے برعکس ہوتا تھا۔ (معاذ اللہ)

بلاشبہ ایسا عقیدہ شیر خد اور ائمہ اہلبیت ﷺ پر عظیم بہتان ہے۔ امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابو جحیفہ محبت کی بناء پر حضرت علی ﷺ کو اس امت کا افضل ترین

شخص کہا کرتا۔ حضرت علیؑ کو یہ بات معلوم ہوئی کہ ابو جحیفہ لوگوں کی مخالفت کی وجہ سے بہت مغموم ہے تو آپ نے اسے گھر بلا کر فرمایا، میں تجھے اس امت کے افضل ترین شخص کے بارے میں بتاؤں؟ وہ حضرت ابو بکرؓ ہیں پھر حضرت عمرؓ۔

ابو جحیفہؓ کہتے ہیں کہ جب سے حضرت علیؓ نے یہ بات مجھ سے بالمشافہ کہی، میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کر لیا کہ جب تک میں زندہ ہوں، ان کی اس حدیث کو نہیں چھپاؤں گا۔

جو کوئی حضرت علیؓ کی اس بات کو تقیہ کہتا ہے وہ بے عقل اور کذاب ہے۔ یہ بات آپ نے علیحدگی میں اپنے زمانہ خلافت میں کہی ہے پھر آپ نے اسے کوفہ کے منبر پر بھی بیان فرمایا ہے اور کوفہ میں آپ اہل بصرہ کی جنگ سے فراغت کے بعد تشریف لائے ہیں۔ یہ بات نہایت قوی اور زبردست نافذ ہونے والا حکم ہے کیونکہ یہ بات آپ نے حضرات شیخین کے وصال کے طویل عرصہ بعد فرمائی ہے۔

جب امام باقرؓ نے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما سے محبت کا اظہار کیا تو کسی نے کہا، لوگوں کا خیال ہے کہ آپ یہ بات تقیہ کے طور پر کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، زندوں سے ڈرا جاتا ہے نہ کہ مردوں سے۔ اللہ تعالیٰ ہشام بن عبد الملک کے ساتھ اس طرح سلوک کرے۔

پھر امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اس طویل القدر امام نے ہشام کے لیے بددعا کر کے منحوس تقیہ کا باطل ہونا واضح کیا کیونکہ ہشام آپ کے زمانے کا طاقت و شوکت والا بادشاہ تھا۔ جب آپ اس سے نہیں ڈرے جس کی حکومت و شوکت اور قوت و قہر سے لوگ ڈرتے تھے تو آپ ان سے کیسے ڈر و خوف رکھتے جو وصال پا چکے تھے اور جنہیں ظاہری طور پر حکومت و اقتدار بھی حاصل نہیں تھا۔

جب امام باقرؓ کا یہ حال ہے تو حضرت علیؓ کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے جبکہ ان کے اور امام باقرؓ کے درمیان قوت و شجاعت، کثرت تعدد و تیاری اور سخت جنگ کرنے میں کوئی نسبت ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے تھے۔

حق یہی ہے کہ سیدنا علیؓ سے تو اتر کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی مدح و ثنا فرمائی ہے اور انہیں امت میں افضل ترین قرار دیا ہے۔

(الصواعق المحرقة: ۹۲، ۹۱، ملخصاً)

سہائی فتنہ کی ابتدا:

ابن عساکر رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ عبد اللہ بن سبا ایک یمنی سیاہ فام لونڈی کا بیٹا ہے۔ یہ یہودی تھا، اس نے اپنا اسلام ظاہر کر کے مسلمانوں میں شرفنا و پھیلانے کے لیے کئی شہروں کے دورے کیے۔

علماء کہتے ہیں، یہ اپنی یہودیت کے زمانے میں یوشع بن نونؑ کے بارے میں غلو کرتے ہوئے کہا کرتا تھا کہ وہ حضرت موسیٰؑ کے وصی ہیں۔ اسلام ظاہر کر کے اسی قسم کی بات یہ حضرت علیؓ کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ حضورؐ کے وصی ہیں۔ یہ پہلا شخص ہے جس نے یہ مشہور کیا کہ حضرت علیؓ کی امامت کا عقیدہ رکھنا فرض ہے۔ اس نے حضرت علیؓ کے مخالفین پر اعلانیہ تہمہ لگایا اور ان کو کافر کہا۔

حافظ ابن حجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علیؓ سے عرض کیا گیا کہ بعض لوگوں نے سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کو اس لیے برا کہنے کی جرأت کی ہے کہ وہ اس معاملے میں آپ کو اپنا ہم خیال سمجھتے ہیں۔ یہ نظر یہ رکھنے والوں میں عبد اللہ بن سبا بھی ہے جس نے سب سے پہلے اس خیال کا اظہار کیا تو حضرت علیؓ نے فرمایا،

”میں ان کے متعلق اپنے دل میں ایسے خیالات رکھنے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ جو شخص ان کے متعلق خوبی اور اچھائی کے سوا کوئی اور بات اپنے دل میں پوشیدہ رکھتا ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہو“۔

پھر آپ نے ابن سبا کو شہر بدر کر کے مدائن کی طرف بھیج دیا۔ ائمہ کہتے ہیں کہ ابن سبا یہودی تھا جس نے اسلام ظاہر کیا تھا۔ یہروافض کے گروہ کا بڑا راہنما تھا۔ ان لوگوں کو حضرت علیؑ نے اس وقت شہر بدر کیا جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حضرت علیؑ میں الوہیت پائی جاتی ہے۔ (الصواعق الخرقية: ۹۵)

ابوالجلاس کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علیؑ کو ابن سبا سے یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ ”اللہ کی قسم! مجھے رسول کریم ﷺ نے کوئی ایسی راز کی بات نہیں بتائی جس کو کسی سے چھپایا ہو، اور میں نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد خود سنا کہ قیامت سے پہلے تمیں جھوٹے دجال ہونگے، تو بھی انہی میں سے ایک ہے۔“ (لسان المیزان ج ۳: ۲۹۰)

امام دارقطنی رحمہ اللہ نے ایک طویل روایت تخریری کی ہے جس کے آخر میں ہے کہ حضرت علیؑ نے منبر پر بیٹھ کر حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کی مدح و ثناء فرمائی اور آخر میں فرمایا،

”اُس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتا اور جان کو پیدا کرتا ہے، ان دونوں سے صاحب فضیلت مومن محبت کرتا ہے جبکہ بد بخت اور دین سے نکل جانے والا ان سے بغض اور مخالفت رکھتا ہے۔“

بعض روایات کے مطابق یہ بھی فرمایا، ”لو کون لو! اگر مجھے یہ اطلاع پہنچی کہ فلاں شخص مجھے حضرات شیخین پر فضیلت دیتا ہے تو میں اسے بہتان لگانے والے کی حد یعنی اسی (۸۰) ذرے لگاؤں گا۔“ (الصواعق الخرقية: ۹۰، ۹۶)

شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابن سبا نے:-

اولاً: لوگوں کو حضرت علیؑ کو سب سے افضل جاننے کی دعوت دی۔

ثانیاً: صحابہ اور خلفائے راشدین کو کافر و مرتد قرار دینے کی بات کی۔

ثالثاً: لوگوں کو حضرت علیؑ کے خدا ہونے کی دعوت دی۔

اس نے اپنے پیروؤں میں سے ہر ایک کو اسکی استعداد کے مطابق اغوا و اضلال کے جال میں پھانسا۔ پس وہ علی الاطلاق رافضیوں کے تمام فرقوں کا مقتدا ہے۔ (تحفہ اثنا عشریہ: ۹۷)

☆☆☆☆

سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ:

سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، اُمّ المؤمنین سیدہ اُمّ حبیبہ رضی اللہ عنہا کے بھائی اور کاتبِ وحی الہی ہیں۔ ۷ھ میں اسلام قبول کیا مگر اپنے والدین کے خوف سے اپنے اسلام کو مخفی رکھا۔ ۸ھ میں فتح مکہ کے بعد جب آپ کے والدین اسلام لے آئے تو آپ نے بھی اپنے اسلام کا اظہار کر دیا۔ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں غزوہ حنین میں شریک ہوئے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ باگاہ نبوی میں وحی کی کتابت اور خطوط کی کتابت کا فریضہ انجام دیا کرتے تھے۔ آپ سے ایک سو تریسٹھ (۱۶۳) احادیث مروی ہیں۔ سیدنا ابن عباس، ابن عمر، ابن زبیر اور دیگر صحابہ و تابعین کرام رضی اللہ عنہم آپ سے احادیث روایت کرتے ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم رضی اللہ عنہما کی راویوں کے متعلق سخت شرائط ہیں، انہوں نے بھی آپ سے صحیحین میں کئی احادیث روایت کی ہیں۔

حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، الہی! معاویہ کو حساب کتاب سکھا دے اور اس کو عذاب سے محفوظ رکھ۔

(تاریخ الخلفاء: ۲۸۷، مسند احمد)

آپ فہم و تدبیر، علم و دانائی اور صبر و تحمل میں بڑے مشہور تھے۔ ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے یہ دعا فرمائی، ”اے اللہ! معاویہ کو ہدایت دینے والا اور ہدایت پانٹنے والا بنا اور اس کے ذریعے لوگوں کو ہدایت عطا فرما“۔ (ترمذی) یہ حدیث صحیح ہے۔

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن غیب جاننے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے معاویہ جب تجھے کسی جگہ کا حاکم بنایا جائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اور عدل و انصاف پر قائم رہنا۔ مجھے اس وقت سے یقین ہو گیا تھا کہ مجھے حکومت کی ذمہ داری سونپی جائے گی۔ (ازالۃ الخفاء ج ۳: ۵۱۵، احمد، ابویعلیٰ)

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ مجھے خلافت ملنے کی اُس وقت سے امید پیدا ہو گئی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا تھا کہ ”اے معاویہ! جب تم بادشاہ بن جاؤ تو لوگوں سے اچھی طرح پیش آنا“۔

(تاریخ الخلفاء: ۲۸۷، ابن ابی شیبہ، طبرانی فی الکبیر)

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں دمشق فتح ہونے کے بعد وہاں کا گورنر آپ کے بڑے بھائی حضرت یزید بن ابوسفیان رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا۔ ان کے انتقال کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو انکی جگہ گورنر بنا دیا۔ بعد میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دورِ خلافت میں آپ کو پورے شام کا گورنر بنا دیا۔ آپ کی حکمرانی کا عرصہ شمار کیا جائے تو ۷ھ سے ۶۰ھ تک تینتالیس سال آپ نے کامیاب حکومت کی ہے۔

سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے ان سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قصاص کا مطالبہ کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ ابو مسلم خولانی رضی اللہ عنہ کچھ لوگوں کے ہمراہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان سے دریافت کیا، آپ علی رضی اللہ عنہ سے جنگ کر رہے ہیں، کیا آپ خود کو انکے ہم رتبہ سمجھتے ہیں؟ آپ نے جواب دیا،

خدا کی قسم! مجھے یقین ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ مجھ سے افضل و برتر ہیں اور میری نسبت حکومت و خلافت کے زیادہ مستحق ہیں۔ مگر کیا تم نہیں جانتے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ظلم سے شہید کیے گئے اور میں ان کا چچا زاد ہوں۔ میں ان کا ولی اور ان کے خون کے قصاص کا طالب ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کرو کہ وہ

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو میرے حوالے کر دیں، میں فوراً ان سے بیعت کر لوں گا۔ (البدایہ والنہایہ)

معلوم ہوا کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت سے کوئی اختلاف نہیں تھا۔

شرح بن عبید اللہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضرت علیؑ سے کہا، اے امیر المؤمنین! اہل شام پر لعنت کیجیے۔ یہ سنتے ہی حضرت علیؑ نے فرمایا، اہل شام پر لعنت نہیں کرنی چاہیے کیونکہ میں رسول کریمؐ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ شام میں ابدال ہیں۔ (احمد، مشکوٰۃ)

سیدنا عمر فاروقؓ سے روایت ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا، میں نے ایک نور کا ستون دیکھا جو میرے سر کے نیچے سے نکل کر بلند ہوتا ہوا ملک شام پر جا کر ٹھہر گیا۔ (مشکوٰۃ، دلائل النبوة للبیہقی)

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آقا مومنیؑ نے فرمایا، خلافت مدینہ منورہ میں اور بادشاہت شام میں ہوگی۔ (مشکوٰۃ، دلائل النبوة للبیہقی)

حضرت امیر معاویہؓ تو اول ملوک اسلام اور سلطنت محمدیہؐ کے پہلے بادشاہ ہیں۔ اس کی طرف تو رات مقدس میں بھی اشارہ ہے کہ: مولدہ بمکہ ومہاجرہ طیبة وملكہ بالشام۔ ”وہ نبی آخر الزماںؐ مکہ میں پیدا ہوگا اور مدینہ کو ہجرت فرمائے گا اور اس کی سلطنت شام میں ہوگی۔“ تو امیر معاویہؓ کی بادشاہی اگرچہ سلطنت ہے مگر کس کی؟ محمد رسول اللہؐ کی۔ (اعتقاد الاحباب: ۳۵)

عروہ بن رُویمؓ سے روایت ہے کہ ایک اعرابی بارگاہ نبویؐ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے محمدؐ! مجھ سے کشتی لڑو۔ اس پر حضرت معاویہؓ نے اس سے کہا، میں تجھ سے کشتی لڑوں گا۔ نبی کریمؐ نے فرمایا، معاویہؓ کبھی مغلوب نہ ہوگا۔ چنانچہ کشتی ہوئی اور معاویہؓ نے اسے پچھاڑ دیا۔ جب جنگ صفین ہو چکی (تو عروہؓ نے یہ بات بتائی) اس پر حضرت علیؓ نے عروہ سے فرمایا، اگر تو اس حدیث کو مجھ سے ذکر کر دیتا تو میں معاویہ سے جنگ نہ کرتا۔ (ازلۃ الخفاء ج ۳: ۵۱۶، ابن عساکر)

جنگ صفین سے واپسی پر سیدنا علیؓ نے فرمایا، اے لوگو! تم معاویہ کی حکومت کو ناپسند نہ کرو۔ یاد رکھو! اگر تم نے معاویہ کو کھو دیا تو تم دیکھو گے کہ لوگوں کے کندھوں سے انکے سر اس طرح گریں گے جیسے اندرائن کے پھل گرتے ہیں۔

(ازلۃ الخفاء ج ۳: ۵۳۷، البدایہ والنہایہ)

حضرت علیؓ جنگ صفین کے دن اپنے ہونٹ چبا رہے تھے کہ اگر میں جان لیتا کہ صورت حال ایسی ہو جائے گی تو میں جنگ کے لیے نہ نکلتا۔

(ازلۃ الخفاء ج ۳: ۵۳۶)

حضرت مغیرہؓ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہؓ کے پاس جب سیدنا علیؓ امر ترضیؓ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ زار و قطار رونے لگے۔ آپ کی اہلیہ نے کہا، زندگی میں تو آپ ان سے لڑتے رہے ہیں، اب ان کی شہادت کی خبر سن کر رو کیوں رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا، کاش تمہیں معلوم ہوتا کہ اس امت نے آج کس قدر عظیم علم و فضل اور فقہ کو کھو دیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ)

سیدنا علیؓ کی شہادت کے بعد سیدنا امام حسنؓ چھ ماہ خلیفہ رہے۔ اگر چاروں خلفائے راشدین کی خلافت کی مدت کو جمع کیا جائے تو یہ ساڑھے اسی سال کا عرصہ بنتا ہے اور اگر اس میں حضرت حسنؓ کی خلافت کا عرصہ یعنی چھ ماہ بھی جمع کر لیا جائے تو کُل مدت پورے تیس سال ہو جاتی ہے جو کہ سرکارِ دو عالمؐ کے فرمانِ عالیشان کے مطابق خلافتِ راشدہ کی کُل مدت ہے۔

حضورؐ کا ارشاد ہے، ”میرے بعد خلافت تیس سال رہے گی پھر ملوکیت ہو جائے گی۔“ اس حدیث کو تمام اصحابِ سنن نے لکھا اور ابنِ حبانؒ نے اس کو صحیح کہا۔

امام حسنؓ نے چھ ماہ بعد حضرت امیر معاویہؓ سے چند شرائطِ صلح کر لی اور یوں آقا مومنیؑ کا وہ عجزہ ظاہر ہو گیا جو آپ نے فرمایا تھا کہ ”میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا۔“ جب آپ امیر معاویہؓ کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گئے تو ایک شخص نے کہا، آپ نے مسلمانوں کو ذلیل کر دیا۔ آپ نے فرمایا، یوں مت کہو، کیونکہ میں نے آقا مومنیؑ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ شب و روز کا سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ معاویہ

حاکم بن جائے گا۔ پس مجھے یقین ہو گیا کہ تقدیر الہی واقع ہو گئی ہے تو میں نے یہ پسند نہیں کیا کہ اپنی حکومت کے لیے دونوں جانب کے مسلمانوں میں قتال اور خونریزی کراؤں۔ (البدایہ والنہایہ ج ۸)

علامہ سیوطی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ آپ کی بیوی جعدہ کو یزید نے خفیہ طور پر یہ پیغام بھیجا کہ اگر حضرت حسن ؑ کو زہر دیدو تو میں تم سے نکاح کر لوں گا۔ اس فریب میں آ کر بد نصیب جعدہ نے آپ کو زہر دیدیا جس سے آپ شہید ہو گئے۔ جعدہ نے یزید کو لکھا کہ اپنا وعدہ پورا کرے تو اس نے جواب دیا، جب میں تجھ کو حسن کے نکاح میں کو ارا نہیں کر سکا تو اپنے نکاح میں کس طرح کو ارا کروں گا۔ (تاریخ الخلفاء: ۲۸۴)

امام حسین ؑ نے بہت کوشش کی کہ آپ زہر دینے والے کی نشاندہی کر دیں لیکن آپ نے نام بتانے کی بجائے یہ فرمایا، ”مجھے جس پر گمان ہے اگر وہ اصل میں قاتل نہ ہو تو کوئی بیگناہ قتل ہو جائے گا اور اگر وہی میرا قاتل ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت انتقام لینے والا ہے۔“ آپ کی شہادت ۵۰ھ میں ہوئی۔ بعض متعصب و گمراہ لوگ حضرت امیر معاویہ ؓ کو باغی قرار دیتے ہوئے ان پر لعن طعن کرتے ہیں۔ باغی کے متعلق قرآن عظیم کا حکم ہے، فَفَقَاتِلُوا آلَ بَنِي نَبِيِّكَ حَتَّى تَقْتُلُوهُمُ أَوْ يَهْرَبُوا مِنْكُمْ ذَٰلِكَ عِلَّةُ الْكُفْرِ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ وَاللَّهِ الْعَلِيمُ الْغَنِيُّ۔ (الحجرات: ۹، کنز الایمان)

اگر حضرت امیر معاویہ ؓ باغی ہوتے تو حضرت علی ؑ پر لازم تھا کہ ان سے مسلسل جنگ کرتے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے۔“ (الحجرات: ۹، کنز الایمان)

اگر حضرت امیر معاویہ ؓ باغی ہوتے تو حضرت علی ؑ پر لازم تھا کہ ان سے مسلسل جنگ کرتے یہاں تک کہ وہ آپ کی خلافت کو تسلیم کر لیتے۔ لیکن آپ نے جنگ ختم کر دی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت علی ؑ کے نزدیک بھی حضرت معاویہ ؓ باغی نہیں تھے۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبیٰ ؑ نے ایک فوج جرار کے ساتھ عین معرکہ جنگ میں ہتھیار رکھ دیے اور خلافت امیر معاویہ ؓ کے سپرد کر دی (اور ان کے ہاتھ پر بیعت فرمائی)۔

اگر امیر معاویہ ؓ اعیانہ اللہ فاجر یا ظالم یا غاصب تھے تو الزام امام حسن ؑ پر آتا ہے کہ انہوں نے خلافت و حکومت خود اپنے اختیار و ارادے سے ایسے شخص کے حوالے کر دی اور اسلام و مسلمین کی خیر خواہی کا خیال نہ فرمایا۔ اگر مدت خلافت ختم ہو چکی تھی اور آپ کو خود بادشاہت منظور نہیں تھی تو صحابہ حجاز میں کیا کوئی حکومت و دینی امور کے نظم و نسق کے قابل نہیں تھا جو حکومت انہیں کے حوالے کر دی؟

خدا کی قسم! یہ اعتراض تو رسول کریم ﷺ تک پہنچتا ہے کہ جنہوں نے اپنی پیش کوئی میں ان کے اس فعل (یعنی حضرت معاویہ ؓ سے صلح) کو پسند فرمایا اور انکی سیادت کا نتیجہ ٹھہرایا جیسا کہ صحیح بخاری میں ہے کہ آپ نے امام حسن ؑ کی نسبت فرمایا، ”میرا یہ بیٹا سید ہے، مجھے امید ہے کہ اللہ عزوجل اس کے باعث اسلام کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرادے۔“ (اعتقاد الاحباب: ۶۸)

بقول صدر الشریعہ، امیر معاویہ ؓ پر معاذ اللہ نسق وغیرہ کا طعن کرنے والا حقیقتاً حضرت امام حسن مجتبیٰ ؑ بلکہ حضور سید عالم ﷺ بلکہ اللہ عزوجل پر طعن کرنا ہے۔

(بہار شریعت حصہ ۸: ۷۸)

علامہ شہاب الدین خفاجی، نسیم الریاض شرح شفا میں فرماتے ہیں، جو حضرت معاویہ ؓ پر طعن کرے، وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ (اعتقاد الاحباب: ۲۳)

امیر معاویہ ؓ مجتہد تھے۔ ان کا مجتہد ہونا سیدنا عبد اللہ بن عباس ؓ نے حدیث صحیح بخاری میں بیان فرمایا ہے۔ مجتہد سے صواب و خطا دونوں صادر ہوتے ہیں۔ خطا دو قسم کی ہے، ”خطا عنادی“، یہ مجتہد کی شان نہیں۔ اور ”خطا اجتہادی“، یہ مجتہد سے ہوتی ہے اور اس میں اس پر اللہ تعالیٰ کے نزدیک اصلاحاً اخذہ نہیں۔

(بہار شریعت حصہ ۸: ۷۷)

حضرت معاویہ ؓ کے اجتہاد کی دلیل یہ آیت ہے، مَنْ قَبِلَ مَسْأَلًا مَّا فَفَعَلْنَا لِيُؤْتِيَهُ سُلْطٰنًا۔ (بنی اسرائیل: ۳۳) ”جو ناحق مارا جائے تو بیشک ہم



نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے۔“ (کنز الایمان)

یعنی جو مظلوم قتل کر دیا جائے تو اس کے وارث کو قصاص کا حق ہے۔ اسی بناء پر سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کا مطالبہ کر رہے تھے جبکہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے گرد بڑی تعداد ایسے لوگوں کی تھی جو سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں پیش پیش تھے اس لیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے لیے حکومت مستحکم کیے بغیر قصاص لینا ممکن نہ تھا۔

بس یہ بات ذہن نشین رہے کہ صحابہ کرام کے باہم جو واقعات ہوئے، ان پر اپنی رائے دینا کسی کو قصور وار بتانا سخت حرام ہے۔ ہمیں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار، سچے غلام اور صحابیت کا شرف رکھتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا گیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ میں سے کون افضل ہے؟ آپ نے فرمایا، وہ غبار جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمرانی میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کی ناک میں داخل ہوا، وہ بھی عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ سے افضل ہے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ) صدر اشرفیہ علامہ امجد علی قادری رحمد فرماتے ہیں،

کسی صحابی کے ساتھ سوء عقیدت بد مذہبی و گمراہی اور استحقاق جہنم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بغض ہے۔ ایسا شخص رافضی ہے اگرچہ چاروں خلفاء کو مانے اور اپنے آپ کو سنی کہے۔ مثلاً حضرت امیر معاویہ اور ان کے والد ماجد حضرت ابوسفیان اور والدہ ماجدہ حضرت ہند۔ اسی طرح حضرت سیدنا عمرو بن عاص و حضرت مغیرہ بن شعبہ و حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ حتیٰ کہ حضرت وحشی رضی اللہ عنہ جنہوں نے قبل اسلام حضرت سید الشہداء رضی اللہ عنہ کو شہید کیا اور بعد اسلام اجرت الناس خبیثہ مسیلمہ کذاب ملعون کو واصلی جہنم کیا۔ ان میں سے کسی کی شان میں گستاخی تمرا ہے اور اس کا قاتل رافضی۔ یہ اگرچہ حضرات شیخین کی توہین کی مثل نہیں ہو سکتی کہ انکی توہین بلکہ ان کی خلافت سے انکار ہی فقہائے کرام کے نزدیک کفر ہے۔ (بہار شریعت حصہ: ۷۷)

مشاجرات صحابہ کرام:

مجددین و ملت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے جنہوں نے مشاجرات و منازعات کیے، ہم اہلسنت ان میں حق، مولیٰ علی رضی اللہ عنہ کی جانب مانتے ہیں اور ان سب کو (مور و لغزش) بر غلط و خطا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان سب سے اکمل و اعلیٰ جانتے ہیں۔ چونکہ ان حضرات کے مناقب و فضائل میں احادیث مروی ہیں اس لیے ان کے حق میں زبان طعن و تشنیع نہیں کھولتے، اور انہیں انکے مراتب پر رکھتے ہیں جو انکے لیے شرع میں ثابت ہیں۔

ان میں کسی کو کسی پر ہوائے نفس سے فضیلت نہیں دیتے اور ان کے مشاجرات میں دخل اندازی کو حرام جانتے ہیں اور ان کے اختلاف کو امام ابوحنیفہ و امام شافعی رضی اللہ عنہما جیسا اختلاف سمجھتے ہیں۔ ہم اہلسنت کے نزدیک ان میں سے کسی صحابی پر بھی طعن جائز نہیں چہ جائیکہ اُم المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ رفیع میں طعن کریں۔ خدا کی قسم! یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب میں گستاخی ہے۔ (اعتقاد الاحباب: ۶۳)

محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہلسنت و جماعت سب صحابہ کرام کو نیک و متقی جانتے ہیں اور انکے باہمی اختلافات کی تفصیل پر نظر کرنا حرام سمجھتے ہیں کیونکہ اس طرح شیطان ان متقی بندوں کے متعلق بدگمان کر کے گمراہی کی طرف لے جاتا ہے۔ چنانچہ آپ رقمطراز ہیں،

”جو فعل کسی (صحابی) کا اگر ایسا منقول بھی ہو جو نظر قاصر (دیکھو کو تاہ ہیں) میں اُن کی شان سے قدرے گرا ہوا ٹھہرے (اور کسی کو تاہ نظر کو اس میں حرف زنی کی گنجائش ملے تو اہلسنت) اسے نعمل حسن پر اتارتے ہیں (اور اسے ان کے خلوص قلب و حسن نیت پر محمول کرتے ہیں) اور اللہ کا سچا قول رَضِيَ الْمَلِكُ عَنْهُمْ سَنَ كَرَّ يَنْزِلُ دَلِّمْ فِي زَنْبِ تَفْتِيْشٍ كَوْجَلَهٗ نَبِيْ يَدِيْ (اور تحقیق احوال واقعی کے نام کا میل کچیل، دل کے آگینے پر چڑھنے نہیں دیتے)، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما چکے، اِذَا دُكِرَ اَصْحَابِيْ فَاُمِّبْ كُنُوْا - ”جب میرے اصحاب کا ذکر آئے تو باز رہو“ (سوء عقیدت اور بدگمانی کو قریب نہ پھٹکنے دو، تحقیق حال و تفتیش

مآل میں نہ پڑو۔)

اپنے آقا ﷺ کا فرمانِ عالی شان اور یہ سخت وعیدیں، ہولناک تہدیدیں (ڈراوے اور ڈھمکیاں) سن کر زبان بند کر لی اور دل کو سب کی طرف سے صاف کر لیا۔ اور جان لیا کہ ان کے رُتبے ہماری عقل سے ورا ہیں پھر ہم ان کے معاملات میں کیا دخل دیں۔

ان میں جو مشاجرات (صورۃ نزاعات و اختلافات) واقع ہوئے، ہم ان کا فیصلہ کرنے والے کون؟ کہ ایک کی طرف داری میں دوسرے کو برا کہنے لگیں، یا ان نزاعوں میں ایک فریق کو دنیا طلب ٹھہرائیں بلکہ بالیقین جانتے ہیں کہ وہ سب مصالِح دین کے خواستگار تھے۔

(اسلام و مسلمین کی سر بلندی ان کا نصب العین تھی پھر وہ مجتہد بھی تھے تو) جس کے اجتہاد میں جو بات دین الہی و شرع رسالت پناہی مل ۷ اور ﷺ کے لیے صلح و انسب (زیادہ مصلحت آمیز اور احوال مسلمین سے مناسب تر) معلوم ہوئی، اختیار کی۔ کو اجتہاد میں خطا ہوئی اور ٹھیک بات ذہن میں نہ آئی لیکن وہ سب حق پر ہیں (اور سب واجب الاحترام)۔

ان کا حال بعینہ ایسا ہے جیسا فروغِ مذہب میں (خود علمائے اہلسنت بلکہ ان کے مجتہدین مثلاً امام اعظم ابوحنیفہ ۷ امام شافعی ۷ وغیرہما) کے اختلافات، نہ ہرگز ان منازعات کے سبب ایک دوسرے کو گمراہ فاتق جاننا نہ ان کا دشمن ہو جانا۔

(جس کی تائید مولیٰ علی ۷ کے اس قول سے ہوتی ہے کہ اخواننا بغوا علینا۔ یہ سب ہمارے مسلمان بھائی ہیں جو ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں کو تو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ سب حضرات آقائے دو عالم ﷺ کے جاں نثار اور سچے غلام ہیں۔ خدا اور رسول ﷺ کی بارگاہ میں معظم و معزز اور آسمان ہدایت کے روشن ستارے ہیں، اصحابی کالجوم)

اللہ عزوجل اور رسول ﷺ کے ارشادات سے (اس پاک فرقہ ہلسنت و جماعت نے اپنا عقیدہ اور) اتنا یقین کر لیا کہ سب (صحابہ کرام) اچھے اور عادل و ثقہ، تقیٰ نقی ابرار (خاصا بن پروردگار) ہیں، اور ان (مشاجرات و نزاعات کی) تفصیل پر نظر، گمراہ کرنے والی ہے۔ (اعتقاد الاحباب: ۳۸-۴۰)

رب تعالیٰ نے فرمایا، وَكَلَّمَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ۔ "ان سب (صحابہ) سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔" کہ اپنے اپنے مرتبے کے لحاظ سے اجر ملے گا سب ہی کو، محروم کوئی نہ رہے گا۔ اور جن سے بھلائی کا وعدہ کیا، ان کے حق میں فرماتا ہے،

أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ "وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔"

لَا يَسْمَعُونَ حَبِيبَتَهَا "وہ جہنم کی بھک تک نہ سنیں گے۔"

وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ۔ "وہ ہمیشہ اپنی من مانتی جی بھاتی مرادوں میں رہیں گے۔"

لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَرَعُ الْأَكْبَرُ۔ "قیامت کی سب سے بڑی گھبراہٹ انہیں غمگین نہ کرے گی۔" تَنَالَهُمُ الْمَمَائِكَةُ۔ "فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔"

هَذَا يَوْمَئِذٍ تُكْفِرُكَمُ الْإِلٰهِي تَكْفُرُونَ۔ یہ کہتے ہوئے کہ "یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔" (سورۃ الانبیاء)

رسول اللہ ﷺ کے ہر صحابی کی یہ شان اللہ عزوجل بتاتا ہے تو جو کسی صحابی پر طعن کرے وہ اللہ واحد تھا کہ کو جھٹلاتا ہے۔ اور ان کے بعض معاملات جن میں اکثر حکایات کا ذہب ہیں، ارشاد الہی کے مقابل پیش کرنا اہل اسلام کا کام نہیں۔ (اعتقاد الاحباب: ۴۳)

صحابہ کرام انبیاء نہ تھے، فرشتے نہ تھے کہ معصوم ہوں، ان میں بعض کے لیے لغزشیں ہوئیں مگر ان کی کسی بات پر گرفت اللہ عزوجل اور رسول ﷺ کے خلاف ہے۔ اللہ عزوجل نے سورۃ الحدید میں جہاں صحابہ کی دو قسمیں فرمائیں، مومنین قبل فتح مکہ اور بعد فتح مکہ۔ اور ان کو ان پر فضیلت دی اور فرمایا،

وَكَوَلَّمَا وَعَدَ اللَّهُ الْمُحْسِنِينَ "سب سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا۔"

ساتھ ہی ارشاد فرمایا، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ "اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرو گے۔" (الحمد: ۱۰)

تو جب اس نے ان کے تمام اعمال جان کر حکم فرمایا کہ ان سب سے ہم جنت بے عذاب و کرامت و ثواب کا وعدہ فرما چکے تو کسی دوسرے کو کیا حق رہا کہ وہ

ان کی کسی بات پر طعن کرے۔ کیا طعن کرنے والا اللہ تعالیٰ سے جدا اپنی مستقل حکومت قائم کرنا چاہتا ہے؟ (بہار شریعت حصہ: ۷۷)

سیدنا علیؑ کو مسلمانوں کے باہمی قتال پر جو دکھ اور صدمہ ہوا، اسکا اندازہ اس روایت سے کیجیے۔

حضرت امام حسنؑ سے روایت ہے کہ جنگ جمل کے دن حضرت علیؑ نے فرمایا، کاش میں اس واقعہ سے بیس سال پہلے مر جاتا۔ (ازلۃ الخفاء ج ۳: ۵۳۶، حاکم)

باوجود اختلاف و نزاع کے باہم محبت کا یہ حال تھا کہ حضرت علیؑ سے اہل جمل کے متعلق پوچھا گیا، کیا یہ لوگ مشرک ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں! یہ لوگ شرک سے دور بھاگتے ہیں۔ پھر پوچھا گیا، کیا یہ منافقین ہیں؟ فرمایا، نہیں! منافقین تو اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت قلیل کرتے ہیں۔ پوچھا گیا، پھر یہ لوگ کون ہیں؟ فرمایا،

یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، جو ہمارے خلاف کھڑے ہوئے۔ مگر مجھے امید ہے کہ ہم ان لوگوں کی مثل ہو جائیں گے جن کے متعلق رب تعالیٰ کا ارشاد ہے،

وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَيْبٍ۔ (الاعراف: ۴۳)

”اور ہم نے ان کے سینوں میں سے کئے کچھ لے لیا، (جنت میں) ان کے نیچے نہریں بہیں گی۔ اور کہیں گے، سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں اس کی راہ دکھائی۔“ (کنز الایمان از امام احمد رضا بریلوی، ص ۱۷۷)

حضرت علیؑ نے فرمایا، مجھے امید ہے کہ میں، عثمان، طلحہ اور زبیرؓ ان میں سے ہیں جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

(تفسیر خازن، تفسیر مظہری، ازلۃ الخفاء ج ۳: ۵۴۲)

اعلیٰ حضرت محدث بریلوی، ص ۱۷۷ یہی روایت نقل کر کے فرماتے ہیں، حضرت مولیٰ علیؑ کے اس ارشاد کے بعد بھی، ان (صحابہ کرام) پر الحرام دینا عقل و خرد سے جنگ ہے، مولیٰ علیؑ سے جنگ ہے اور خدا اور رسولﷺ سے جنگ ہے۔ العیاذ باللہ

جب کہ تاریخ کے اوراق شاہد عادل ہیں کہ حضرت زبیرؓ کو جو نبیؐ اپنی غلطی کا احساس ہوا، انہوں نے فوراً جنگ سے کنارہ کشی کر لی۔

اور حضرت طلحہؓ کے متعلق بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایک مددگار کے ذریعے حضرت مولیٰ علیؑ سے بیعت کر لی تھی۔

اور تاریخ سے ان واقعات کو کون چھیل سکتا ہے کہ جنگ جمل ختم ہونے کے بعد مولیٰ علیؑ مرتضیٰؑ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے برادر معظم محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہما کو حکم دیا کہ وہ جائیں اور دیکھیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خدا نخواستہ کوئی زخم و غیرہ تو نہیں پہنچا۔ بلکہ بجلت تمام خود بھی تشریف لے گئے اور پوچھا، آپ کا مزاج کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، الحمد للہ! اچھی ہوں۔ مولیٰ علیؑ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش فرمائے۔ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا، اور تمہاری بھی۔

پھر مقتولین کی تجزیہ و تکفین سے فارغ ہو کر، حضرت مولیٰ علیؑ نے حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی واپسی کا انتظام کیا اور پورے اعزاز و اکرام کے ساتھ محمد بن ابی بکرؓ کی گمرانی میں چالیس معزز عورتوں کے جہر مٹ میں ان کو گجاز کی جانب رخصت کیا، خود حضرت علیؑ نے دور تک مشایعت کی، ہمارا ہے۔ امام حسنؑ میلوں تک ساتھ گئے۔

چلتے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے مجمع میں اقرار فرمایا کہ، ”مجھ کو علیؑ سے نہ کسی قسم کی کدورت پہلے تھی اور نہ اب ہے۔ ہاں ساس و لاما میں کبھی کبھی جو بات ہو جایا کرتی ہے اس سے مجھے انکار نہیں۔“

حضرت علیؑ نے یہ سن کر ارشاد فرمایا، ”لوگو! عائشہؓ کہہ رہی ہیں۔ خدا کی قسم! مجھ میں اور ان میں، اس سے زیادہ اختلاف نہیں ہے۔ بہر حال خواہ کچھ ہو، یہ دنیا و آخرت میں تمہارے نبی کریمﷺ کی زوجہ مطہرہ ہیں۔“

اللہ اللہ! ان یار ان بیکر صدق و صفا میں باہمی یہ رفیق و مؤدب اور عزت و اکرام، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعظیم و احترام کا یہ معاملہ۔ اور ان عقل سے بیگانوں

اور نادان دوستوں کی حملتِ علیؑ کا یہ عالم کہ ان پر لٹن طعن کو اپنا مذہب اور شعار بنا لیں اور ان سے کدورت و دشمنی کو مولیٰ علیؑ سے محبت و عقیدت ٹھہرائیں!

ولا حول ولا قوة الا باللہ العلیٰ العظیم  
(اعتقاد الاحباب: ۷۰)

ماہی رفیق و تفصیل و نصب و خروج  
حامی دین و سنت پہ لاکھوں سلام

مومنین پیش فتح و پاس فتح سب  
اہل خیر و عدالت پہ لاکھوں سلام

سیدنا امیر معاویہؓ اور یزید:

حضرت امیر معاویہؓ نے وصال سے قبل یہ وصیت فرمائی تھی کہ انہیں اُس قیص میں کفن دیا جائے جو آقاؐ کو مولیٰؓ نے انہیں عطا فرمائی تھی۔ نیز رسول کریمؐ کے مقدس ناخنوں کے تراشے جو انکے پاس تھے، ان کی آنکھوں اور منہ پر رکھ کر انہیں ازحم المرآمین کے سپرد کر دیا جائے۔ (أسد الغابہ)

آپ کی یہ وصیت دراصل یزید کے لیے ایک نصیحت تھی تاکہ وہ یہ سوچے کہ جب میرے والد رسول کریمؐ کے ناخنوں اور قیص سے برکت حاصل کر رہے ہیں تو پھر ان کا نواسہ کس قدر بابرکت ہوگا اور مجھے اس کی کس قدر تعظیم کرنی چاہیے۔

حضرت امیر معاویہؓ نے یزید کو اپنا جانشین بنانے کا جو ارادہ کیا اس کے پس منظر میں رسول اکرمؐ کے ان جلیل القدر صحابی کا خلوص اور نیک نیتی کا فرما تھی اور ان کے پیش نظر امت کا وسیع تر مفاد تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ اگر میں نے خلافت کو یونہی چھوڑ دیا تو ہر علاقے میں کئی خلیفہ اٹھ کھڑے ہونگے اور خواریزمی و امتتار کے باعث بہت نقصان ہوگا اور اگر خلافت بنو ہاشم کے حوالے کر جاؤں تو بنی امیہ جو عصبیت کے علاوہ اس وقت قوت و اقتدار کے عروج پر ہیں، وہ انہیں مانیں گے اور خواریزمی کریں گے۔

مشہور مؤرخ علامہ ابن خلدون رحمہ اللہ لکھتے ہیں،

بنو امیہ اس وقت اپنے علاوہ کسی کی خلافت پر راضی نہیں ہوتے کیونکہ وہ نہ صرف قریش بلکہ پوری ملتِ اسلامیہ کا بہت طاقتور گروہ تھا۔ ان نازک حالات کے باعث امیر معاویہؓ نے ولی عہدی کے لیے یزید کو ان حضرات پر ترجیح دی جو اس سے زیادہ خلافت کے مستحق سمجھے جاتے تھے۔ انہوں نے افضل کو چھوڑ کر مفضول کو اختیار کیا تاکہ مسلمانوں میں اتحاد و اتفاق قائم رہے۔ (مقدمہ ابن خلدون: ۳۷۳)

علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں، حضرت معاویہؓ سمجھتے تھے کہ دنیاوی شرافت و اصالت کے علاوہ بادشاہوں کی اولاد میں فنونِ جنگ، حکومتی نظم و نسق سے آگہی اور شاہانہ کرفر کے اعتبار سے صحابہ کی اولاد میں کوئی دوسرا نہیں ہے جو ملک کا نظام سنبھال سکے۔ اس لیے آپ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے فرمایا تھا، میں (ولی عہد بنانا تو) ڈرتا ہوں کہ رعایا کو اپنے بعد ایسے چھوڑ کر جاؤں جیسے بارش میں بکریاں، جن کا کوئی چرواہا نہ ہو۔ (البدایہ والنہایہ ج ۸: ۸۶)

حقیقت یہی ہے کہ آپ کے خیال میں یزید میں وہ صلاحیتیں موجود تھیں جن کی بناء پر وہ حکومتی نظم و نسق چلانے کا اہل تھا اس لیے آپ نے اسے ولی عہد بنایا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو آپ لوگوں کے مجمع میں منبر پر یہ دعانہ فرماتے کہ "اے اللہ! اگر میں یزید کو اس کی لیاقت اور ہوشمندی کے باعث ولی عہد بنا رہا ہوں تو اس کام میں میری مدد فرما اور اگر میں محض باپ کی محبت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں اور وہ خلافت کے قابل نہیں ہے تو اس کے تحت نشین ہونے سے پہلے اسے موت دیدے۔" (تاریخ الخلفاء: ۳۰۲)

رجب ۶۰ھ میں جب امیر معاویہؓ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی تو انہوں نے یزید کو تیجری وصیت فرمائی، "حسین بن علی رضی اللہ عنہما سادہ مزاج و نرم دل آدمی ہیں۔ عراق والے انہیں مدینہ سے نکال کر ہی چھوڑیں گے۔ پس اگر وہ نکلیں اور تو ان پر غالب آجائے تو ان سے درگزر کرنا کیونکہ وہ بہت بڑی صلہ رحمی کے مستحق ہیں۔ ان کا ہم پر ایک عظیم حق ہے اور ان کی رسولؐ سے قربت داری ہے۔" (تاریخ کامل ج ۳: ۶۰)

امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے تو واضح الفاظ میں یزید کو امام حسین رضی اللہ عنہ سے درگزر کرنے اور حسن سلوک کی وصیت فرمائی لیکن اُس بد بخت نے اقتدار کے نشہ میں مست ہو کر اپنے متقی والد رضی اللہ عنہ کی ہر نصیحت کو پس پشت ڈال دیا۔ ہمیں یقین ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پر اس کائنات و فجور ظاہر نہ ہوا ہو گا ورنہ یہ کیسے ممکن ہے کہ یزید کا فسق و فجور انکی حیات میں ظاہر ہونے کے باوجود انہوں نے اسے ولی عہد بنا دیا ہو۔

علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ اس بارے میں لکھتے ہیں، وہ فسق و فجور جو یزید سے اس کی خلافت میں ظاہر ہوا، وہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے علم میں نہ تھا (جب انہوں نے اسے ولی عہد بنایا)۔ تم اس بدگمانی سے بچو کہ وہ اس کے فسق و فجور سے واقف تھے کیونکہ آپ کا مرتبہ و مقام اس سے بہت بلند ہے (کہ وہ یزید کے فسق و فجور سے آگاہ ہونے کے باوجود اسے ولی عہد بنا دیں)۔ (مقدمہ ابن خلدون: ۳۷۵)

انہوں نے امت کو امتیاز سے بچانا چاہا اور یزید کو ولی عہد بنایا لیکن ان کا یہ فیصلہ اجتہادی خطا ثابت ہوا اور یزید کی حکومت سے امت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانا ہم یزید کے فسق و فجور اور تمام کروتوتوں کا ذمہ دار وہ خود ہے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نہیں کیونکہ رب تعالیٰ کا ارشاد ہے،  
 وَلَا تَنْزِرْ وَآيَةَ "وَزُرْ أَخْرَجِي" اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی۔ (ذی اسرائیل: ۱۵، کنز الایمان)  
 شہادتِ امام حسین رضی اللہ عنہ:

رجب ۶۰ھ میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عقبہ کو لکھا کہ "حسین، ابن عمر اور ابن زبیر رضی اللہ عنہم سے فوری طور پر بیعت لے لو اور جب تک وہ بیعت نہ کریں انہیں مت چھوڑو"۔ (تاریخ کامل ج ۳: ۱۳)

امام حسین رضی اللہ عنہ نے یزید کی بیعت سے انکار کیا اور مکہ تشریف لے گئے۔ آپ کے نزدیک یزید مسلمانوں کی امامت و سیادت کے ہرگز لائق نہیں تھا بلکہ فاسق و فاجر، شرابی اور ظالم تھا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کو کوفیوں نے متعدد خطوط لکھے اور کئی قاصد بھیجے کہ آپ کوفے آئیں، ہمارا کوئی امام نہیں ہے، ہم آپ سے بیعت کریں گے۔ خطوط اور قاصدوں کی تعداد اس قدر زیادہ تھی کہ امام حسین رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ مجھ پر انکی راہنمائی کے لیے اور انہیں فاسق و فاجر کی بیعت سے بچانے کے لیے جانا ضروری ہو گیا ہے۔ حالات سے آگہی کے لیے آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو کوفہ بھیجا جن کے ہاتھ پر بیٹھار لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی لیکن جب ابن زیاد نے دھمکیاں دیں تو وہ اپنی بیعت سے پھر گئے اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ آپ کو انکی شہادت اور اہل کوفہ کی بیوفائی کی خبر اسوقت ملی جب آپ مکہ سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔

امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے تفصیلی واقعات جاننے کے لیے صدر الافاضل مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب "سوانح کربلا" کا مطالعہ کیجیے۔ مختصر یہ ہے کہ حسینی قافلے میں بچے، خواتین اور مرد لاکھوں نفوس تھے جو کہ جنگ کے ارادے سے بھی نہیں آئے تھے۔ انکے مقابلے کے لیے یزیدی فوج بائیس ہزار اور زیادہ مسلح افراد پر مشتمل تھی۔ اسکے باوجود ظالموں نے اہلیت اطہار پر دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ تین دن کے بھوکے پیاسے امام عالی مقام اپنے اٹھارہ (۱۸) اہلیت اور دیگر ۵۳ (۵۳) جانثاروں کے ہمراہ دس محرم ۶۱ھ کو کربلا میں نہایت بیدردی سے شہید کر دیے گئے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک دن دوپہر کے وقت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ گیسوئے مبارک بکھرے ہوئے ہیں اور دست مبارک میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں عرض گزار ہوا، میرے ماں باپ آپ پر قربان! یہ کیا ہے؟ فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے۔ میں دن بھر اسے جمع کرتا رہا ہوں۔ میں نے وہ وقت یاد رکھا بعد میں معلوم ہوا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ (مسند احمد، مشکوٰۃ)  
 حضرت سلمیٰ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئی اور وہ زار و قطار رو رہی تھیں۔ میں نے عرض کی، آپ کیوں روتی ہیں؟ فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ سر اقدس اور داڑھی مبارک گرد آلود ہے۔ میں عرض گزار ہوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! آپ کو کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا، میں ابھی ابھی حسین کی شہادت گاہ سے آ رہا ہوں۔ (ترمذی)

امام حسینؑ کا سر اقدس جسم سے جدا کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا گیا۔ ابن زیاد ایک چھڑی آپ کے مبارک ہونٹوں پر مارنے لگا۔ صحابی رسول، حضرت زید بن ارقمؓ وہاں موجود تھے۔ ان سے برداشت نہ ہو سکا اور وہ پکاراٹھے، ”ان لیوں سے چھڑی ہٹا لو۔ خدا کی قسم! میں نے بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رسول کریمؐ ان مبارک لیوں کو چومتے تھے۔“ یہ فرما کر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد بولا، خدا کی قسم! اگر تو بوڑھا نہ ہوتا تو میں تجھے بھی قتل کرو دیتا۔ (عمدة القاری شرح بخاری)

حضرت انس بن مالکؓ سے بھی ایسا ہی واقعہ مروی ہے جو زندگی کے حوالے سے پہلے تحریر کیا جا چکا ہے۔

امام پاک اور یزید پلید:

بعض لوگ کہتے ہیں کہ یزید کا اس واقعہ سے براہ راست کوئی تعلق نہیں تھا، جو کچھ کیا وہ ابن زیاد نے کیا۔ چند تاریخی شواہد پیش خدمت ہیں جن سے اہل حق و انصاف خود فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ان تمام واقعات سے یزید کا کس قدر تعلق ہے۔ عظیم مؤرخ علامہ طبری رحمہ اللہ رقمطراز ہیں، یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا حاکم مقرر کیا اور اسے حکم دیا کہ ”مسلم بن عقیل کو جہاں پاؤ قتل کر دو یا شہر سے نکال دو“۔ (تاریخ طبری ج ۳: ۶۲: ۱۷)

پھر جب مسلم بن عقیلؓ اور ہانی کو شہید کر دیا گیا تو ابن زیاد نے ان دونوں کے سر کاٹ کر یزید کے پاس دمشق بھیجے۔ اس پر یزید نے ابن زیاد کو خط لکھ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ (تاریخ کامل ج ۶: ۳۶۰) یہ بھی لکھا، ”جو میں چاہتا تھا تو نے وہی کیا تو نے عاقلاً نہ کام اور دلیرانہ حملہ کیا“۔ (تاریخ طبری ج ۳: ۱۷۳) اب یہ بھی جان لیجئے کہ امام حسینؑ کی شہادت کے بعد یزید کا پہلا رد عمل کیا تھا؟ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ابن زیاد نے امام حسینؑ کا سر اقدس آپ کے قاتل کے ہاتھ یزید کے پاس بھیج دیا۔ اس نے وہ سر اقدس یزید کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت وہاں صحابی رسول، حضرت ابو ہریرۃ الاحلیؓ بیٹھے ہوئے تھے۔ یزید ایک چھڑی امام حسینؑ کے مبارک لیوں پر مارنے لگا اور اس نے یہ شعر پڑھے،

”انہوں نے ایسے لوگوں کی کھوپڑیوں کو پھاڑ دیا جو ہمیں عزیز تھے لیکن وہ بہت نافرمان اور ظالم تھے۔“

حضرت ابو ہریرۃؓ سے برداشت نہ ہو سکا اور انہوں نے فرمایا، ”اے یزید! اپنی چھڑی کو ہٹا لو۔ خدا کی قسم! میں نے بارہا دیکھا ہے کہ رسول کریمؐ اس مبارک منہ کو چومتے تھے۔“ (تاریخ طبری ج ۳: ۱۸۱)

مشہور مؤرخین علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ میں اور علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ نے تاریخ کامل میں اس واقعہ کو تحریر کیا ہے۔ اس میں یہ زائد ہے کہ حضرت ابو ہریرۃؓ نے یہ بھی فرمایا، ”بلاشبہ یہ قیامت کے دن آئیں گے تو حضرت محمد مصطفیٰؐ ان کے شفیع ہونگے اور اے یزید! جب تو آئے گا تو تیرا سفارشی ابن زیاد ہوگا۔“ پھر وہ کھڑے ہوئے اور محفل سے چلے گئے۔ (البدایہ والنہایہ ج ۸: ۱۹۷)

اب آپ خود ہی فیصلہ کیجئے کہ امام حسینؑ کی شہادت پر یزید کو کس قدر نفوس اور دکھ ہوا تھا۔ جو سنگدل نواسہ رسولؐ کے سر اقدس کو اپنے سامنے رکھ کر متکبرانہ شعر پڑھتا ہے اور ان مبارک لیوں پر اپنی چھڑی مارتا ہے جو محبوب کبریاءؐ اکثر چوما کرتے تھے، کیا وہ لعنت و ملامت کا مستحق نہیں؟

اہلیت نبوت سے اس کی عداوت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جاسکتا ہے کہ جب اہلیت نبوت کا یہ مصیبت زدہ قاتلہ ابن زیاد نے یزید کے پاس بھیجا تو اس نے ملک شام کے امراء اور درباریوں کو جمع کیا پھر پھرے دربار میں خانوادہ نبوت کی خواتین اسکے سامنے پیش کی گئیں اور اس کے سب درباریوں نے یزید کو اس فتح مبارکباد دی۔ (طبری ج ۳: ۱۸۱، البدایہ والنہایہ ج ۸: ۱۹۷)

یزید کے حرب باطن اور عداوت اہلیت نبوت کی ایک اور شرمناک مثال ملاحظہ کیجئے۔ اس عام دربار میں ایک شامی کھڑا ہوا اور اہلیت نبوت سے سیدہ فاطمہ بنت حسینؑ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ مجھے بخش دو۔ معصوم سیدہ یہ سن کر لرز گئی اور اس نے اپنی بڑی بہن سیدہ زینبؑ رضی اللہ عنہا کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا۔ حضرت زینبؑ رضی اللہ عنہا نے گرج کر کہا، تو جھوٹ بکتا ہے۔ یہ نہ تجھے مل سکتی ہے اور نہ اس یزید کو۔

یزید یہ سن کر طیش میں آ گیا اور بولا تم جھوٹ بولتی ہو۔ خدا کی قسم! یہ میرے قبضے میں ہے اور اگر میں اسے دینا چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے گرجدار آواز میں کہا، ہرگز نہیں۔ خدا کی قسم! تمہیں ایسا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے کوئی حق نہیں دیا۔ سوائے اسکے کہ تم اعلانِ ہمارے امت سے نکل جاؤ اور ہمارے دین کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر لو۔

یزید نے طیش میں آ کر کہا تو ہمارا مقابلہ کرتی ہے، تیرا باپ اور تیرے بھائی دین سے خارج ہو گئے ہیں۔ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، اللہ کے دین اور میرے باپ، میرے بھائی اور میرے نانا کے دین سے تو نے، تیرے باپ نے اور تیرے دادا نے ہدایت پائی ہے۔ یزید نے کہا، تو نے جھوٹ بولا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے کہا، تو زبردستی میرا مؤمنین ہے، تو ظالم ہو کر گالیاں دیتا ہے اور اپنے اقتدار سے غالب آتا ہے۔ یزید یہ سن کر چپ ہو گیا۔ اُس شامی نے پھر وہی سوال کیا تو یزید نے کہا، دور ہو جا، خدا تجھے موت دے۔ (تاریخ طبری ج ۳: ۱۸۱، البدایہ والنہایہ ج ۸: ۱۹۷)

بعض لوگ یزید کے فسوس و اندامت کا ذکر کر کے اسے بے قصور ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ندامت کی حقیقت علامہ ابن اثیر رحمہ اللہ کے قلم سے پڑھیے۔

وہ قسطنطنیہ میں تھا، جب امام عالی مقام کا سر اقدس یزید کے پاس پہنچا تو یزید کے دل میں ابن زبیر کی قدر و منزلت بڑھ گئی اور جو اس نے کیا تھا اس پر یزید بڑا خوش ہوا۔ لیکن جب اسے یہ خبریں ملنے لگیں کہ اس وجہ سے لوگ اس سے نفرت کرنے لگے ہیں، اس پر لعنت بھیجتے ہیں اور اسے گالیاں دیتے ہیں تو پھر وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل پر نام ہوا۔ (تاریخ کامل ج ۳: ۸۷)

پھر اس نے کہا، ”ابن زبیر نے حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے مجھے مسلمانوں کی نگاہوں میں مبغوض بنا دیا ہے، انکے دلوں میں میری عداوت بھردی ہے اور ہر نیک و بد شخص مجھ سے نفرت کرنے لگا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کر کے میں نے بڑا ظلم کیا ہے۔ خدا ابن زبیر پر لعنت کرے اور اس پر غضب نازل کرے، اس نے مجھے برباد کر دیا۔“ (ایضاً)

یزید کی ندامت و پشیمانی کی وجہ آپ نے پڑھی ہے۔ اس ندامت کا عدل و انصاف سے ذرا سا بھی تعلق نہیں ورنہ ایک عام مسلمان بھی قتل کر دیا جائے تو قاتل سے قصاص لینا حاکم پر فرض ہوتا ہے۔ یہاں تو خاندانِ نبوت کے قتل عام کا معاملہ تھا۔ ابن زبیر، ابن سعد، شمر ملعون وغیرہ سے قصاص لینا تو درکنار کسی کو اس کے عہدے سے برطرف تک نہ کیا گیا اور نہ ہی کوئی تادیبی کارروائی ہوئی۔

یزید فاسق و فاجر تھا:

بعض جبلاء کہتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ پر لازم تھا کہ وہ یزید کی اطاعت کرتے۔ اس خیال بد کے رد میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ”یزید امام حسین رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے میرے کیسے ہو سکتا تھا اور مسلمانوں پر اسکی اطاعت کیسے لازم ہو سکتی تھی جبکہ اُس وقت کے صحابہ کرام اور صحابہ کی جو اولاد موجود تھی، سب اس کی اطاعت سے بیزاری کا اعلان کر چکے تھے۔ مدینہ منورہ سے چند لوگ اسکے پاس شام میں زبردستی پہنچائے گئے تھے۔ وہ یزید کے ناپسندیدہ اعمال دیکھ کر واپس مدینہ چلے آئے اور عارضی بیعت کو فسخ کر دیا۔ ان لوگوں نے برملا کہا کہ یزید خدا کا دشمن ہے، شراب نوش ہے، تارکِ اصلوٰۃ ہے، زانی ہے، فاسق ہے اور محارم سے صحبت کرنے سے بھی باز نہیں آتا۔“ (تکمیل الایمان: ۱۷۸)

یزید کے فسق و فجور کے متعلق اکابر صحابہ و تابعین کے اقوال تاریخ طبری، تاریخ کامل اور تاریخ الخلفاء میں ملاحظہ کیے جاسکتے ہیں۔ اختصار کے پیش نظر حضرت عبد اللہ بن حنظلہ غسیل الملائکہ رضی اللہ عنہما کا ارشاد پیش خدمت ہے۔

آپ فرماتے ہیں، ”خدا کی قسم! ہم یزید کے خلاف اُس وقت اٹھ کھڑے ہوئے جب ہمیں یہ خوف لاحق ہو گیا کہ (اسکی بد کاریوں کی وجہ سے) ہم پر کہیں آسمان سے پتھر نہ برس پڑیں کیونکہ یہ شخص ماؤں، بیٹیوں اور بہنوں کے ساتھ نکاح کو جائز قرار دیتا تھا، شراب پیتا تھا اور نماز چھوڑتا تھا۔“

(طبقات ابن سعد ج ۵: ۶۶، ابن اثیر ج ۳: ۳۱، تاریخ الخلفاء: ۳۰۶)

امام حسین ؑ نے یزیدی لشکر کے سامنے جو خطبہ دیا اس میں بھی یزید کے خلاف نکلنے کی یہی وجہ ارشاد فرمائی، ”خبردار! بیشک ان لوگوں نے شیطان کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور رحمان کی اطاعت کو چھوڑ دیا ہے اور فتنہ و فساد برپا کر دیا ہے اور حد و شرعی کو معطل کر دیا ہے۔ یہ محاصل کو اپنے لیے خرچ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ باتوں کو حلال اور حلال کردہ کو حرام قرار دیتے ہیں۔“ (تاریخ ابن اثیر ج ۳: ۲۰)

شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نزدیک یزید مبغوض ترین انسان تھا۔ اس بد بخت نے جو کارہائے بد سر انجام دیے وہ اس امت میں سے کسی نے نہیں کیے۔ شہادت امام حسین ؑ اور اہل بیت علیہم السلام سے فارغ ہو کر اس بد بخت نے مدینہ منورہ پر لشکر کشی کی اور اس مقدس شہر کی بھرتی کے بعد اہل مدینہ کے خون سے ہاتھ رنگے اور باقی ماندہ صحابہ و تابعین کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ کی تخریب کے بعد اس نے مکہ معظمہ کی تباہی کا حکم دیا اور حضرت عبد اللہ بن زبیر ؑ کی شہادت کا ذمہ دار ٹھہرا۔ اور انہی حالات میں وہ دنیا سے رخصت ہو گیا۔ (تکمیل الایمان: ۱۷۹)

اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت امام احمد رضا محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ رقمطراز ہیں، ”یزید پلید قطعاً یقیناً با جماع اہلسنت، فاسق و فاجر و جری علی الکبائر تھا۔“ پھر اسکے کربوت و مظالم لکھ کر فرماتے ہیں، ”ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو نسق و بنور نہ جانے، قرآن کریم میں صراحتاً اس پر لعنتہم اللہ فرمایا۔“ (عرفان شریعت)

”یزید پلید فاسق فاجر مرتکب کبائر تھا۔ معاذ اللہ اس سے اور ریحانہ رسول ﷺ سیدنا امام حسین ؑ سے کیا نسبت۔ آج کل جو بعض گمراہ کہتے ہیں کہ ہمیں ان کے معاملے میں کیا دخل ہے ہمارے وہ بھی شہزادے وہ بھی شہزادے۔ ایسا بکنے والا مردود، خارجی، ناموسی، مستحق جہنم ہے۔“ (بہار شریعت حصہ ۱: ۷۸)

کیا یزید مستحق لعنت ہے؟

محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ امام احمد بن حنبل ؑ سے انکے بیٹے صالح رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، ایک قوم ہماری طرف یہ منسوب کرتی ہے کہ ہم یزید کے دوست اور حمایتی ہیں۔ فرمایا، اے بیٹا! جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ یزید کی دوستی کا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے۔ بلکہ میں اس پر کیوں نہ اس پر لعنت بھیجوں جس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت بھیجی ہے۔ میں نے عرض کی، رب تعالیٰ نے قرآن میں کس جگہ اس پر لعنت بھیجی ہے؟ فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے،

فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوا فِي الْاَرْضِ وَتَقَطَعُوا اَرْحَامَكُمْ ۗ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَتُمُ اللّٰهُ فَاَصْمَتَتْهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ  
○ (محمد: ۲۲، ۲۳)

”تو کیا تمہارے یہ لہجھن (کربوت) نظر آتے ہیں کہ اگر تمہیں حکومت ملے تو زمین میں فساد پھیلاؤ اور اپنے رشتے کاٹ دو۔ یہ ہیں وہ جن پر اللہ نے لعنت کی اور انہیں حق (سننے) سے بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں پھوڑ دیں (یعنی انہیں حق دیکھنے سے اندھا کر دیا)۔“ (کنز الایمان)

پھر فرمایا، فهل یكون فساد اعظم من هذا القتل۔ بتاؤ کیا حضرت حسین ؑ کے قتل سے بھی بڑا کوئی فساد ہے؟ (الصواعق الخرقہ: ۳۲۳)

علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ”حق یہ ہے کہ یزید کا امام حسین ؑ کے قتل پر راضی اور خوش ہونا، اور اہل بیت نبوت کی اہانت کرنا ان امور میں سے ہے جو تو اہر معنوی کے ساتھ ثابت ہیں اگرچہ انکی تفصیل احاد ہیں۔ تو اب ہم تو توفیق نہیں کرتے اسکی شان میں بلکہ اس کے ایمان میں۔ اللہ تعالیٰ اس (یزید پر)، اس کے دوستوں پر اور اسکے مددگاروں پر لعنت بھیجے۔“ (شرح عقائد نسفی: ۱۰۲)

امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ شہادت امام حسین ؑ کا ذکر کر کے فرماتے ہیں،

”ابن زبیر، یزید اور امام حسین ؑ کے قاتل، تینوں پر اللہ کی لعنت ہو۔“



(تاریخ الخلفاء: ۳۰۴)

مشہور مفسر علامہ محمود آلوسی رحمہ اللہ رقمطراز ہیں، میرے نزدیک یزید جیسے معین شخص پر لعنت کرنا قطعاً جائز ہے اور اس جیسے فاسق کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر یہی ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی اور اسکی توبہ کا احتمال اسکے ایمان سے بھی زیادہ کمزور ہے۔ یزید کے ساتھ ابن زیاد، ابن سعد اور اسکی جماعت کو بھی شامل کیا جائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ان سب پر، انکے ساتھیوں اور مددگاروں پر اور انکے گروہ پر اور جو بھی انکی طرف مائل ہو قیامت تک اور اسوقت تک کہ کوئی بھی آنکھ ابو عبد اللہ حسین ؑ پر آنسو بہائے۔“ (روح المعانی ج ۲۶: ۲۶۲)

پس ثابت ہو گیا کہ یزید پلید لعنت کا مستحق ہے۔ البتہ ہمارے نزدیک اس ملعون پر لعنت بھیجنے میں وقت ضائع کرنے سے بہتر ہے کہ ذکر الہی میں اور نبی کریم ؐ اور انکی آل پر درود و سلام پڑھنے میں مشغول رہا جائے۔

مدینہ منورہ و مکہ مکرمہ پر حملہ:

جب ۶۳ھ میں یزید کو یثرب ملی کہ دل مدینہ نے اس کی بیعت توڑ دی ہے تو اس نے ایک عظیم لشکر مدینہ منورہ پر حملہ کے لیے روانہ کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اس لشکر کے سالار اور اسکے سیاہ کار ناموں کے متعلق لکھتے ہیں،

”مسلم بن عقبہ جسے اسلاف سرف بن عقبہ کہتے ہیں، خدا اس کو ذلیل و سوا کرے، وہ بڑا جاہل اور اجڈ بوڑھا تھا۔ اس نے یزید کے حکم کے مطابق مدینہ طیبہ کو تین دن کے لیے مباح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ یزید کو کبھی جزائے خیر نہ دے، اس لشکر نے بہت سے بزرگوں اور قاریوں کو قتل کیا اور اموال لوٹ لیے۔“ (البدایہ والنہایہ ج ۸: ۲۴۰)

مدینہ طیبہ کو مباح کرنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں جس کو چاہا قتل کرو، جو مال چاہو لوٹ لو اور جسکی چاہو آبروریزی کرو (العیاذ باللہ)۔ یزیدی لشکر کے کثرت پڑھ کر ہر مومن خوف خدا سے کانپ جاتا ہے اور سکتہ میں آجاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول ؐ کی حرام کی ہوئی چیزوں کو اس شخص نے حلال کر دیا جسے آج لوگ اہل ائمہ بنین بنانے پر تلے ہوئے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں،

”یزیدی لشکر نے عورتوں کی عصمتیں پامال کیں اور کہتے ہیں کہ ان ایام میں ایک ہزار کنواری عورتیں حاملہ ہوئیں۔“ (البدایہ ج ۸: ۲۴۱)

تاریخ میں اس واقعہ کو واقعہ حترہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت محدث بریلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ”شک نہیں کہ یزید نے واپس ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حریم طہین و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، تین دن مسجد نبوی بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے۔ کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، خلاف شریف پھاڑا اور جلایا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں تین شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔“ (عرفان شریعت)

حضرت سعید بن مسیب ؓ فرماتے ہیں کہ ایام حترہ میں مسجد نبوی میں تین دن تک اذان و اقامت نہ ہوئی۔ جب بھی نماز کا وقت آتا تو میں قبر انور سے اذان اور اقامت کی آواز سنتا تھا۔ (داری، مشکوٰۃ، وفاء الوفاء)

بقول علامہ سیوطی رحمہ اللہ، ”جب مدینہ پر لشکر کشی ہوئی تو وہاں کا کوئی شخص ایسا نہ تھا جو اس لشکر سے پناہ میں رہا ہو۔ یزیدی لشکر کے ہاتھوں ہزاروں صحابہ شہید ہوئے، مدینہ منورہ کو خوب لوٹا گیا، ہزاروں کنواری لڑکیوں کی آبروریزی کی گئی۔“

مدینہ منورہ تباہ کرنے کے بعد یزید نے اپنا لشکر حضرت عبد اللہ بن زبیر ؓ سے جنگ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ بھیج دیا۔ اس لشکر نے مکہ پہنچ کر ان کا محاصرہ کر لیا اور ان پر منہجیت سے پتھر برسائے۔ ان پتھروں کی چنگاریوں سے کعبہ شریف کا پردہ جل گیا، کعبہ کی چھت اور اس دنبہ کا سینک جو حضرت اسماعیل کے فدویہ میں جنت سے بھیجا گیا تھا اور وہ کعبہ کی چھت میں آویزاں تھا، سب کچھ جل گیا۔ یہ واقعہ صفر ۶۳ھ میں ہوا اور اس کے اگلے ماہ یزید مر گیا۔ جب یہ خبر مکہ پہنچی تو

یزیدی لشکر بھاگ کھڑا ہوا اور لوگوں نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ (تاریخ الخلفاء: ۳۰۷)

اب اہل مدینہ پر مظالم ڈھانے والوں کے انجام کے متعلق تین احادیث مبارکہ ملاحظہ فرمائیں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا، مدینے والوں کے ساتھ جو بھی مکر کرے گا وہ یوں پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ (بخاری)

حضور ﷺ کا ارشاد ہے، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کریگا اللہ تعالیٰ اسے اس طرح پگھلائے گا جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ (مسلم)

حضور ﷺ نے فرمایا، جو اہل مدینہ کو ظلم سے خوفزدہ کرے گا، اللہ اسکو خوفزدہ کریگا، اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے، قیامت کے دن نہ اس کے فرض قبول ہو گئے نہ نقل۔ (جذب القلوب، وفاء الوفاء)

کیا یزید مغفور ہے؟

بعض یزیدی فکر کے علمبردار یزید کو جنتی ثابت کرنے کے لیے بخاری شریف کی یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا، **أَوَّلُ جَنَّةٍ مِنْ أُمَّتِي يَغْرُونَ مَدِينَةَ قَيْصَرَ مَغْفُورٌ**، لُھم۔ (بخاری کتاب الجہاد)

”میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر پر جنگ کرے گا، وہ مغفور یعنی بخشا ہوا ہے۔“

یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ قیصر کے شہر پر جس اسلامی لشکر نے سب سے پہلے حملہ کیا اس میں یزید ہرگز نہیں تھا۔ علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں،

”اور اسی سال (یعنی ۳۹ھ) میں اور کہا گیا ہے کہ ۵۰ھ میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک لشکر بلا دروم کی طرف بھیجا اور سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ کو اس لشکر کا امیر بنایا اور اپنے بیٹے یزید کو بھی اس لشکر میں شریک ہونے کا حکم دیا لیکن یزید اس لشکر میں نہ گیا اور حیلے بہانے شروع کر دیے اس پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اسکو بھیجنے سے رک گئے۔ اس جنگ میں لوگ بھوک پیاس اور سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ جب یزید کو اس کی خبر ہوئی تو اس نے (خوش ہو کر) یہ اشعار کہے جن کا ترجمہ یہ ہے۔“

”مجھے اس بات کی کوئی پروا نہیں کہ ان لشکروں پر بخارا اور تنگی و تکلیف کی بلاؤں کی وجہ سے مقام فرقدونہ میں کیا گزری۔ جبکہ میں دیرمڑ ان میں اونچی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوں اور میرے پہلو میں اُم کلثوم موجود ہے۔“

اُم کلثوم یزید کی بیوی تھی۔ یزید کے یہ اشعار حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ تک پہنچے تو انہوں نے قسم کھائی کہ اب میں یزید کو ضرور سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ کے پاس سرزمین روم بھیجوں گا تا کہ یہ بھی اُن مصائب میں مبتلا ہو جو اُن لوگوں کو پہنچے ہیں۔

(تاریخ کامل ج ۳ ص ۲۵۸)

یہی واقعہ علامہ ابن خلدون رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ میں جلد ۳ صفحہ ۲۰ پر تحریر کیا ہے۔ مؤرخین کی اس کو ابھی سے چند باتیں ثابت ہوئیں۔

۱۔ حدیث پاک میں مغفرت کی بشارت پہلے لشکر کے لیے ہے اور پہلے لشکر میں یزید نہیں تھا اس لیے وہ اس بشارت کا مصداق ہرگز نہیں ہوا۔ نیز اس لشکر کا امیر یزید نہیں بلکہ سفیان بن عوف رضی اللہ عنہ تھے۔

۲۔ یزید کو جہاد سے کوئی رغبت نہ تھی اسی لیے حیلے بہانوں سے جہاد پر نہ گیا۔ یہی نہیں بلکہ اس کے دل میں مجاہدین اسلام کے لیے بھی ذرا سی ہمدردی نہ تھی اس لیے اس نے ان کی پریشانیوں کا مذاق اڑایا اور اپنے عیش کرنے پر فخر کیا۔

۳۔ یزید کے اشعار کے باعث حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسے دوسرے لشکر میں بطور سزا کے بھیجا۔ یہ امر مسلمہ ہے کہ بغیر اخلاص کے کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی۔ پس سزا کے طور پر جہاد پر بھیجا جانے والا کیونکر اجر کا مستحق ہو سکتا ہے؟

محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کا ارشاد **مَغْفُورٌ** لُھم عام ہے لیکن کسی خاص دلیل کی وجہ سے اس عموم میں شامل کسی فرد کو خارج کیا جاسکتا

ہے۔ مثلاً حدیث پاک ہے، مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ۔ یعنی جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنتی ہو گیا۔ اگر کوئی شخص صرف زبان سے یہ کلمہ کہہ دے اور دل سے اس کا قائل نہ ہو تو کیا وہ جنتی ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ اگر بالفرض کوئی زبان و دل سے یہ کلمہ کہتا ہے مگر بعد میں مرتد یا بد مذہب ہو جاتا ہے تو وہ اس خاص دلیل کے باعث اس بشارت کے عموم سے خارج ہو جائے گا۔ بالفرض محال اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ یزید اس پہلے لشکر میں جہاد کی نیت سے شریک ہوا تھا تب بھی امام حسینؑ کے قتل کا حکم، اس پر خوشی، ہلبیت کی اہانت، مدینہ منورہ پر حملہ، مسلمانوں کا قتل عام، مکہ مکرمہ پر فوج کشی وغیرہ یزید کے ایسے سیاہ کرتوت ہیں کہ ان میں سے ہر ایک اسے مغفرت کی بشارت سے خارج کر دینے کے لیے کافی ہے۔

شارح بخاری علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ اس حدیث کو یزید کے لیے بطور تعریف سمجھنے والوں کے جواب میں فرماتے ہیں، ”میں کہتا ہوں، یزید کے لیے اس حدیث میں تعریف کا کون سا پہلو ہے جبکہ اس کا حال (سیاہ کرتوتوں پر مبنی) خوب مشہور ہے۔ اگر تم یہ کہو کہ حضور ﷺ نے اس لشکر کے حق میں ”مَغْفُورٌ“ لُثْم فرمایا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس عموم میں یزید کے داخل ہونے سے یہ لازم نہیں کہ وہ کسی دوسری دلیل سے اس سے خارج بھی نہ ہو سکے۔ اہل علم کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ حضور ﷺ کے اس ارشاد ”مَغْفُورٌ“ لُثْم میں وہی لوگ داخل ہیں جو مغفرت کے مستحق ہیں۔ چنانچہ ان میں سے اگر کوئی شخص مرتد ہو جائے تو وہ اس بشارت کے عموم میں داخل نہیں ہوگا۔ پس معلوم ہوا کہ مغفور وہی ہوگا جس میں مغفرت کی شرط پائی جائے گی۔“ (عمدة القاری شرح بخاری)

ایسا ہی مضمون شارح بخاری امام تہستانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کی شرح میں تحریر کیا ہے۔ پس ثابت ہو گیا کہ یزید پلید ہرگز بخاری کی مذکورہ حدیث کا مصداق نہیں ہے۔

یزید کس حدیث کا مصداق ہے؟

اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب رسول ﷺ کو مَآكِنَ وَمَا كَانُوا يَلْمُونَ (یعنی جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ آئندہ ہوگا) کا علم عطا فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، عَلِيمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ غَيْبَهُ أَحَدًا إِلَّا مَن ارْتَضَىٰ مِنْ رَّسُولٍ۔

”اللہ (غیب کا جاننے والا) ہے (تو اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے“۔ (الحج: ۲۶، ۲۷، کنز الایمان)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آقا و مولیٰ ﷺ نے ایک دن ابتدائے تخلیق سے لے کر جنتیوں کے جنت میں جانے اور دوزخیوں کے دوزخ میں جانے تک کے تمام حالات و واقعات بیان فرما دیے۔ جس نے یاد رکھا اس نے یاد رکھا اور جس نے بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (صحیح بخاری)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے ابتدائے تخلیق سے لے کر قیامت تک ہونے والے تمام فتنوں اور واقعات کو بیان فرما دیا۔ اور آپ نے یزیدی فتنہ کی خبر اس حدیث میں دی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، میری امت کی ہلاکت قریش کے چند لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی۔ یہ سن کر مروان نے کہا، ان لڑکوں پر اللہ کی لعنت۔ حضرت ابو ہریرہؓ نے فرمایا، اگر میں چاہوں تو بتا دوں کہ وہ فلاں بن فلاں اور فلاں بن فلاں ہیں۔ (صحیح بخاری)

اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں،

حضرت ابو ہریرہؓ ان لڑکوں کے نام اور شکلیں بھی جانتے تھے لیکن فتنہ و فساد کے خوف سے آپ نے انہیں ظاہر نہیں فرمایا۔ اس سے مراد یزید بن معاویہ، ابن زبیا اور انکی مثل بنی اُمیہ کے دوسرے نوجوان ہیں۔ اللہ ان کو ذلیل کرے۔

پیشک انہی کے ذریعے ہلبیت کا قتل، انہیں قید کرنا اور اکابر مہاجرین و انصار صحابہ کرام کا قتل وقوع پذیر ہوا ہے۔ حجاج جو عبد الملک بن مروان کا امیر الامراء تھا

اور سلیمان بن عبد الملک اور انکی اولاد سے مسلمانوں کے جان و مال کی جو تباہی ہوئی وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ (مشکوٰۃ شرح مشکوٰۃ)  
ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازار میں چلتے ہوئے بھی دعا کیا کرتے، الہی! مجھے ساٹھ ہجری کے سال اور لڑکوں کی حکومت  
دیکھنے سے بچا۔

(فتح الباری شرح بخاری ج ۱۳: ۸)

علامہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جانتے تھے کہ ساٹھ ہجری میں یزید کی حکومت ہوگی اور اسکے فتوح حالات کو وہ صادق و مصدوق رضی اللہ عنہ کے  
بتانے سے جانتے تھے اس لیے انہوں نے اس سال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کی۔ (الصواعق الخرقۃ)  
محدث علی قاری رحمہ اللہ اس کے تحت لکھتے ہیں،

اس سے مراد جاہل لڑکوں کی حکومت ہے جیسے یزید بن معاویہ اور حکم بن مروان کی اولاد اور ان جیسے دوسرے۔ (مرقاۃ شرح مشکوٰۃ)  
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث میں اشارہ ہے کہ پہلا لڑکا ساٹھ ہجری میں ہوگا چنانچہ ایسا ہی ہوا، یزید بن معاویہ ساٹھ ہجری میں خلیفہ بنا  
اور چونسٹھ ہجری میں مرگیا۔ (فتح الباری شرح بخاری ج ۱۳: ۸)

مسند ابویعلیٰ میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا، میری امت عدل و انصاف پر قائم رہے گی یہاں تک کہ بنی امیہ میں یزید  
نامی ایک شخص ہوگا جو اس عدل میں رخنہ اندازی کرے گا۔ (تاریخ الخلفاء: ۳۰۵)

خلاصہ یہ ہے کہ ان احادیث کا مصداق یزید ہے جن میں امت کی ہلاکت کا باعث لڑکوں کو بتایا گیا ہے نیز ”امارة الصبیان“ سے مراد بھی یزید کی حکومت ہے۔  
علامہ سیوطی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کے پاس کسی شخص نے یزید کو امیر المؤمنین کہہ دیا۔ آپ نے اس سے فرمایا تو اُسے  
امیر المؤمنین کہتا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ یزید کو امیر المؤمنین کہنے والے کو تیس کوڑے مارے جائیں۔ (تاریخ الخلفاء: ۳۰۵،  
الصواعق الخرقۃ: ۳۲۲)

☆☆☆☆

صحابہ و اہل بیت کی باہم محبت:

بعض لوگ اہلیت اطہار رضی اللہ عنہم کی شان اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ان کی خصمت اور لڑائی تھی یونہی اس کے بالعکس بعض لوگ شان  
صحابہ اسی انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور اہلیت اطہار رضی اللہ عنہم کے درمیان بیحد محبت تھی۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ  
وہ ایک دوسرے کی فضیلت پر احادیث بیان کرتے ہیں۔

جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں، فاطمہ رضی اللہ عنہا۔

پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ فرماتی ہیں، اُن کے شوہر یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ (ترمذی)

اسی طرح جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جاتا ہے کہ لوگوں میں سے رسول اللہ ﷺ کو سب سے زیادہ پیارا کون تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں، عائشہ رضی اللہ عنہا۔

پھر پوچھا جاتا ہے کہ مردوں میں سے کون زیادہ محبوب تھا؟ تو آپ فرماتی ہیں، اُن کے والد حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ (بخاری)

اگر خدا نخواستہ انکے درمیان کوئی خصمت یا رنجش ہوتی تو وہ ایسی احادیث بیان نہ کرتے۔ ایسی کئی احادیث اس کتاب میں پہلے بیان ہو چکی ہیں، مزید چند  
احادیث پر قلم فرطاس ہیں۔

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ و سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی باہم محبت:

حضرت ابو بکرؓ اور حضرت علیؓ کے درمیان کس قدر محبت تھی، اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے کیجیے۔ قیس بن ابی حازمؒ سے روایت ہے کہ ایک دن حضرت ابو بکرؓ حضرت علیؓ کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے گئے۔ حضرت علیؓ نے پوچھا، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکرؓ نے فرمایا، ”میں نے آقاؐ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ پہل صراط پر سے صرف وہی گزر کر جنت میں جائے گا جس کو علیؓ وہاں سے گزرنے کا پروانہ دیں گے۔“ اس پر سیدنا علیؓ ہنسنے لگے اور فرمایا، ”اے ابو بکر! آپ کو بشارت ہو۔ میرے آقاؐ کو مولیٰؓ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ (اے علیؓ!) پہل صراط پر سے گزرنے کا پروانہ صرف اسی کو دینا جس کے دل میں ابو بکرؓ کی محبت ہو۔“

(الریاض المحضرة فی مناقب العشرة ج ۲: ۱۵۵ مطبوعہ مصر)

سیدنا علیؓ نے فرمایا، ایک دن مشرکین نے رسول کریمؐ کو اپنے نرغ میں لے لیا۔ وہ آپ کو گھسیٹ رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ تم وہی ہو جو کہتا ہے کہ ایک خدا ہے۔ خدا کی قسم! کسی کو ان مشرکین سے مقابلہ کی جرأت نہیں ہوئی سوائے ابو بکرؓ کے۔ وہ آگے بڑھے اور مشرکین کو مار مار کر اور دھکے دے دے کر ہٹاتے جاتے اور فرماتے جاتے تم پر افسوس ہے کہ تم ایسے شخص کو ایذا پہنچا رہے ہو جو یہ کہتا ہے کہ ”میرا رب صرف اللہ ہے۔“ یہ فرما کر حضرت علیؓ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی۔

پھر فرمایا، اے لوگو! یہ بتاؤ کہ آل فرعون کا مومن اچھا تھا یا ابو بکرؓ اچھے تھے؟ لوگ یہ سن کر خاموش رہے تو حضرت علیؓ نے پھر فرمایا، لوگو! جو اب کیوں نہیں دیتے۔ خدا کی قسم! ابو بکرؓ کی زندگی کا ایک لمحہ آل فرعون کے مومن کی ہزار ساعتوں سے بہتر اور برتر ہے کیونکہ وہ لوگ اپنا ایمان ڈر کی وجہ سے چھپاتے تھے اور ابو بکرؓ نے اپنے ایمان کا اظہار علی الاعلان کیا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۰۰)

حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکرؓ کے پاس سے گزرا اور وہ صرف ایک کپڑا اوڑھے بیٹھے تھے۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر بیساختہ میری زبان سے نکلا، کوئی صحیفہ والا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا یہ کپڑا اوڑھنے والا اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۲۴، ابن عساکر) حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ سرکارِ دو عالمؐ اپنے صحابہ کے درمیان مسجد میں تشریف فرما تھے کہ حضرت علیؓ آئے اور سلام کر کے کھڑے ہو گئے۔ حضورؐ منتظر رہے کہ دیکھیں کون ان کے لیے جگہ بناتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ آپ کی دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ اپنی جگہ سے اٹھ گئے اور فرمایا، اے ابوالحسن! یہاں تشریف لے آئیے۔

حضرت علیؓ، حضورؐ اور سیدنا ابو بکرؓ کے درمیان بیٹھ گئے۔ اس پر آقاؐ کو مبارک پر خوشی کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے فرمایا، ”اہل فضل کی فضیلت کو صاحب فضل ہی جانتا ہے۔“ اسی طرح سیدنا ابو بکرؓ حضورؐ کے چچا حضرت عباسؓ کی بھی تعظیم کیا کرتے۔ (الصواعق المحرقة: ۲۶۹)

ایک روز حضرت ابو بکرؓ مسجد نبویؐ میں منبر پر تشریف فرما تھے کہ اس دوران امام حسنؓ آگے جو کہ اس وقت بہت کم عمر تھے۔ امام حسنؓ کہنے لگے، میرے بابا جان کے منبر سے نیچے اتر آئیے۔ سیدنا ابو بکرؓ نے فرمایا، ”تم سچ کہتے ہو۔ یہ تمہارے بابا جان ہی کا منبر ہے۔“ یہ فرما کر آپ نے امام حسنؓ کو کود میں اٹھا لیا اور انگلیاں ہونے لگیں۔ حضرت علیؓ بھی وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا، خدا کی قسم! میں نے اس سے کچھ نہیں کہا تھا۔ سیدنا ابو بکرؓ نے فرمایا، آپ سچ کہتے ہیں، میں آپ کے متعلق غلط گمان نہیں کرتا۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۳۷، الصواعق المحرقة: ۲۶۹)

ابن عبد البر رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابو بکرؓ اکثر حضرت علیؓ کے چہرے کی طرف دیکھا کرتے۔ حضرت عائشہؓ رضی اللہ عنہا نے ان سے اس کا سبب دریافت کیا تو فرمایا، میں نے آقاؐ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ علیؓ کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے۔ (الصواعق المحرقة: ۲۶۹)

ایک روز سیدنا ابو بکرؓ تشریف فرما تھے کہ سیدنا علیؓ آگے۔ آپ نے انہیں دیکھ کر لوگوں سے فرمایا، جو کوئی رسول کریمؐ کے قریبی لوگوں میں سے عظیم المرتبت، قرابت کے لحاظ سے قریب تر، افضل اور عظیم تر حق کے حامل شخص کو دیکھ کر خوش ہونا چاہے وہ اس آنے والے کو دیکھ لے۔ (الصواعق المحرقة: ۲۷۰)

سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے سب سے زیادہ بہادر ہونے سے متعلق سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد پہلے تحریر ہو چکا، اگر انکے مابین کسی قسم کی رنجش ہوتی تو کیا یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی فضیلت بیان فرماتے؟ یہ احادیث مبارکہ ان کی باہم محبت کی واضح مثالیں ہیں۔

سیدنا عمر رضی اللہ عنہ و سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی باہم محبت:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دور فاروقی میں مدائن کی فتح کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد نبوی میں مال غنیمت جمع کر کے تقسیم کرنا شروع کیا۔ امام حسن رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں ایک ہزار درہم نذر کیے۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ تشریف لائے تو انہیں بھی ایک ہزار درہم پیش کیے۔ پھر آپ کے صاحبزادے عبد اللہ رضی اللہ عنہ آئے تو انہیں پانچ سو درہم دیے۔ انہوں نے عرض کی، اے امیر المؤمنین! جب میں ہمد رسالت میں جہاد کیا کرتا تھا اس وقت حسن و حسین بچے تھے اور گلیوں میں کھیلا کرتے تھے۔ جبکہ آپ نے انہیں ہزار ہزار اور مجھے پانچ سو درہم دیے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تم عمر کے بیٹے ہو جبکہ انکے والد علی رضی اللہ عنہ، والدہ فاطمہ الزہراء، نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نانی خدیجہ الکبریٰ، چچا جعفر طیار، بھوپھی ام ہانی، ماموں ابراہیم بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خالہ رقیہ و ام کلثوم و زینب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں۔ اگر تمہیں ایسی فضیلت ملتی تو تم ہزار درہم کا مطالبہ کرتے۔ یہ سن کر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاموش ہو گئے۔

جب اس واقعہ کی خبر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ہوئی تو انہوں نے فرمایا، میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ”عمر اہل جنت کے چراغ ہیں“۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ ارشاد حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچا تو آپ بعض صحابہ کے ہمراہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے اور دریافت کیا، اے علی! کیا تم نے سنا ہے کہ آقا و مولیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اہل جنت کا چراغ فرمایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہاں! میں نے خود سنا ہے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے علی! میری خواہش ہے کہ آپ یہ حدیث میرے لیے تحریر کر دیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ حدیث لکھی، ”یہ وہ بات ہے جس کے ضامن علی بن ابی طالب ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اُن سے جبریل علیہ السلام نے، اُن سے اللہ تعالیٰ نے کہ:

أَنَّ عُمَرَ مِنَ الْخَطَّابِ سِرَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔

عمر بن خطاب اہل جنت کے چراغ ہیں۔“

سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی یہ تحریر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لے لی اور وصیت فرمائی کہ جب میرا وصال ہو تو یہ تحریر میرے کفن میں رکھ دینا۔ چنانچہ آپ کی شہادت کے بعد وہ تحریر آپ کے کفن میں رکھ دی گئی۔ (ازلۃ الخفاء، المریاض المحضرة ج: ۱۸۴)

اگر ان کے مابین کسی قسم کی خصامت ہوتی تو کیا یہ دونوں حضرات ایک دوسرے کی فضیلت بیان فرماتے؟ یہ واقعہ ان کی باہم محبت کی بہت عمدہ دلیل ہے۔

دارقطنی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کوئی بات پوچھی جس کا انہوں نے جواب دیا۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابوالحسن! میں اس بات سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں کہ میں ایسے لوگوں میں رہوں جن میں آپ نہ ہوں۔ (الصواعق المحرقة ۲: ۲۷۲)

اسی طرح جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ”اے اللہ! جس کا میں دوست ہوں اس کے علی بھی دوست ہیں۔ اے اللہ! اس سے دوستی رکھ جو ان سے دوستی رکھے اور اس سے دشمنی رکھ جو ان سے دشمنی رکھے۔“ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اُن سے ملے تو فرمایا، اے ابن ابوطالب! آپ کو مبارک ہو کہ آپ ہر صبح و شام ہر ایمان والے مرد و عورت کے دوست ہیں۔ (مسند احمد، مشکوٰۃ)

دارقطنی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے کہ دو بدو کسی جھگڑے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انکا فیصلہ کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے

ایک بولا، یہ ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا؟ اس پر حضرت عمرؓ نے اسکا گریبان پکڑ لیا اور فرمایا، تیرا براہو۔ تجھے علم ہے کہ یہ کون ہیں؟ یہ تیرے اور ہر مومن کے آقا ہیں اور جس کے یہ آقا نہیں وہ مومن ہی نہیں۔ (الصواعق الخرقہ: ۲۷۲)

اس واقعہ سے بھی اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ کو حضرت علیؓ سے کس قدر محبت تھی۔

حضرت عمرؓ امور سلطنت کے وقت کسی سے نہیں ملتے تھے۔ آپکے صاحبزادے عبداللہؓ نے ملاقات کی اجازت طلب کی تو نہیں ملی۔ اس دوران امام حسنؓ بھی ملاقات کے لیے آگے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابن عمرؓ کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی اجازت نہیں ملے گی۔ یہ سوچ کر واپس جانے لگے۔ کسی نے حضرت عمرؓ کو اطلاع کر دی تو آپ نے فرمایا، انہیں میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آئے تو فرمایا، آپ نے آنے کی خبر کیوں نہ کی؟ امام حسنؓ نے کہا، میں نے سوچا، جب بیٹے کو اجازت نہیں ملی تو مجھے بھی نہیں ملے گی۔

آپ نے فرمایا، وہ عمر کا بیٹا ہے اور آپ رسول اللہؐ کے بیٹے ہیں اس لیے آپ اجازت کے زیادہ حقدار ہیں۔ عمرؓ کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ کے بعد اسکے رسولؐ اور بہریت کے ذریعے ملی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آئندہ جب آپ آئیں تو اجازت لینے کی بھی ضرورت نہیں۔ (الصواعق الخرقہ: ۲۷۲)

ایک اور روایت ملاحظہ فرمائیں جس سے سیدنا عمرو علیؓ، نبیؐ میں محبت کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔ حضرت ابو بکرؓ جب شدید علیل ہو گئے تو آپ نے کھڑکی سے سر مبارک باہر نکال کر صحابہ سے فرمایا، اے لوگو! میں نے ایک شخص کو تم پر خلیفہ مقرر کیا ہے کیا تم اس کام سے راضی ہو؟ سب لوگوں نے متفق ہو کر کہا، اے خلیفہ رسولؐ! ہم بالکل راضی ہیں۔ اس پر سیدنا علیؓ کھڑے ہو گئے اور کہا، وہ شخص اگر عمرؓ نہیں ہیں تو ہم راضی نہیں ہیں۔ سیدنا ابو بکرؓ نے فرمایا، بیشک وہ عمر ہی ہیں۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۵۰، ابن عساکر)

اسی طرح امام محمد باقرؓ حضرت جابر انصاریؓ سے روایت کرتے ہیں کہ جب وصال کے بعد حضرت عمرؓ کو غسل دیکر کفن پہنایا گیا تو حضرت علیؓ تشریف لائے اور فرمانے لگے، ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، میرے نزدیک تم میں سے کوئی شخص مجھے اس (حضرت عمرؓ) سے زیادہ محبوب نہیں کہ میں اس جیسا اعمال نامہ لیکر بارگاہِ الہی میں حاضر ہوں۔ (تلخیص الشافی: ۲۱۹، مطبوعہ ایران)

اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان حضرات میں کس قدر ریا و محبت تھی۔ اور فاروقی تربیت ہی کا نتیجہ تھا کہ جب ایک حاسد شخص نے حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے حضرت علیؓ کے متعلق سوال کیا تو آپ نے ان کی خوبیاں بیان کیں پھر پوچھا، یہ باتیں تجھے بری لگیں؟ اس نے کہا، ہاں۔

آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے ذلیل و خوار کرے۔ جادفغ ہو اور مجھے نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر سکتا ہو کر لے۔ (بخاری باب مناقب علی)

حضرت عمرؓ سے روایت ہے کہ رسول کریمؐ نے فرمایا، ”قیامت کے دن میرے حسب و نسب کے سوا ہر سلسلہ نسب منقطع ہو جائے گا۔“ اسی بناء پر سیدنا عمرؓ نے سیدنا علیؓ سے انکی صاحبزادی سیدہ ام کلثومؓ، نبیؐ کا رشتہ مانگ لیا۔ اور ان سے آپ کے ایک فرزند زیدؓ پیدا ہوئے۔

حضرت علیؓ کا یہ ارشاد بھی قابل غور ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ”جب تم صالحین کا ذکر کرو تو حضرت عمرؓ کو کبھی فراموش نہ کرو۔“ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۵)

سیدنا علیؓ اور عظمتِ شیعین:

سیدنا علیؓ اور حضرت اشعین، نبیؐ میں ایک دوسرے کی خوشی کو اپنی خوشی اور دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھتے تھے۔ شیعہ عالم ملا باقر مجلسی نے جلاء العیون صفحہ ۱۶۸ پر لکھا ہے کہ حضرت علیؓ کو نبی کریمؐ سے سیدہ فاطمہ کا رشتہ مانگنے کے لیے حضرت ابو بکرؓ و عمرؓ نے تامل کیا۔ اسی کتاب میں مرقوم ہے کہ نبی کریمؐ نے سیدہ فاطمہ، نبیؐ کی شادی کے لیے ضروری سامان خریدنے کے لیے سیدنا ابو بکرؓ کو ذمہ داری سونپی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ سیدنا ابو بکرؓ کو رسول کریمؐ کے گھریلو معاملات میں بھی خاص قرب حاصل تھا۔

حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ میں حضرت عمرؓ کی شہادت کے بعد ان کے جسم اقدس کے پاس کھڑا تھا کہ ایک صاحب نے میرے پیچھے سے آ کر میرے کندھے پر اپنی کہنی رکھی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے! بے شک مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے دونوں دوستوں (یعنی حضور اکرمؐ اور ابوبکر صدیقؓ) کا ساتھ عطا کرے گا کیونکہ میں نے بار بار رسول کریمؐ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ 'میں تھا اور ابوبکر و عمرؓ میں نے یہ کہا اور ابوبکر و عمر نے'، میں چلا اور ابوبکر و عمرؓ میں داخل ہوا اور ابوبکر و عمرؓ میں نکلا اور ابوبکر و عمرؓ (رضی اللہ عنہما) میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ حضرت علیؓ کرم اللہ وجہہ تھے۔ (بخاری کتاب السائب، مسلم کتاب الفہائل الصحابہ)

اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ سیدنا علیؓ کرم اللہ وجہہ تھے اور رسول کریمؐ سے خصوصی قرب و محبت کے باعث سیدنا ابوبکر و عمرؓ رضی اللہ عنہما سے دلی محبت رکھتے تھے۔ ایک شخص نے حضرت علیؓ سے دریافت کیا، میں نے خطبہ میں آپ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ 'اے اللہ! ہم کو ویسی ہی صلاحیت عطا فرما جیسی تو نے ہدایت یافتہ خلفائے راشدین کو عطا فرمائی تھی'۔ ازراہ کرم آپ مجھے ان ہدایت یاب خلفائے راشدین کے نام بتادیں۔ یہ سن کر حضرت علیؓ آبدیدہ ہو گئے اور فرمایا،

وہ میرے دوست ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہما تھے۔ ان میں سے ہر ایک ہدایت کا امام اور شیخ الاسلام تھا۔ رسول کریمؐ کے بعد وہ دونوں قریش کے مقتدی تھے، جس شخص نے ان کی پیروی کی وہ اللہ تعالیٰ کی جماعت میں داخل ہو گیا۔ (تاریخ الخلفاء: ۲۶۷)

یہی واقعہ شیعہ حضرات کی کتاب تلخیص الشافی جلد ۳ صفحہ ۳۱۸ پر امام جعفر صادقؓ نے امام محمد باقرؓ سے روایت کیا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ بات صحیح روایات سے ثابت اور تو اتر سے نقل ہوتی چلی آئی ہے کہ حضرت علیؓ اپنی خلافت کے زمانے میں اپنے رفقاء کے سامنے حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی تعریف و توصیف کے ساتھ ساتھ ان کی افضلیت کو برملا اور علانیہ بیان کرتے رہے ہیں۔

علامہ ذہبی رحمہ اللہ نے اسی (۸۰) سے زیادہ حضرات سے صحیح سندوں کے ساتھ ثابت کیا ہے اور صحیح بخاری کے حوالے سے بھی بیان کیا ہے کہ حضرت علیؓ نے فرمایا، نبی کریمؐ کے بعد سب لوگوں سے افضل ترین ابوبکرؓ ہیں پھر عمرؓ۔ آپ کے صاحبزادے محمد بن حنفیہؓ نے کہا، پھر آپ؟ تو آپ نے فرمایا، میں ایک عام مسلمان ہوں۔ (تکمیل الایمان: ۱۶۶)

سیدنا علیؓ نے انہیں سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما سے افضل کہنے والوں کے لیے دُڑوں کی سزا تجویز فرمائی ہے، شیعہ حضرات کی اسماء الرجال کی معتبر کتاب رجال کشی کا حوالہ ملاحظہ فرمائیں۔ سفیان ثوری، محمد بن سکندر، جہاد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علیؓ کو کوفہ کے منبر پر بیٹھے ہوئے دیکھا کہ وہ فرما رہے تھے، اگر میرے پاس کوئی ایسا شخص آئے جو مجھے ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما پر فضیلت دینا ہو تو میں اس کو ضرور دُڑے لگاؤں گا جو کہ بہتان لگانے والے کی سزا ہے۔

(تکمیل الایمان: ۱۶۶، سنن دارقطنی، رجال کشی: ۳۳۸ مطبوعہ کربلا)

اسی کتاب میں سیدنا علیؓ کا فتویٰ موجود ہے کہ 'حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کی محبت ایمان ہے اور ان کا بغض کفر ہے'۔ (رجال کشی: ۳۳۸) پھر اعلیٰ حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں، محبت علیؓ مر تظنیؓ کا بھی تقاضا ہے کہ محبوب کی اطاعت کیجیے (یعنی سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کو ساری امت سے افضل مانیے) اور اُس کے غضب اور اُستی کو ڈوں کے استحقاق سے بچئے۔ (اعتقاد الاحباب: ۵۶)

شیعہ حضرات یہ کہہ کر انکار کر دیتے ہیں کہ 'یہ ساری باتیں تقیہ کے طور پر کہی گئی تھیں۔ یعنی حضرت علیؓ حضرت شیخین کی تعریف محض جان کے خوف اور دشمنوں کے ڈر سے کیا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہ کرتے تو ان کی جان کو خطرہ تھا مگر دلی طور پر حضرت علیؓ حضرت شیخین کے خلاف تھے'۔

شیعوں کے اس بیان میں قطعاً کوئی صداقت نہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علیؓ جو شیر خدا تھے اور مردِ دائرہ حق تھے، اتنے بزدل، مغلوب اور عاجز ہو گئے تھے کہ وہ حق بیان کرنے سے قاصر رہے اور ساری زندگی خوف و عجز میں گزار دی، پھر اسد اللہ الغالب کا لقب کیا معنی رکھتا ہے؟" (تکمیل



سیدنا علی المرتضیٰ حیدر کرار رضی اللہ عنہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والے آپ کا یہ ارشاد بھی دل کے کانوں سے سن لیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تمام لوگوں میں ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سب سے بہتر ہیں۔ کسی مومن کے دل میں میری محبت اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما عبا کا بغض کبھی یکجا نہیں ہو سکتے۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۲۲، طبرانی فی الاوسط)

حضرات شیخین رضی اللہ عنہما اور ائمہ اہلبیت:

امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اپنے والد امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص میرے والد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور بولا، مجھے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کچھ بتائیں۔ آپ نے فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے متعلق؟ اس نے کہا، آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، تجھے تیری ماں روئے! رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین و انصار صحابہ کرام نے ان کا نام صدیق رکھا ہے اور جو انہیں صدیق نہ کہے، اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسکی بات کو سچا نہ کرے۔ یہاں سے چلا جا اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے محبت رکھ۔

دارقطنی رحمہ اللہ نے عبد اللہ سے روایت کی ہے کہ میں نے امام محمد باقر رضی اللہ عنہ سے تلو اور کوطع کروانے کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی تلو اور کوطع کروایا ہوا تھا۔ میں نے کہا، آپ انہیں صدیق کہتے ہیں؟ فرمایا، ہاں وہ صدیق ہیں، ہاں وہ صدیق ہیں اور جو انہیں صدیق نہ کہے اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں اسکی بات کو سچا نہ کرے۔

اسی طرح امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا یہ قول بھی بیان ہوا ہے کہ جیسے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شفاعت کی امید رکھتا ہوں ویسے ہی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بھی شفاعت کی امید رکھتا ہوں۔ انہوں نے مجھے دو بار جتنا ہے۔ (الصواعق المحرقة: ۷۸، ۷۹)

دو بار جتنے کا مفہوم یہ ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی والدہ ام فروہ کے والد قاسم بن محمد بن ابو بکر اور انکی والدہ اسماء بنت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا، جو شخص سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو بھلائی کے ساتھ نہ یاد کرے، میں اُس شخص سے بالکل بیزار اور الگ ہوں۔ (تاریخ الخلفاء: ۱۹۷)

حضرت زید بن علی رضی اللہ عنہ کے پاس رافضی آئے اور کہا، آپ حضرات شیخین یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے بیزاری اظہار کریں تو ہم آپ سے بیعت کر لیں گے۔ آپ نے انکار کر دیا اور فرمایا، خارجیوں نے سب سے اظہار بیزاری کیا مگر سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما کے متعلق وہ کچھ نہ کہہ سکے۔ جبکہ تم لوگوں نے خوارج سے بھی اوپر چھلانگ لگا کر ان دونوں سے بیزاری کا اظہار کر دیا۔ اب باقی کون رہا؟ خدا کی قسم! تم نے سب سے بیزاری کا اظہار کر دیا ہے۔ (الصواعق المحرقة: ۷۹)

آپ نے یہ بھی فرمایا، میں نہیں جانتا کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے کون بیزاری کا اظہار کرتا ہے؟ خدا کی قسم! سیدنا ابو بکر و سیدنا عمر رضی اللہ عنہما سے بیزاری کا اظہار کرنا سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے بیزاری کا اظہار ہے خواہ کوئی پہلے کرے یا بعد میں کرے۔

دارقطنی رحمہ اللہ نے سالم بن ابی حفصہ سے بیان کیا جو کہ شیعہ ہے مگر ثقہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے امام ابو جعفر محمد باقر اور امام جعفر صادق رضی اللہ عنہما سے حضرات شیخین رضی اللہ عنہما کے بارے میں دریافت کیا تو دونوں نے یہ جواب دیا، اے سالم! ان دونوں (یعنی ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما) سے محبت رکھ اور ان کے دشمنوں سے اظہار بیزاری کر کیونکہ یہ دونوں امام ہدایت ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۸۰)

اسی سے یہ روایت بھی ہے کہ میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، وہ بیمار تھے۔ انہوں نے ارشاد فرمایا، ”میں سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما سے دوستی اور محبت رکھتا ہوں۔ اے اللہ! اگر اس کے سوا میرے دل میں کوئی اور بات ہو تو مجھے قیامت میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو۔“ یہ آخری جملہ شیعہ راوی پر اتمام حجت کے لیے فرمایا کیونکہ وہ ایسے اقوال سن کر کہہ دیتے ہیں کہ انہوں نے تقیہ کیا تھا۔ (ایضاً)

جب امام باقرؑ سے پوچھا گیا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایسی باتیں تھیہ کے طور پر کہتے ہیں اور آپ کے دل میں اسکے خلاف باتیں ہیں تو آپ نے فرمایا، خوف زندوں سے ہوا کرتا ہے، قبر والوں سے نہیں ہوتا۔ (تکمیل الایمان: ۱۶۸)

امام محمد باقرؑ سے پوچھا گیا کہ سیدنا ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم! میں ان سے محبت رکھتا ہوں اور میرے علم کے مطابق تمام اہلبیت بھی ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں۔ (الصواعق المحرقة: ۸۱)

امام زین العابدینؑ کا فتویٰ:

امام ابو جعفر محمد باقرؑ نے اپنے والد حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے ایک گروہ دیکھا جو خلفائے ثلاثہ کو برا کہنے میں مصروف تھا۔ آپ نے ان سے فرمایا، کیا تم اولین مہاجرین میں سے ہو جنکے متعلق یہ آیت نازل ہوئی ہے؟

أَلْبَدِينَ أُخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَ أَمْوَالِهِمْ يَنْتَعُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَ رِضْوَانًا وَ يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَ رِسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ ○ (الحشر: ۸)

جو اپنے گھروں اور مالوں سے نکالے گئے، اللہ کا فضل اور اسکی رضا چاہتے اور اللہ ورسول کی مدد کرتے، وہی سچے ہیں۔ (کنز الایمان)

انہوں نے کہا، نہیں! ہم وہ لوگ نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر کیا تم اس آیت کا مصداق ہو (جو انصار کی شان میں نازل ہوئی)؟

وَالَّذِينَ تَبَوَّؤُا الدَّارَ وَ الْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَ لَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَ يَتُورُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ○ وَ مَنْ يُوقِ شَحْنُ نَفْسِهِ قَاوُلِيكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ○

”اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے گئے، اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے اس چیز کی جو (مہاجرین کو اموال غنیمت) دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان (مہاجرین) کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ انہیں شدید محتاجی ہو، اور جو نفس کے لالچ سے بچا گیا ہو تو وہی کامیاب ہیں۔“ (الحشر: ۹، کنز الایمان)

انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ امام زین العابدین علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے فرمایا،

تم نے خود ان دو گروہوں مہاجرین و انصار میں سے نہ ہونے کا اعتراف کر لیا اور میں کو ابھی دیتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے بھی نہیں ہو جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے۔ (الصواعق المحرقة: ۸۱)

وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِأَخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَ لَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ ○ (الحشر: ۱۰)

”اور وہ جو ان (مہاجرین و انصار صحابہ کرامؓ) کے بعد آئے، عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب! ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ۔ اے رب ہمارے بیشک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔“ (کنز الایمان)

کیونکہ ان آیات میں مومنوں کی تین ہی قسمیں بیان ہوئیں۔ مہاجرین، انصار اور انکے بعد والے جو انکے تابع ہوں اور انکی طرف دل میں کوئی کدورت نہ رکھیں اور انکے لیے دعائے مغفرت کریں۔ پس جو صحابہؓ سے کدورت اور بغض رکھے، رافضی ہو یا خارجی، وہ مسلمانوں کی ان تینوں قسموں سے خارج ہے۔

رب تعالیٰ حق کو سمجھنے کی اور حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب رسول ﷺ،

انکے اہلبیت اور انکے اصحاب کی سچی محبت اور تعظیم نصیب فرمائے۔

آمین بجاہ النبی الکریم علیہ وعلی الہ واصحابہ الفضل الصلوٰۃ والسلام۔

## مآخذ ومراجع

- ١- قرآن كريم  
٢- كنز الايمان (ترجمه)  
الله تبارك وتعالى جل جلاله  
امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠ هـ)

## كتب تناسير

- ٣- تنوير الحقياس سيدنا عبد الله بن عباس رض الله عنه (٢٨ هـ)  
٤- جامع البيان امام ابو جعفر ابن جرير الطبري (٣١٠ هـ)  
٥- معالم التنزيل امام ابو محمد الحسين المغوي (٥١٦ هـ)  
٦- التفسير الكبير امام فخر الدين محمد الرازي (٦٠٦ هـ)  
٧- الجامع لاحكام القرآن امام محمد مالكي القرطبي (٦٦٨ هـ)  
٨- تفسير حازن امام علي بن محمد حازن (٤٢٥ هـ)  
٩- تفسير القرآن العظيم امام عماد الدين ابن كثير (٤٤٣ هـ)  
١٠- الدر المنثور امام جلال الدين السيوطي (٩١١ هـ)  
١١- روح البيان علامه اسماعيل حقي حفي (١١٣٤ هـ)  
١٢- تفسير مطهري علامه قاضي ثناء الله حفي (١٢٢٥ هـ)  
١٣- روح المعاني علامه سيد محمود آلوسي (١٢٤٠ هـ)  
١٤- جزائن العرفان علامه سيد محمد نعيم الدين (١٣٢٤ هـ)  
١٥- نور العرفان مفتي احمد يار خان نعيمى (١٣٩١ هـ)  
١٦- تفسير صياء القرآن جسٹس پير محمد كرم شاه الازهرى  
١٧- تفسير نجوم الفرقان علامه مفتي عبدالرزاق بهتر الوي

## كتب احاديث وشرح

- ١٨- مسند الامام الاعظم امام ابو حنيفة نعمان بن ثابت (١٥٠ هـ)  
١٩- مؤطا للامام مالك امام مالك بن انس المدني (١٤٩ هـ)  
٢٠- مصنف عبدالرزاق امام عبدالرزاق بن يمام (٢١١ هـ)  
٢١- مصنف ابن ابي شيبة امام عبدالله بن محمد الكوفي (٢٣٥ هـ)  
٢٢- مسند الامام احمد امام احمد بن حنبل الشيباني (٢٤١ هـ)  
٢٣- سنن دارسي امام ابو محمد عبدالله دارسي (٢٥٥ هـ)  
٢٤- الصححيح للمخاري امام محمد بن اسماعيل بخاري (٢٥٦ هـ)

٢٥- الصحيح للمسلم	امام مسلم بن حجاج القشيري (٥٢٢١)
٢٦- الجامع للترمذي	امام محمد بن عيسى الترمذي (٥٢٤٩)
٢٧- السنن لابي داؤد	امام ابو داؤد سليمان بن اشعث (٥٢٤٥)
٢٨- السنن لابن ماجه	امام محمد بن يزيد بن ماجه (٥٢٤٣)
٢٩- مسند المزار	امام احمد عمرو بن عبد الخالق بن زار (٥٢٩٢)
٣٠- السنن للنسائي	امام احمد بن شعيب النسائي (٥٣٠٣)
٣١- مسند ابو يعلى	امام احمد بن علي التميمي (٥٣٠٤)
٣٢- صحيح ابن حبان	امام محمد بن حبان التميمي (٥٣٥٣)
٣٣- المعجم الكبير	امام سليمان بن احمد الطبراني (٥٣٦٠)
٣٤- المعجم الاوسط	امام سليمان بن احمد الطبراني (٥٣٦٠)
٣٥- المعجم الصغير	امام سليمان بن احمد الطبراني (٥٣٦٠)
٣٦- سنن الدارقطني	امام علي بن عمر الدارقطني (٥٣٨٥)
٣٧- المستدرک	امام محمد بن عبدالله الحاكم (٥٤٠٥)
٣٨- دلائل النبوة	امام ابو نعيم احمد بن عبدالله (٥٤٣٠)
٣٩- السنن الكبرى	امام احمد بن حسين الميهقي (٥٤٥٨)
٤٠- دلائل النبوة	امام احمد بن حسين الميهقي (٥٤٥٨)
٤١- شعب الایمان	امام احمد بن حسين الميهقي (٥٤٥٨)
٤٢- مشکوة المصابيح	امام ولي الدين محمد بن عبدالله (٥٤٣٢)
٤٣- مجمع الزوائد	امام نور الدين علي الهيثمي (٥٨٠٤)
٤٤- الجامع الصغير	امام جلال الدين السيوطي (٥٩١١)
٤٥- حصائص الكبرى	امام جلال الدين السيوطي (٥٩١١)
٤٦- شرح صحيح مسلم	امام يحيى بن شرف نووي (٥٦٤٢)
٤٧- عمدة القاري	امام بدر الدين عيني حنفي (٥٨٥٥)
٤٨- فتح الباري	امام احمد بن حجر عسقه الانبي (٥٨٥٢)
٤٩- برقاة شرح مشکوة	علامه علي بن سلطان القاري (١٠١٣)
٥٠- اشعة اللمعات	شيخ عبد الحق محدث دهلوي (١٠٥٢)
٥١- برآة شرح مشکوة	مفتي احمد يار حان نعيمى (١٣٩١)
٥٢- نزاهة القاري	علامه شريف الحق اسجدى (١٣٢١)

### كتب سيرت وتاريخ ومنتزعه

٥٣- السيرة النبوية	امام عبدالملك بن هشام (٥٢١٣)
٥٤- الطلقات الكبرى	امام محمد بن سعد الزهري (٥٢٣٠)

٥٥- فصائل الصحابة	امام احمد بن شعيب النسائي (٥٣٠٣)
٥٦- تاريخ الاسم والملوك	علامه ابو جعفر ابن جرير الطبري (٥٣١٠)
٥٧- استيعاب	حافظ ابو عمرو ابن عبد البر مالكي (٥٣٢٣)
٥٨- كتاب الشفاء	امام قاضي عياض مالكي (٥٣٣٣)
٥٩- تاريخ دمشق الكبير	حافظ ابو القاسم علي ابن عسماكر (٥٥٤١)
٦٠- اسد الغابه	علامه علي المعروف بابن الاثير (٥٦٣٠)
٦١- الكامل في التاريخ	علامه علي المعروف بابن الاثير (٥٦٣٠)
٦٢- الرياض النضرة	علامه ابو جعفر احمد الطبري (٥٦٩٣)
٦٣- شفاء السقام	علامه علي تقي الدين سبكي (٥٤٣٦)
٦٤- المدايه والنهايه	امام عماد الدين ابن كثير (٥٤٤٣)
٦٥- شرح عقائد نسفي	علامه سعد الدين مسعود قفنازاني (٥٤٩١)
٦٦- تاريخ ابن خلدون	علامه عبد الرحمن ابن خلدون (٥٨٠٨)
٦٧- الاصابه	امام احمد ابن حجر عسقلاني (٥٨٥٢)
٦٨- لسان الميزان	امام احمد ابن حجر عسقلاني (٥٨٥٢)
٦٩- المواهب اللدنيه	علامه احمد بن محمد قسطلاني (٥٩١١)
٧٠- وفاء الوفاء	علامه نور الدين علي سمهودي (٥٩١١)
٧١- تاريخ الخلفاء	امام جلال الدين سيوطي (٥٩١١)
٧٢- الصواعق المحرقة	علامه احمد بن حجر سبكي (٥٩٤٣)
٧٣- مدارج النور	شيخ عبد الحق محدث دهلوي (١٠٥٢)
٧٤- جذب القلوب	شيخ عبد الحق محدث دهلوي (١٠٥٢)
٧٥- تكميل الايمان	شيخ عبد الحق محدث دهلوي (١٠٥٢)
٧٦- ازالة الخفاء	شاه ولي الله محدث دهلوي (١١٤٩)
٧٧- تحفه اثنا عشرية	شاه عبد العزيز محدث دهلوي (١٢٢٩)
٧٨- عرفان شريعت	امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠)
٧٩- عقائد الاحباب	امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠)
٨٠- حدائق بخشش	امام احمد رضا محدث بريلوي (١٣٣٠)
٨١- الشرف المؤبد	علامه يوسف بن اسماعيل نمهاني (١٣٥٠)
٨٢- سوانح كورلا	علامه سيد محمد نعيم الدين (١٣٢٤)
٨٣- سهار شريعت	علامه محمد اسجد علي قادري (١٣٤٦)

### کتاب شيعه

- ٨٥- الاصول من الكافي ابو جعفر محمد كليني (٥٢٢٩)
- ٨٦- التبيان في تفسير القرآن ابو جعفر محمد طوسي (٥٢٨٥)
- ٨٧- تلخيص الشافعي ابو جعفر محمد طوسي (٥٢٨٥)
- ٨٨- مجمع البيان ابو علي فضل بن حسن طبرسي (٥٥٢٨)
- ٨٩- شرح نهج البلاغة كمال الدين سيثم المحراني (٥٢٤٩)
- ٩٠- رجال كشي ابو عمرو محمد بن عمر (٥٢١٥)
- ٩١- جلاء العيون سلا ناقر مجلسي (٥١١٠)

## یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہلبیت

از: استاذ زکریا مولانا حسن رضا بریلوی طبرہ ۱۸۷۲

باغ جنت کے ہیں بہر مدح خوان اہلبیت  
 تم کو مژدہ مار کا اے دشمنان اہلبیت  
 کس زباں سے ہو بیان عزو شان اہلبیت  
 مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خوان اہلبیت  
 ان کی پاکی کا خدائے پاک کرنا ہے بیاں  
 آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہلبیت  
 مصطفیٰ عزت بڑھانے کے لئے تعظیم دیں  
 ہے بلند اقبال تیرا دروہان اہلبیت  
 ان کے گھر میں بے اجازت جبرئیل آتے نہیں  
 قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہلبیت  
 مصطفیٰ بائع خریدار اس کا اللہ مشتری  
 خوب چاندی کر رہا ہے کاروان اہلبیت  
 رزم کا میدان بنا ہے جلوہ گاہ حسن و عشق  
 کربلا میں ہو رہا ہے امتحان اہلبیت  
 کس مزے کی لذتیں ہیں آپ تیغ یار میں  
 خاک و خون میں لومٹے ہیں تشنگان اہلبیت  
 باغ جنت چھوڑ کر آئے ہیں محبوب خدا  
 اے زہے قسمت تمہاری کشنگان اہلبیت  
 حوریں بے پردہ نکل آئی ہیں سرکھولے ہوئے  
 آج کیسا حشر ہے برپا میان اہلبیت  
 گھر لٹا جان دینا کوئی تجھ سے سیکھ جائے  
 جان عالم ہوندا اے خاندان اہلبیت  
 مرشیدان محبت کے ہیں نیزوں پر بلند  
 اور اونچی کی خدانے قدر و شان اہلبیت  
 دولت دیدار پائی پاک جانیں بچ کر  
 کربلا میں خوب ہی چٹکی دوکان اہلبیت  
 اپنا سودا بچ کر بازار سونا کر گئے  
 کوئی بستی بسائی تاجران اہلبیت  
 اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باکیاں  
 لعدنہ اللہ علیکم دشمنان اہلبیت  
 پھول زخموں کے کھلائے ہیں ہوائے دوست نے  
 خون سے سینچا گیا ہے گلستان اہلبیت  
 فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے  
 حشر کا چنگامہ برپا ہے میان اہلبیت  
 کوئی کیوں پوچھے کسی کو کیا غرض اے بیکسی  
 آج کیسا ہے مریض نیم جان اہلبیت

بے اور ب گستاخ فرتے کو سنا دے اے  
 یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہلبیت